

اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے  
اصلاحی بیانات کا نایاب تحفہ

# میلے کی ضرورت

جلد اول

مؤلفہ

ذو جہد اقبال عطار زیدی

زیر نگرانی

علامہ محمد اقبال عطار زیدی

اکبر پبلشرز  
لاہور





اسلامی بہتوں کے  
سنتوں بھرے اصلاحی بیانات کا نایاب تحفہ

# میلگت کی ضرورت

جلد اول

مؤلف

زوجہ اقبال عطار زید

زیر نگرانی

علامہ محمد اقبال عطار می

اکبر پبلشرز

زینت پور ۳۰ اردو بازار لاہور Ph: 37352022

﴿جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں﴾

.....	مبلغات کی ضرورت (جلد اول)	نام کتاب
.....	اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اصلاحی بیانات	موضوع
.....	زوجہ علامہ محمد اقبال عطاری	مؤلفہ
.....	علامہ محمد اقبال عطاری	باہتمام
.....	344	صفحات
.....	عبدالسلام، قمر الزمان	کمپوزنگ
.....	2010ء	اشاعت
.....	محمد اکبر قادری	ناشر
.....	200 روپے	قیمت

ملنے کے پتے

- ☆ کراچی اسلامی ورائٹی ہاؤس بوچڑ خانہ روڈ سیالکوٹ
- ☆ حافظ بک ایجنسی اقبال روڈ سیالکوٹ
- ☆ اسلامک بک کارپوریشن، اقبال روڈ، راولپنڈی
- ☆ مکتبہ المجاہد، بھیرہ شریف
- ☆ الرضا کیسٹ ہاؤس، اندرون بوہڑ گیٹ، ملتان



## انتساب

بانی دعوتِ اسلامی، مجددِ دین و ملت، ریحانِ ملت  
 عاشقِ اعلیٰ حضرت، شیخِ شریعت، شیخِ طریقت  
 امیرِ دعوتِ اسلامی، امیرِ اہل سنت، مرشدی حضرت علامہ مولانا

ابوالبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی مدظلہ

کے نام

زوجہ علامہ محمد اقبال عطاری

## عرض مصنفہ

اللہ رب العزت عزوجل کا ہم پر کتنا کرم ہے کہ ہمیں اللہ عزوجل نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و غلامی سے بہرہ مند فرمایا۔ اور سب سے بڑی نعمت علم عطا فرمایا اور اس کی اشاعت کا بھی موقع عطا فرمایا۔ اللہ عزوجل کی توفیق سے جو بیانات میں نے جمع کیے اس میں میری خصوصی معاونت محترمہ عالمیہ قاریہ تنزیلہ عطاریہ مدرس جامعہ صفیہ عطاریہ پکی کوٹلی لوران کی چھوٹی بہن حاجی رضیہ صاحبہ نے فرمائی ہے۔ اللہ عزوجل ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے قارئین کو میری یہ کتاب مبلغات کی ضرورت انشاء اللہ بڑی پسند آئے گی۔ اللہ عزوجل میرے تمام معاونین خصوصاً اکبر بک سیلرز لاہور اور محترمہ عالمہ قاریہ حاجی فوزیہ بتول پرنسپل جامعہ غوثیہ رضویہ پکا گڑھا اور محترمہ حاجی بنت فقیر حسین عطاریہ پرنسپل جامعہ منڈیر شریف سیالکوٹ اور تمام دوسرے معاونین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔

کنیز در مرشد

زوجہ علامہ محمد اقبال عطاری  
مدرس جامعہ صفیہ عطاریہ للبنات پکی کوٹلی  
(سیالکوٹ)




## فہرست

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۳	ہر ہر قدم پر ایک نیکی	۳	انتساب
۳۳	کشتی میں نیکیاں ہی نیکیاں	۴	عرضِ مصنفہ
۳۴	زہر قاتل بے اثر ہو گیا	۱۵	تقریظ
۳۴	خوفناک زہر	۱۸	تقریظ
۳۵	کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھے	۲۰	تقریظ
۳۶	کھانے کو شیطان سے بچاؤ	۲۲	تقریظ
۳۶	بِسْمِ اللّٰهِ اَوْلٰئِهٖ وَاٰخِرَتِهٖ	(۱) بِسْمِ اللّٰهِ کے فضائل و اہمیت	
۳۷	شیطان نے کھانا اُگل دیا	۲۴	فضیلتِ دورِ پاک
۳۷	نگاہِ مصطفیٰ سے کچھ پوشیدہ نہیں	۲۴	ادھورا کام
۳۸	76 ہزار نیکیاں	۲۵	بِسْمِ اللّٰهِ پڑھے جائیے
	بوقتِ ذبح الرحمن الرحیم نہ پڑھنے	۲۵	جنات سے سامان کے حفاظت کا طریقہ
۳۸	کی حکمت	۲۶	بِسْمِ اللّٰهِ درست پڑھیے
۳۹	اُنیس حروف کی حکمتیں	۲۶	کھلبلی مچ گئی
۳۹	قبر سے عذاب اٹھ گیا	۲۷	بِسْمِ اللّٰهِ کی "ب" کی جامعیت
	(۲) فضیلتِ تلاوتِ القرآن	۲۷	اسمِ اعظم
۴۲	فضیلتِ دورِ پاک	۲۸	اسمِ اعظم کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے
۴۳	اللہ والے کون ہیں؟	۲۸	پُر اسرارِ بڑھا اور کالا جن
۴۴	حافظ قرآن کی فضیلت	۳۲	بِسْمِ اللّٰهِ کیجئے کہنا ممنوع ہے
	حافظ قرآن کو ناراض کرنے سے اللہ تعالیٰ	۳۳	بِسْمِ اللّٰهِ کہنا کب کفر ہے
۴۵	کا غضب	۳۳	فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں


صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۶۹	ابر رحمت	۴۶	پیاری اسلامی بہنو! تلاوت قرآن کا اجر و ثواب
۶۹	دم بدم صل علی!	۴۶	قوموں کے عروج و زوال
۷۸	(۴) اللہ عزوجل کے ذکر کی فضیلت و اہمیت	۴۷	قرآن کریم پڑھنے والے کی اور نہ پڑھنے والی کی مثال
۸۰	فضیلت دورد پاک	۴۹	تلاوت قرآن نزول رحمت اور تسکین کا سبب ہے
۸۱	ہر چیز تسبیح کرتی ہے!	۵۰	سورۃ البقرہ پڑھنے کا ثواب
۸۱	غافل جانور ذبح کر دیا جاتا ہے!	۵۰	سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھنے کا ثواب
۸۱	غافل پرندے کی سزا!	۵۱	سورۃ یسین پڑھنے کا ثواب
۸۲	غافل مچھلیاں اور دانا بچی!	۵۱	سورۃ ملک پڑھنے کا ثواب
۸۳	ذکر تین طرح کا ہوتا ہے!	۵۳	پیاری اسلامی بہنو! قرآن نہ پڑھنے اور اس کی طرف عدم توبہ کی سزا
۸۳	رات بھر فرشتہ حفاظت کرتا ہے!	۵۳	(۳) فضائل درود و سلام
۸۳	اللہ عزوجل بھی ذاکر کا ذکر کرتا ہے!	۵۷	فضیلت دورد پاک
۸۳	اللہ عزوجل اپنے ذاکر کا ذکر فرماتا ہے!	۶۳	سعادت عظمیٰ
۸۵	جہاں ذکر ہوتا ہے ہر چیز گواہ ہو جاتی ہے!	۶۳	حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مہر دس بار
۸۵	ذکر اللہ کے لئے کوئی مقام مخصوص نہیں!	۶۳	درود شریف
۸۶	اللہ اللہ کرنے والا ہی محبت میں بیٹھے	۶۳	امداد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
۸۶	جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور تائی	۶۳	تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید کرا دی!
۸۶	غافل کی روح دنیا سے پیاسی جاتی ہے	۶۶	سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ چوم لیا!
۸۷	ذکر میں دل نہیں لگتا	۶۸	دورد پاک تمام اعمال سے افضل ہے!
	(۵) فضیلت نماز اور اہمیت نماز	۶۸	ایک لاکھ ساٹھ ہزار حج کا ثواب!
۹۰	فضیلت دورد پاک		
۹۱	ہر نماز اپنے وقت میں ہی پڑھنا چاہئے		
۹۲	نماز بڑھیا کی ایمان افروز حکایت		
	ہر نماز پچھلی نماز کے بعد ہونے والے گناہ مٹا		





عنوان	صفحہ	عنوان
میٹھی میٹھی اسلامی بہنو	۹۳	دیتی ہے
(۶) بے نمازی کا استحباب پاکستان	۹۳	نماز سے گناہ دھلتے ہیں
فضیلت دوروپاک	۹۴	عیسیٰ علیہ السلام اور میلا کچھلا جانور
بے نمازی کی سزائیں	۹۴	فخر کی نماز کی فضیلت
نماز کی برکتیں	۹۵	شیطان کا ساتھی
بے نمازی کا ہولناک انجام	۹۵	نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی فضیلت
نماز قضا کرنے کی سزا	۱۱۰	فجر و عشاء چالیس دن باجماعت پڑھنے والا
سر کھلنے کی سزا	۹۵	جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے
جہنم میں جانے کا حکم	۹۶	دوزخ سے آزادی
قبر میں آگ کے شعلے	۹۶	چور بھی اگر صبح نماز پڑھے تو سدھر سکتا ہے
ہولناک کنواں	۹۶	ایک عجیب و غریب واقعہ
دنیوی کنواں	۹۹	نماز ایمان کی علامت ہے
حکایت	۹۹	نماز کا خوب خیال رکھو
خوفناک سانپ اور نچر نما بچھو	۹۹	رحمت ہی رحمت
قارون کے ساتھ حشر	۹۹	نماز کی برکت سے گھوڑا زندہ ہو گیا
جان لیوا خراش	۱۰۰	بچہ سات برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو
مقام غور	۱۰۰	منا انگاروں سے کھیلتا رہا
بے نمازی سے شیطان بھی بھاگتا ہے	۱۰۲	نماز کے بغیر آدمی کس کام کا؟
پندرہ خوفناک سزائیں	۱۰۳	نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے
حکایت	۱۰۴	شیر سامان کی حفاظت کرتا رہا
بھیانک قبر میں	۱۰۵	ستر ہزار فرشتے ساتھ ساتھ نماز پڑھتے ہیں
شرابی کا انجام	۱۲۱	پہاڑ کی چوٹی پر اذان دے کر تنہا نماز پڑھنے
خنزیر نما مردہ	۱۰۵	والا جنتی ہو جاتا ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۳۴	عورتیں دوزخ میں زیادہ ہوں گی	۱۲۱	آگ کی کیلیں
	شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب	۱۲۲	آگ کی لپیٹ میں
۱۳۵	ہو گیا	۱۲۲	جوانی میں توبہ کا انعام
۱۳۶	تم نے ابھی ابھی گوشت کھایا ہے	۱۲۲	بچھونما خطرناک جانور
۱۳۷	مردار خور جہنمی		(۷) غیبت کی تباہ کاریاں
۱۳۸	مردار کا گوشت کھانا آسان نہیں	۱۲۳	فضیلت دورد پاک
۱۳۸	جہنمی بندر و خنزیر	۱۲۳	غیبت کی تعریف بہار شریعت میں
۱۳۹	چار نصیحتیں	۱۲۵	غیبت کی تعریف ابن جوزی
۱۳۹	غیبت ایمان کے لئے نقصان دہ ہے	۱۲۵	غیبت کیا ہے
۱۳۹	کفر پر مرنے والے کے عذاب قبر کی کیفیت	۱۲۶	اکثر گھر میدان جنگ بنے ہوئے ہیں
۱۴۰	جہنم ہمیشہ رہنے کی لرزہ خیز کیفیت	۱۲۷	سینوں سے لٹکے ہوئے لوگ
۱۴۱	نقلی عبادت نہ کرنی والے سے نفرت کرنا کیسا؟	۱۲۷	تانبے کے ناخن
۱۴۳	غیبت مت کرو	۱۲۷	عورتیں زیادہ غیبتیں کرتی ہیں
۱۴۳	غیبت کے انداز	۱۲۸	پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر کھلانے کا عذاب
۱۴۵	نابالغ کی غیبت	۱۲۸	قیامت میں مردہ بھائی کا گوشت کھلایا جائیگا
۱۴۶	کس بچے کی غیبت جائز ہے اور کس کی ناجائز؟	۱۲۹	زبان جلنے سے محفوظ رہے گی
۱۴۷	چھوٹے بچے کی غیبت کی ۷ مثالیں	۱۳۰	نماز و روزہ کی نورانیت گئی
۱۴۷	بچوں کو غیبت مت کرنے دیجئے	۱۳۰	کیا غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے
۱۴۸	بچوں کی فریادرسی کیجئے	۱۳۱	کھولتے پانی اور آگ کے درمیان دوڑنے والا
۱۴۹	بچوں سے صادر ہونے والی غیبت کی ۲۲ مثالیں	۱۳۱	خوف گناہ ہو تو ایسا
۱۴۹	بچوں کو چھوٹے بہلاوے مت دیجئے	۱۳۲	تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے
۱۵۰	غیبت کی تباہ کاریاں ایک نظر میں	۱۳۲	غیبت بہت بڑا گناہ ہے
۱۵۱	غیبت کے خلاف اعلان جنگ	۱۳۳	منہ سے گوشت نکلا



عنوان	صفحہ	عنوان	صفحہ
حقیقت میں کامیاب کون	۱۵۳	(۸) شریعت میں عورت کے پردہ کی	
جنہم میں عورتوں کی کثرت	۱۵۳	اہمیت و فضیلت	
میٹھی میٹھی اسلامی بہنو	۱۵۳	فضیلت دورد پاک	
(۹) جنتی عورت کون ہے؟	۱۵۳	عورت کا لفظی معنی	
فضیلت دورد پاک	۱۵۳	کیا آج کل بھی پردہ ضروری ہے	۱۵۵
جنتی عورت کون	۱۵۳	زمانہ جاہلیت کی مدت کتنی؟	۱۵۵
تشریح و تفصیل	۱۵۳	بے پردہ عورت کی دعاء کیسی قبول ہو	۱۵۶
نیک عورت کون ہے	۱۵۷	شرعی پردہ کسے کہتے ہیں	۱۵۷
تشریح و تفصیل	۱۵۷	دامن کا دھاگہ	۱۵۷
جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل	۱۵۸	آسان لفظوں میں پردہ کا طریقہ	۱۵۸
ہو جائے	۱۵۸	عورت کا کس کس سے پردہ ہے؟	۱۵۸
تشریح و تفصیل	۱۵۸	سسرال میں کسی طرح پردہ کرے	۱۵۹
دنیا کی عورتیں حور عین سے افضل ہیں	۱۵۸	باپردہ رہنے کے لئے غصہ ترک کر دیجئے	۱۶۱
تشریح و تفصیل	۱۵۹	آسیہ کی دردناک آزمائش	۱۶۲
جنت کے آٹھوں دروازے کس کے لئے	۱۵۹	گھر میں پردے کا ذہن کیسے بنے	۱۶۳
تشریح و تفصیل	۱۵۹	ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا	۱۶۳
عورتوں کے لئے گھریلو کام کا ثواب جہاد	۱۶۳	دیوث کی تعریف	۱۶۳
کے برابر	۱۸۰	اگر عورت نافرمانی کرے تو	۱۶۵
تشریح و تفصیل	۱۸۰	کیا منہ بولے بھائی بہن کا پردہ ہے	۱۶۶
عورت کے لئے اس کا شوہر جنت یا جہنم	۱۸۱	عالم باپ کا دردناک انجام	۱۶۱۶۶
تشریح و تفصیل	۱۸۱	مرد کے ہاتھ سے چوڑیاں پہننا	۱۶۷
شوہر کی اطاعت ہر حال میں خواہ بیکار ہی	۱۸۱	عورت کی مزارات پر حاضری	۱۶۸
معلوم ہو	۱۸۱	کیا پردہ ترقی میں رکاوٹ ہے	۱۶۹

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۱۹۱	تشریح و تفصیل	۱۸۲	تشریح و تفصیل
۱۹۲	آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے	۱۸۲	شوہر کی اطاعت کی وجہ سے مغفرت
۱۹۲	تشریح و تفصیل	۱۸۳	تشریح و تفصیل
۱۹۲	کون عورت جنت میں جائے گی	۱۸۳	نہ نماز قبول ہوگی اور نہ نیکی چڑھے گی
۱۹۲	تشریح و تفصیل	۱۸۳	تشریح و تفصیل
۱۹۲	عورتوں کو ضرورت پر باہر نکلنے کی اجازت	۱۸۳	غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا تو شوہر کا حکم ہوتا
۱۹۲	تشریح و تفصیل	۱۸۳	تشریح و تفصیل
۱۹۳	دوپٹہ کیسا ہو	۱۸۳	تشریح و تفصیل
۱۹۳	تشریح و تفصیل	۱۸۵	ناشکر گزار کی طرف خدا کی نگاہ بھی نہیں
۱۹۳	کسی کو آگ کا یا ماچس وغیرہ دینے کا ثواب	۱۸۵	تشریح و تفصیل
۱۹۳	تشریح و تفصیل		آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک
	(۱۰) قابل رشک خواتین	۱۸۶	کون مبغوض عورت
۱۹۶	فضیلت دورد پاک	۱۸۶	تشریح و تفصیل
۱۹۷	صبر اور نماز سے مدد چاہو	۱۸۶	شوہر سے بھلائی کا انکار تو اعمال برباد
۱۹۷	صبر کی پہاڑ	۱۸۷	تشریح و تفصیل
۲۰۰	جنتی عورت	۱۸۷	بلا اجازت شوہر نفل روزے کی اجازت نہیں
۲۰۱	وضاحت	۱۸۸	تشریح و تفصیل
۲۰۵	جہنم کی آگ پر صبر نہیں ہو سکتا	۱۸۸	شوہر کی خدمت پر شہادت کے قریب درجہ
	(۱۱) اولاد کی تربیت و اہمیت	۱۸۹	تشریح و تفصیل
۲۱۰	فضیلت دورد پاک	۱۸۹	لعنت والی عورت کون
۲۱۱	اولاد کیسی ہونی چاہئے؟	۱۸۹	تشریح و تفصیل
۲۱۲	نامساعد حالات اور بگڑی ہوئی اولاد	۱۹۰	شوہر سے طلاق مانگنے پر جنت حرام
۲۱۳	اولاد کے بگڑنے کا ذمہ دار کون؟	۱۹۰	تشریح و تفصیل
۲۱۵	تربیت اولاد کی اہمیت	۱۹۱	دودھ پلانے کا ثواب

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۳۴	پیدائش کے بعد کرنے والے کام	۲۱۶	کیا بیٹا بھی باپ کو مارتا ہے؟
۲۳۴	کان میں اذان	۲۱۷	بچوں کی تربیت کب شروع کی جائے
۲۳۵	تھنیک (گھٹی دلوانا)	۲۱۷	تربیت کرنے والے کو کیسا ہونا چاہئے
۲۳۷	مفتی اعظم ہند کی تھنیک	۲۱۸	مثالی کردار کیسے اپنائیں
۲۳۷	نام رکھنا، بال منڈنا اور عقیقہ کرنا	۲۲۱	نماز باجماعت کے پابند ہو گئے
۲۳۸	کیسے نام رکھے جائیں؟	۲۲۱	رب العالمین جل جلالہ کا شکر ادا کیجئے
۲۳۹	مسئلہ	۲۲۲	ماں کے لئے خوشخبری
۲۳۹	مسئلہ	۲۲۲	اچھی اچھی نیتیں کیجئے
۲۳۹	مسئلہ	۲۲۲	دو مدنی پھول
۲۴۰	مسئلہ	۲۲۳	زمانہ حمل کی احتیاطیں
۲۴۰	اللہ عزوجل کے پسندیدہ نام	۲۲۵	پندرہ پارے سنا دیئے
۲۴۱	نام محمد کی برکتیں	۲۲۶	مشتبہ غذا نکالنا پڑتی
۲۴۲	بال منڈوانا	۲۲۶	معذرت کرنا پڑی
۲۴۳	عقیقہ		ماں بننے والی چاہے تو اس طرح بھگ دعا مانگ
۲۴۳	عقیقہ کب کریں؟	۲۲۷	سکتی ہے
۲۴۳	عقیقہ کے جانور	۲۲۲۲۸	عظیم ماں
۲۴۵	عقیقہ چند مسائل	۲۲۹	اولاد نرینہ مل گئی
۲۴۶	بچے کا ختنہ	۲۳۰	پیدائش پر رد عمل
۲۴۶	مسئلہ		مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں
۲۴۷	بچے کو اس کی ماں دودھ پلائے	۲۳۲	پر شفقت
۲۴۷	دودھ پلانے کی فضیلت		سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بیٹی
۲۴۷	مسئلہ	۲۳۳	پر شفقت
۲۴۸	مسئلہ	۲۳۳	ایثار کرنے والی ماں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۲۸	صحابہ کرام و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی	۲۲۸	مسئلہ
۲۲۹	محبت سکھائیے	۲۲۹	مسئلہ
۲۶۷	اولیاء کرام رحمہم اللہ کا ادب سکھائیے	۲۵۰	مسئلہ
۲۶۷	اپنے بچے کو قرآن پڑھائیے	۲۵۰	گھٹنے نہ کھولنے پڑیں
۲۶۸	مدرسہ المدینہ	۲۵۰	اپنے بچوں کو کسی پیر کامل کا مرید بنوادیتے
۲۶۹	سات برس کی عمر سے نماز کی تاکید کیجئے	۲۵۲	بچوں سے محبت کیجئے
۲۶۹	نماز کے عادی	۲۵۳	بچے کو لوری دینا
۲۷۰	روزہ رکھوائیے	۲۵۳	مسئلہ
۲۷۰	روزہ کشائی	۲۵۴	بچوں پر خرچ کیجئے
۲۷۱	دینی تعلیم دلوائیے	۲۵۵	مسئلہ
۲۷۳	استاد کا انتخاب	۲۵۴	بچوں کو رزق حلال کھلائیے
۲۷۳	جامعۃ المدینہ	۲۵۷	تنگ دستی کی وجہ سے حرام کمانے والا
۲۷۴	شوق علم	۲۵۸	احتیاط نبوی
۲۷۴	آداب سکھائیے	۲۵۸	بچوں کو نیا پھل کھلائیے
۲۷۴	میٹھی میٹھی اسلامی بہنو	۲۵۹	بچے کی صحت کا خیال رکھئے
	(۱۲) غریبوں کا حج	۲۶۰	بینائی واپس آگئی
۲۷۶	فضیلت دورِ پاک	۲۶۰	علاج ہو گیا
۲۷۷	غریبوں کا حج	۲۶۱	زبان کھلنے کے بعد اللہ عزوجل کا نام سکھائیے
۲۷۷	زیارت والدین	۲۶۲	باپ کا نام اور گھر کا پتہ یاد کرائیے
۲۷۷	احادیث مبارکہ	۲۶۲	ضروری عقائد سکھائیے
۲۷۸	تشریح	۲۶۴	حکایت
۲۷۸	والدین کی طرف سے حج کرنا		بچے کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
۲۷۹	تشریح و تفصیل	۲۶۵	کی محبت ڈالنے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۸۷	اللہ کی راہ میں چلنا	۲۷۹	طلب العلم
۲۸۷	تشریح و تفصیل	۲۷۹	احادیث مبارکہ
۲۸۷	اللہ کی راہ میں جہاد کرنا	۲۸۰	فضائل اسلامی علوم
۲۸۷	مہمان کو کھانا کھلانا	۲۸۰	علمائے کرام کی مالی معاونت کی فضیلت
۲۸۸	مسلمان کی حاجت روائی	۲۸۱	تشریح و تفصیل
۲۸۸	صبح و شام تسبیح پڑھنا	۲۸۱	ایک مثال
۲۸۸	غروب آفتاب کے وقت آیۃ الکرسی پڑھنا	۲۸۱	فضائل علمائے کرام
۲۸۸	میٹھی میٹھی اسلامی بہنو	۲۸۱	دنیا میں جنتی لوگ
	(۱۳) جھوٹ کی مذمت	۲۸۲	فرشتے پر بچھائیں
۲۹۰	فضیلت دورد پاک	۲۸۲	باجماعت نماز کے لئے مسجد کو جانا
۲۹۱	جھوٹ کی مذمت	۲۸۲	ہر نماز باجماعت
۲۹۳	میٹھی میٹھی اسلامی بہنو	۲۸۲	احادیث مبارکہ
	(۱۴) سات مہلک گناہ	۲۸۳	تشریح و تفصیل
۲۹۵	فضیلت دورد پاک	۲۸۳	نماز جمعۃ المبارک
۲۹۶	شُرک	۲۸۳	تشریح و تفصیل
	عقیدہ توحید و شکر کے بارے میں ایک	۲۸۴	ایک مخصوص دورد شریف پڑھنا
۲۸۷	ضروری وضاحت	۲۸۴	تشریح و تفصیل
	عقیدہ توحید و شرک کے بارے میں ایک	۲۸۵	کسی بھی وقت میں درود شریف پڑھنا
۲۸۷	مغالطہ اور اس کا ازالہ	۲۸۵	حج کا ثواب اور مزید فضائل یسین شریف
۲۸۸	کیا شیخ جیلانی کو غوث اعظم کہنا شرک ہے	۲۸۶	زیارت مدینہ منورہ
۲۸۹	دوسرا موبقہ (ہلاک کردینے والا گناہ)	۲۸۶	رمضان میں اعتکاف کرنا
۳۰۰	تیسرا موبقہ قتل نفس	۲۸۶	رمضان میں عمرہ کرنا
۳۰۰	چوتھا موبقہ ربا (سود)	۲۸۶	عاشورہ کا روزہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۳۲۱	بجلی	۳۰۱	پانچواں موبقہ یتیم کا مال کھانا
۳۲۲	اولاد	۳۰۲	چھٹا موبقہ قتال کے روز بھاگ جانا
	(۱۷) استاد کے حقوق اور آداب و احترام	۳۰۲	ساتواں موبقہ زنا کا جھوٹا الزام
۳۳۰	فضیلت دورد پاک	۳۰۳	لعان کیا ہے
	(۱۸) بدعت کا صحیح معنی و مفہوم		(۱۴) دل کی سختی کا علاج
۳۳۷	فضیلت دورد پاک	۳۰۵	فضیلت دورد پاک
۳۳۸	حدیث کا مفہوم	۳۰۵	فضیلت دورد پاک
۳۳۳۳۹	بدعت کی حقیقت اور اقسام	۳۰۷	مرض و علاج میں مناسبت
۳۴۰	بدعت حسنہ	۳۰۸	سر پر ہاتھ پھیرنے سے کیا مراد ہے؟
۳۴۱	بدعت سیئہ	۳۰۸	یتیم کے ساتھ حسن سلوک
۳۴۱	اس کی مثال	۳۰۹	مسکینوں کے ساتھ نیک برتاؤ
۳۴۲	عقائد میں بدعت سیئہ کی مثال		(۱۵) قرب الہی کا انمول نسخہ
	کیا جشن میلاد اور ختم کے لئے تاریخ مقرر	۳۱۲	فضیلت دورد پاک
۳۴۲	کرنا دین میں اضافہ ہے؟		(۱۶) نام مصطفیٰ ﷺ کا مقام و مرتبہ
۳۴۳	ہر بدعت گمراہی ہے کا مفہوم	۳۱۸	فضیلت دورد پاک
		۳۲۱	پانی
		۳۲۱	ہوا



## تقریظ

محترمہ قاریہ عالمہ بنت فقیر حسین عطاریہ مدظلہ

فاضلہ جامعہ قادریہ عالمیہ نیک آباد مراڑیاں شریف، گجرات

پرنسپل و مدرس جامعہ آستانہ عالیہ منڈیر خور دسیا لکوٹ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

چشمہ صدارت و بصیرت ارباب فکر و نظر نور ایمان سے منظور کرنے والی ہستی  
عشق خدا سے بھرپور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معمور قابل عزت قابل  
احترام قابل رشک زوجہ عزیز القدر مولانا محمد اقبال عطاری قادری نے اسلامی بہنوں  
کے لئے ایک خوبصورت کتاب ”مبلفات کی ضرورت“ ترتیب دی ہے۔ جس میں  
عورتوں کی بہت رہنمائی کی گئی ہے۔ مجھے یہ کتاب پڑھنے کے بعد دلی مسرت ہوئی۔  
اس کتاب میں زوجہ مولانا قاری صاحب نے بہت محنت کی ہے۔ اللہ عزوجل ان کے  
علم و فضل میں مزید برکتیں عطا فرمائے اور انہیں بیش از خدمت دین کی توفیق مرحمت  
فرمائے۔ محترمہ کی مختلف کتابیں پڑھنے کا موقع ملا۔ الحمد للہ! محترمہ نے علمی حوالہ جات  
کے ساتھ مدلل جوابات تحریر کئے۔ علامہ محمد اقبال عطاری مدظلہ کی ارج ذیل کتابیں  
منظر عام پر آچکی ہیں جس میں پہلی کتاب

(۱) سنی تحفہ خواتین

(۲) تحفہ دلہا

(۳) اربعین طالب

(۴) تحفہ دلہن

(۵) اربعین صفیہ

(۶) تحقیق رفع یدین

(۷) تحقیق قرأت خلف الامام

(۸) دنیہ کی حقیقت

(۹) ننگے سر نماز کا شرعی حکم

(۱۰) جواہر شریعت

(۱۱) عورتوں کی حکایات

(۱۲) تحفہ شادی

پڑھئے اور آپ کا رب زیادہ کریم ہے جس نے قلم سے لکھنا سکھایا۔ قلم ایک بہت بڑی نعمت ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: علم کو قید کرو۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا: علم کی قید کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: لکھنا۔ (مجمع الزوائد)

کتنا خوش نصیب ہے وہ مسلمان جو اللہ عزوجل کی رضا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی دین اسلام کی اشاعت اور امت کی خدمت و اصلاح کے لئے لکھتا ہے۔ ایسے سعادت مندوں میں میرے ایک محترم بھائی علامہ محمد اقبال عطاری کا نام بھی شامل ہے جو دینی تبلیغ اور اصلاحی خدمت جلیلہ سرانجام دے رہے ہیں۔ آپ نے سب کتابوں پر بڑی محنت کی ہے۔ سنی تحفہ خواتین اپنے موضوع میں بہترین کتابیں ہیں۔ مولانا محمد اقبال عطاری نے بڑی لگن سے کام کیا ہے۔ احادیث و مسائل کی تخریج کے لئے اصل ماخذ کی طرف مراجعت کرتے ہوئے ہر چیز بحوالہ نقل کی ہے اور دیگر کتابوں کے ساتھ ساتھ یہ کتاب ”مبلغات کی ضرورت“ میں بھی ہر چیز بحوالہ نقل کی ہے۔ یہ کتاب بھی وسعت مطالعہ پر شاہد ہے۔ اس کتاب میں مولانا محمد اقبال عطاری نے قابل رشک خواتین پر بہت احسن طریقے سے بحث کی ہے۔ اس میں عورتوں کے بڑے بڑے کارنامے موجود ہیں۔ نیز اسماء بنت عمیس کا واقعہ قابل

ذکر ہے کہ یہ خواتین کس طرح صبر کا پہاڑ ہوا کرتی تھیں اور مولانا عطاری نے اولاد کی تربیت اور اہمیت پر بڑا زور دیا ہے۔ اولاد کا سب سے پہلا حق کیا ہے؟ نیک ماں کا انتخاب کرنا، کسی نیک پرہیزگار بندے کی گھٹی دینا، اس کا نام اچھا رکھنا اور دیگر بہت ضروری باتیں وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ اور نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام و مرتبہ پیش کیا گیا ہے اور مومن کے ایمان کو تازہ کیا گیا ہے کہ انسان کو جس کے ساتھ محبت ہوتی ہے اس کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتا ہے کیونکہ محبت کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے وہ کونسی ہستی ہے جس کے لئے تیرا دل دھڑکتا رہتا ہے تو دل سے آواز یہی آئے گی کہ وہ محبوب جس کی خاطر یہ ساری دنیا تخلیق کی گئی اس میں مزید برآں اولاد کی تربیت نہ کرنے کا وبال اور جھوٹ کی مذمت جیسے رذائل کا ذکر بڑے نصیحت آموز انداز میں کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں علم و عمل اور خلوص و وفا کے جو پھول ہیں اللہ عز و جل سب کو چننے کی توفیق عطا فرمائے۔

اور اللہ عز و جل مولانا محمد اقبال عطاری اور ان کی زوجہ کو عروج نصیب فرمائے اور انکی کاوشیں ان کے لئے ذریعہ فلاح و نجات بلندی درجات بنیں۔ آمین۔

ناصر ان کا خدا حامی رسول ہوں

خدا کرے یہ کتب خاص و عام میں مقبول ہوں

فقط ناچیز

بنت فقیر حسین عطاریہ

مدرس: جامعہ فاطمہ زہراء منڈیر خور دسیا لکوٹ

رہائش: رحیم پورا گوکی، سیالکوٹ

۹ جولائی ۲۰۱۰ء

## تقريظ

حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ عبدالستار سعیدی

رکن دارالافتاء و مدرس جامعہ نعیمیہ گڑھی شاہوڑا ہور

بسم اللہ الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين

وعلى اله واصحابه وعلى امتہ الى يوم الدين

اللہ تعالیٰ نے اُمت مسلمہ کو خیر امت کا لقب عطا فرمایا اور اس اُمت کا ایک خاص وصف ذکر فرمایا کہ اُمت مسلمہ نیکی کا حکم دیتی ہے اور برائی سے منع کرتی ہے۔

ارشاد فرمایا: تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ترجمہ: ”تم بھلائی کا حکم

دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو“۔ (آل عمران آیت ۱۱۰ ترجمہ القرآن البیان علامہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ

اللہ علیہ) اس بارے میں امت مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ اپنی وسعت اور علم

کے مطابق امر بالمعروف ونہی عن المنکر کا فریضہ سرانجام دے۔

اصلاح معاشرہ اور تربیت اولاد میں عورت اپنی بنیادی اور کلیدی خدمات پیش

کر سکتی ہے خاص کر ماں کہ اس کی گود بچے کی پہلی درس گاہ ہے۔ ماں بچے کی اعلیٰ

تربیت کر کے اسے معاشرے کا ذمہ دار فرد بنا سکتی ہے اور اسے اوج کمال کے حصول

کے لئے سیڑھی فراہم کر سکتی ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ عورت پہلے خود کو اخلاقِ حسنہ

اور زیورِ تعلیم سے آراستہ کرے۔ عصرِ حاضر میں اس کی ضرورت پوری کرتے ہوئے

زوجہ مولانا محمد اقبال عطاری نے یہ کتاب ”مبلغات کی ضرورت“ تالیف کی ہے جس میں اصلاح معاشرہ اور تربیت اولاد کے حوالہ سے خاص کر بکھرے ہوئے نصیحت آموز قیمتی موتیوں کو جمع کیا ہے۔ خواتین کو چاہیے کہ اسے دل و جان سے پڑھیں اور اس میں بیان کردہ نصیحت آموز باتوں اور احکام کے مطابق زندگی بسر کریں تاکہ رب کریم کا زیادہ سے زیادہ قرب حاصل ہو۔

آخر میں میری دعا ہے اللہ تعالیٰ موصوف کی اس کاوش کو قبول فرمائے اور ان کی قلم کو حسب معمول تسلسل نصیب کرے۔

آمین بجاہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین

حافظ عبدالستار سعیدی غفرلہ

خادم دارالافتاء والتدریس جامعہ نعیمیہ گڑھی شاہولا ہور

۳/ رمضان المبارک ۱۴۳۱ھ / بمطابق ۱۵ اگست ۲۰۱۰ء

## تقریظ

حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ہاشم مدظلہ العالی  
رکن دارالافتاء و مدرس جامعہ نعیمیہ گڑھی شاہوہلا ہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله وحده والصلوة والسلام على من لا نبي بعده  
علم عمل کے بغیر ایسے ہے جیسے بغیر پروں کے پرندہ۔ اس دور میں بعض لوگ  
علم کے باوجود بے عملی کا شکار ہیں اور کچھ لوگ تو سرے سے علم سے ہی کورے ہیں۔  
ان سے عمل صالح کی توقع عبث ہے یہ تو مجموعی طور پر مردوں کی حالت ہے باقی رہ  
گئیں خواتین تو ان بیچاروں کی حالت تو اس حوالے سے انتہائی اتر ہے۔ نہ انہیں  
اس قدر صحیح علم ہے کہ جس سے وہ سعادت مند مسلم خاتون کا کردار ادا کریں اور نہ  
ہی انہیں بے علمی کی وجہ سے تقویٰ و صلاح حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں بہن،  
بیٹی بیوی اور بہو کی صورت میں انہیں جو کردار ادا کرنا چاہئے وہ کردار ادا نہیں  
کر پاتیں۔

زوجہ مولانا محمد اقبال زیدہ مجددہ مصنف کتب کثیرہ کی تازہ کتاب ”مبلغات کی  
ضرورت“ مختلف مقامات سے ملاحظہ کی۔ اسے مذکورہ ضرورت کو پورا کرنے میں  
بہت مفید پایا۔ یہ کتاب انشاء اللہ العزیز مصنف کی دوسری کتب کی طرح نفرادی

تربیت و اصلاح اور فریضہ دعوت و تبلیغ سرانجام دینے والی بہنوں کے لئے انتہائی نفع بخش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کتاب کے مؤلف کو بہترین جزا عطا فرمائے اور ان کی خدمات دینیہ کو شرف قبولیت بخشے۔ آمین۔

بجاہ طہ و بسین

محمد ہاشم غفرلہ

خادم الاقراء والتدریس

جامعہ نعیمیہ لاہور

۵/رمضان المبارک

۱۶/۱۳۳۱ھ / اگست ۲۰۱۰ء

## تقریظ

حضرت علامہ مولانا اقبال سعیدی

مدرس جامعہ نعمانیہ سیالکوٹ

الحمد لله لوالیه والصلوة والسلام

علی نبیہ وعلی الہ واصحابہ وعلی انصار دینہ

اما بعد! میں نے کتاب ”مبلغات کی ضرورت“ کو چیدہ چیدہ مقامات سے پڑھا ہے۔ تدریسی مصروفیات کی وجہ سے مکمل کتاب تو نہ پڑھ سکا مگر چند مقامات کو دیکھنے سے معلوم ہوا کہ اَحْسَنَ مَا كَتَبَ كَمَا مَضَىٰ قَدْ هُوَ اس سے پہلے بھی مؤلف کی کئی مفید کتب منظر عام پر درجہ قبولیت حاصل کر چکی ہیں۔ مؤلف کی زیادہ تر توجہ خاتونِ مسلم کی اصلاح پر مرکوز ہے جو فی زمانہ احسن اقدام ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی ضروری بلکہ اشد ضروری ہے وجہ یہ ہے کہ ماحول اور معاشرہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے اور ماں کی گود میں پرورش پاتا ہے۔ اگر ماں ہدایت پا جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے ہماری معاشرتی برائیاں کافی حد تک ختم نہ ہوں اگر ماں اپنے آپ کو شمعِ محفل اور حسنِ بازار کی بجائے زینتِ خانہ اور چراغِ چار دیواری تک محدود کر لے تو مشکل نہیں کہ ملت کی قیادت کی باگ ڈور سنبھالنے والے حاکم کی بجائے خادمِ قوم کا کردار ادا کریں۔ اگر ماں شرم و حیا کا پیکر ہوگی، خوفِ خدا اور شرمِ نبی سے لبریز ہوگی تو آج بھی محمود غزنوی اور صلاح الدین ایوبی کے جانشین پیدا ہو سکتے ہیں۔ اگر ماں میں احساسِ ذمہ داری

111634



پیدا ہو جائے تو آج ایک کی بجائے لاکھوں ڈاکٹر قدیر خان جیسے محبت وطن اور محافظِ وطن قوم کا سرفخر سے بلند کر سکتے ہیں، لیکن افسوس کہ اب ماں ہی خانہ خراب ہو گئی ہے اور اسلام کا بنیادی ڈھانچہ ماں نے ہی بگاڑ کے رکھ دیا ہے تو امید کی کرن کہاں سے نظر آئے۔ خالق کائنات زوجہ مولانا محمد اقبال عطاری سلمہ کو جزائے خیر دے جنہوں نے آج کی لڑکی اور کل ماں کی تربیت کی طرف بہت اچھا اقدام کیا ہے اور اپنی حد تک اصلاحِ معاشرہ کی کوشش کی ہے۔ فجزاہ اللہ فی الدارین وصلی اللہ علی حبیبہ محمدٍ والہ واصحابہ وسلم

خیر اندیش

محمد اقبال سعیدی

مدرس جامعہ نعمانیہ رضویہ سیالکوٹ

۲۶ جمادی الثانی ۱۴۳۱ھ

۱۰ جون ۲۰۱۰ء جمعرات

## بِسْمِ اللّٰهِ كے فضائل واہمیت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
 اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰهِ  
 الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَا نَبِيَّ اللّٰهِ وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللّٰهِ

### ﴿فضیلت دوروپاک﴾

حضور انور شہنشاہ بحر و بر محبوب رب اکبر (عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا: اے لوگو! بے شک بروز قیامت اس کی وحشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا، جس نے مجھ پر دنیا میں کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔

(فردوس الاخبار، جلد ۲، صفحہ ۴۷۰، رقم الحدیث ۸۲۱۰)

وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى نُوْرِ كُرُوْشِدِ نُوْرِ هٰبِيْدَا

ز میں درحب اوساکن عرش در عشق اوشیدا

صَلُّوْا عَلٰى الْحَبِيْبِ: صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم

ادھورا کام

سرکار مکہ مکرمہ سردار مدینہ منورہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جو بھی

اہم کام بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے ساتھ شروع نہیں کیا جاتا وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۲۶)

## بِسْمِ اللّٰهِ پڑھے جائیے

پیاری اسلامی بہنو! کھانے کھلانے، پینے پلانے، رکھنے اٹھانے، دھونے پکانے، پڑھنے پڑھانے، چلنے (گاڑی وغیرہ) چلانے اٹھنے اٹھانے، بیٹھنے بٹھانے، بتی جلانے، پنکھا چلانے، دسترخوان بچھانے بڑھانے، بچھونا لپیٹتے بچھاتے، دکان کھولنے بڑھانے، تالا کھولنے لگانے، تیل ڈالنے عطر لگانے، بیان کرنے نعت شریف سنانے، جوتی پہننے عمامہ سجانے، دروازہ کھولنے بند فرمانے، الغرض ہر جائز کام کے شروع میں (جبکہ کوئی مانع شرعی نہ ہو) بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھنے کی عادت بنا کر اس کی برکتیں لوٹنا عین سعادت ہے۔

## جنات سے سامان کے حفاظت کا طریقہ

حضرت سیدنا صفوان بن سلیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں۔ انسان کے ساز و سامان اور ملبوسات کو جنات استعمال کرتے ہیں۔ لہذا تم میں سے جب کوئی شخص کپڑا پہننے کے لئے اٹھائے یا تار کر رکھے تو ”بِسْمِ اللّٰهِ شَرِیْفٌ“ پڑھ لیا کرے۔ اس کے لئے اللہ تعالیٰ کا نام مہر ہے (یعنی بِسْمِ اللّٰهِ پڑھنے سے جنات ان کپڑوں کو استعمال نہیں کریں گے۔

(لقطہ المرجان فی احکام الجنان للسیوطی ص ۹۸)

پیاری اسلامی بہنو! اس طرح ہر چیز رکھتے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھنے کی عادت بنانی چاہئے ان شاء اللہ عزوجل شریر جنات کی دست برد سے حفاظت

حاصل ہوگی۔

بِسْمِ اللّٰهِ درست پڑھئے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھنے میں درست مخارج سے حروف کی ادائیگی لازمی ہے۔ اور کم از کم اتنی آواز بھی ضروری ہے کہ رکاوٹ نہ ہونے کی صورت میں اپنے کانوں سے سن سکیں۔ جلد بازی میں بعض لوگ حروف چبا جاتے ہیں۔ جان بوجھ کر اس طرح پڑھنا ممنوع ہے اور معنی فاسد ہونے کی صورت میں گناہ! لہذا جلدی جلدی پڑھنے کی عادت کی وجہ سے جو لوگ غلط پڑھ ڈالتے ہیں وہ اپنی اصلاح کر لیں نیز جہاں پوری پڑھنے کی کوئی خاص وجہ موجود نہ ہو وہاں صرف ”بِسْمِ اللّٰهِ“ کہہ لیں تب بھی درست ہے۔

کھلبلی مچ گئی

حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جب بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نازل ہوئی تو بادل مشرق کی سمت دوڑے، ہوائیں ساکن ہو گئیں، سمندر جوش میں آ گیا، چوپایوں نے غور سے سننے کے لئے اپنے کان لگا دیئے اور شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے اور اللہ عزوجل نے فرمایا ”مجھے میری عزت و جلال کی قسم! جس شے پر بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھی گئی میں اس میں برکت دوں گا“۔

(الدر المنثور ج ۱ ص ۲۶)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پارہ ۱۹ سورۃ نمل کی تیسویں (۳۰) آیت کا حصہ بھی ہے اور قرآن مجید کی ایک پوری آیت مبارکہ بھی جو کہ دو سورتوں کے مابین فاصلہ کے لئے اتاری گئی۔ (حلی کبیر ص ۳۰۸)

## بِسْمِ اللّٰهِ كے ”ب“ كے جامعیت

اللہ عزوجل نے بعض انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام پر صحائف اور کتب نازل فرمائیں جن کی تعداد ۱۰۴ ہے ان میں سے ۶۰ صحیفے حضرت سیدنا شعیب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر ۳۰ صحیفے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا الصلوٰۃ والسلام پر ۱۰ صحیفے حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا الصلوٰۃ والسلام پر تورات شریف اترنے سے قبل نازل ہوئے نیز چار بڑی کتابیں نازل ہوئیں۔

- 1- تورات شریف حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر۔
- 2- زبور شریف حضرت سیدنا داؤد علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر۔
- 3- انجیل مقدم حضرت عیسیٰ رُح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام پر۔
- 4- قرآن مبین جناب رحمۃ اللعلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔

ان تمام کتابوں اور جملہ صحائف کا متن اور مضامین قرآن مجید میں اور سارے قرآن مجید کا مضمون سورۃ فاتحہ میں اور سورۃ فاتحہ کا سارا مضمون بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں اور بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا سارا مضمون اس کے حرف ”ب“ میں موجود ہے اور اسکے معنی یہ ہے کہ بی کان کا کان و بی یکن ما یکن (یعنی جو کچھ بھی ہے مجھ (یعنی اللہ عزوجل) ہی سے ہے اور جو کچھ ہوگا مجھ (یعنی اللہ عزوجل) ہی سے ہوگا)۔

(الجالس السدیہ ص ۳)

اسم اعظم

حضرت سیدنا خبیر اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے نبیوں کے سلطان، سرور و ذیشان سردار

دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ (کی فضیلت) کے بارے میں استفسار کیا۔ تو اللہ کے محبوب دانائے غیوب، منذہ عن العیوب عزوجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ یا اللہ عزوجل کے ناموں میں سے ایک نام ہے اور اللہ عزوجل کے اسم اعظم اور اسکے درمیان ایسا ہی قرب ہے جیسے آنکھ کی سیاہی (پتلی) اور سفیدی میں۔

(المستدرک للحاکم ج اول میں ۷۳۸ رقم للحدیث (۲۰۷۰))

### اسم اعظم کے ساتھ دعا قبول ہوتی ہے

پیاری اسلامی بہنو! اسم اعظم کی بہت برکتیں ہیں اسم اعظم کے ساتھ جو دعاء کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد حضرت رئیس المتکلمین مولینا نقی علی خان علیہ رحمۃ المثنان فرماتے ہیں۔ بعض علماء نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو اسم اعظم کہا سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ سے منقول ہے بسم اللہ زبان عارف (عارف یعنی اللہ عزوجل کو پہچاننے والا) سے ایسی ہے جیسے کلام خالق عزوجل سے کن (”کن“ یعنی ”ہو جا“).

پیاری بہنوں! اپنے نیک اور جائز کاموں میں برکت داخل کرنے کے لئے ہمیں پہلے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھنے کی عادت بنانے کے آرزو مند ہیں تو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت فرمایا کریں۔

### پُر اسرار بوڑھا اور کالا جن

مسجد النبوی الشریف اعلیٰ صاحب الصلوٰۃ والسلام کے پر بہار فضاؤں میں ایک بار امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم اور دیگر صحابہ کرام علیہم الرضوان میں قرآن پاک کے فضائل پر مذاکرہ ہو رہا تھا۔ اس دوران حضرت سیدنا عمرو بن

معدیکرب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا۔ یا امیر المؤمنین! آپ حضرات بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی عجائبات کو کیوں بھول رہے ہیں خدا عزوجل کی قسم! بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ بہت ہی بڑا عجوبہ ہے۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمانے لگے۔ اے ابو ثور! (یا حضرت سیدنا عمرو بن معد بکریب کی کنیت تھی) آپ ہمیں کوئی عجیبہ سنائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن معدی کرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ زمانہ جاہلیت تھا۔ قحط سالی کے دوران تلاش رزق کی خاطر میں ایک جنگل سے گزرا دور سے ایک خیمہ پر نظر پڑی قریب ہی ایک گھوڑا اور کچھ مویشی بھی نظر آئے۔ جب قریب پہنچا تو وہاں ایک حسین و جمیل عورت بھی موجود تھی اور خیمہ کے صحن میں ایک بوڑھا شخص ٹیک لگا کر بیٹھ ہوا تھا۔ میں نے اُس دھمکاتے ہوئے کہا جو کچھ تیرے پاس ہے میرے حوالے کر دے! اُس نے کہا۔ اے آدمی! اگر تو مہمانی چاہتا ہے تو آ جا اور اگر امداد درکار ہے تو ہم تیری مدد کریں گے میں نے کہا۔ باتیں مت بنا، تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے! تو وہ بوڑھا کمزوروں کی طرح طرح بمشکل تمام کھڑا ہوا اور بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھ کر میرے قریب آیا اور نہایت پھرتی سے مجھے پر جھپٹا اور مجھے پٹخ کر میرے سینے پر چڑھ بیٹھا اور کہنے لگا۔ اب بول! میں تجھے ذبح کروں یا چھوڑ دوں؟ میں نے گھبرا کر کہا۔ چھوڑ دو۔ وہ میرے سینے سے ہٹ گیا۔ میں نے دل میں اپنے آپ کو ملامت کی اور کہا۔ اے عمرو۔ تو عرب کا مشہور شہسوار ہے اس کمزور بوڑھے سے ہار کر بھاگنا نامردی ہے اس ذلت سے تو مر جانا ہی بہتر ہے چنانچہ میں نے پر اُس سے کہا۔ ”تیرے پاس جو کچھ ہے میرے حوالے کر دے! یہ سنتے ہی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھ کر وہ ہڈا سرار بوڑھا پھر مجھ پر حملہ آور ہوا اور چشم زدن میں مجھے گرا کر سینے پر سوار ہو گیا۔ اور کہنے لگا۔ بول تجھے ذبح کر دوں یا چھوڑ دوں؟ میں نے کہا مجھے

معاف کر دو۔ اُس نے چھوڑ دیا مگر پھر میں نے اُس سے سارے مال کا مطالبہ کر دیا اُس نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھ کر پھر پچھاڑ کر مجھ پر قابو پا لیا۔ میں نے کہا مجھے چھوڑ دو! اُس نے کہا اب تیسری بار میں ایسے ہی نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اُس نے پکار کر کہا۔ اے کنیر! تیز دھار دار تلوار لے آ! وہ لے آئی اُس نے میرے سر کے اگلے حصے کی چوٹی کاٹ ڈالی اور مجھے چھوڑ دیا۔ ہم عربوں میں رواج ہے کہ جب کسی کی چوٹی کے بال کاٹ دیئے جاتے ہیں تو وہ دوبارہ اُگنے سے قبل اپنے گھر والوں کو منہ دکھاتے ہوئے شرماتا ہے۔ کیونکہ چوٹی کٹ جانا شکست خوردہ کی علامت ہے۔ چنانچہ میں ایک سال تک اُس پر اسرار بوڑھے کی خدمت کا پابند ہو گیا۔ سال پورا ہو جانے کے بعد وہ مجھے ایک وادی میں لے گیا وہاں اُس نے بلند آواز سے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھی تو تمام پرندے اپنے گھونسلوں سے باہر نکل کر اڑ گئے۔ دوبارہ اسی طرح پڑھنے پر تمام درندے اپنے پناہ گاہوں سے باہر نکل کر چلے گئے۔ پھر تیسری بار زور سے پڑھنے پر اونی لباس میں ملبوس کھجور کے تنے جتنا لمبا خوفناک کالا جن ظاہر ہوا۔ اُس کو دیکھ کر میرے بدن میں جھرجھری کی لہر دوڑ گئی۔ پُر اسرار بوڑھے نے کہا۔ اے عمرو! ہمت رکھ! اگر یہ مجھ پر غلبہ پائے تو کہنا۔ اب کی بار میرا ساتھی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی برکت سے غالب ہوگا! پھر وہ پُر اسرار بوڑھا اور کالا جن دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ پُر اسرار بوڑھا ہار گیا اور کالا جن اُس پر غالب آ گیا اس پر میں نے کہا: اب کی بار میرا ساتھی لات وعزیٰ (یعنی کافروں کے ان دونوں بتوں) کی وجہ سے جیت جائے گا۔ یہ سن کر پُر اسرار بوڑھے نے مجھے ایسا زوردار طمانچہ رسید کیا کہ مجھے دن دہاڑے تارے نظر آ گئے اور ایسا محسوس ہوا کہ ابھی میرا سر اُکھڑ کر دھڑ سے جدا ہو جائے گا۔ میں نے معذرت چاہی اور کہا کہ دوبارہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ چنانچہ دونوں میں پھر مقابلہ ہوا۔ پُر اسرار بوڑھا اُس کا لے جن کو دو بوچنے میں کامیاب ہو گیا



تو میں نے کہا میرا ساتھ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی برکت سے غالب آ گیا۔ یہ کہنے کی دیر تھی کہ پُر اسرار بوڑھا نے نہایت پھرتی کے ساتھ اُس کو زمین میں لکڑی کی طرح گاڑ دیا اور پھر اُس کا پیٹ چیر کر اُس میں سے لالٹین کی طرح کوئی چیز نکالی اور کہا۔ اے عمرو! یہ اس کا دھوکہ اور کفر ہے۔ میں نے اُس پر اسرار بوڑھے سے استفسار کیا۔ آپ کا اور اس کا لے جن کا قصہ کیا ہے؟ کہنے لگا ایک نصرانی جن میرا دوست تھا اُس کی قوم ہے ہر سال ایک جن میرے ساتھ جنگ لڑتا ہے اور اللہ عزوجل بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی برکت سے مجھے فتح عطا فرماتا ہے۔ پھر ہم آگے بڑھ گئے۔ ایک مقام پر وہ پُر اسرار بوڑھا جب غافل ہو کر سو گیا تو موقع پا کر میں نے اُس کی تلوار چھین کر نہایت پھرتی کے ساتھ اُس کی پنڈیوں پر ایک زوردار وار کیا جس سے دونوں ٹانگیں کٹ کر جسم سے جدا ہو گئیں۔ وہ چیخنے لگا او غدار تو نے مجھے سمت دھوکہ دیا ہے! مگر میں نے اس کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ دیا۔ پے در پے وار کر کے اُس کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے! پھر جب میں خیمہ میں واپس آیا تو وہ کینر بولی۔ اے عمرو! جن سے مقابلے کا کیا بنا؟ میں نے کہ؟ بوڑھے شیخ کو جنات نے قتل کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگی! تو جھوٹ بول رہا ہے۔ او بے وفا! اُس کے قاتل جنات نہیں بلکہ تو خود ہے یہ کہہ کر اس نے بیقرار اشکبار ہو کر عربی میں پانچ اشعار پڑھے جن کا ترجمہ ہے۔

- 1- اے میری آنکھ نو اُس بہادر شہسوار پر خوب روادریے درپے آسو بہا۔
- 2- اے عمرو تیری زندگی پر افسوس ہے۔ حالانکہ تیرے دوست کو زندگی نے موت کی طرف دھکیل دیا ہے۔

3- اور (اے عمرو اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں) قتل کر نیکی بعد تو (اے قبیلے) بنی زبیدہ اور کفار (یعنی ناشکروں) کے گروہ کے سامنے کس طرح فخر کے ساتھ چل سکتا ہے۔

4- مجھے میری عمر کی قسم! اے عمر و اگر تو لڑنے میں واقعی سچا ہوتا یعنی بغیر دھوکہ دیئے مردوں کی طرح اس سے مقابلہ کرتا تو اُس کی طرف سے فرور تیز دھار دار تلوار تجھ تک پہنچ کر رہتی (اور تیرا کام تمام کر دیتی)۔

5- (اے اُس بوڑھے کو قتل کرنے والے) بادشاہ حقیقی (اللہ تعالیٰ) تجھے بُرا اور ذلت والا بدلہ دے (تیرے جرم کے بدلے میں) اور تجھے بھی اس کی طرف سے ذلت و رسوائی والی زندگی ملے (جس طرح کہ تو نے اپنے دوست کے ساتھ ذلت و رسوائی والا سلوک کیا ہے) میں بھل کر قتل کرنے کے لئے اُس پر چڑھ دوڑا مگر وہ حیرت انگیز طور پر میری نظروں سے اوجھل ہو گئی گویا اُس کو زمین نے نگل لیا۔ (مخص از: لفظ المرجان فی الکام الجان للسیوطی ص ۱۲۳ تا ۱۲۴)

پیاری اسلامی بہنو! دیکھا آپ نے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کی کس قدر حیرت انگیز برکات ہیں۔

بسم اللہ کیجئے کہنا ممنوع ہے

بعض لوگ اس طرح کہہ دیتے ہیں۔ بسم اللہ کیجئے! آوجی بسم اللہ میں نے بسم اللہ کر ڈالی۔ تاجر حضرات جو دن میں پہلا سواد بیچتے ہیں۔ اُس کو عموماً بونی کہا جاتا ہے مگر بعض لوگ اس کو بھی بسم اللہ کہتے ہیں۔ مثلاً میری تو آج ابھی تک بسم اللہ ہی نہیں ہوئی! جن جملوں کی مثالیں پیش کی گئیں یہ سب غلط اندازہ ہیں اسی طرح کھانا کھاتے وقت اگر کوئی آجاتا ہے تو اکثر کھانے والا اُس سے کہتا ہے آئیے آپ بھی کھائیے۔ عام طور پر جواب ملتا ہے۔ بسم اللہ یا اس طرح کہتے ہیں بسم اللہ کیجئے۔ بہار شریعت حصہ ۱۶ صفحہ ۳۲ پر ہے کہ اس موقع پر اس طرح بسم اللہ کہنے کو علماء نے بہت سخت ممنوع قرار دیا ہے کہ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں بسم اللہ پڑھ کر کھا لیجئے۔ بلکہ ایسے موقع پر دعائیہ الفاظ کہنا بہتر ہے مثلاً

بارك الله لنا ولكم یعنی اللہ عزوجل ہمیں اور تمہیں برکت دے یا اپنی ماوری زبان میں کہہ دیجئے۔ اللہ عزوجل برکت دے۔

بسم اللہ کہنا کب کفر ہے

حرام و ناجائز کام سے قبل بسم اللہ شریف ہرگز ہرگز نہ پڑھی جائے کہ فتاویٰ عالمگیری میں ہے

شراب پیتے وقت، زنا کرتے وقت یا جو اکھیلتے وقت بسم کہنا کفر ہے۔

(فتاویٰ عالمگیری ج ۲ ص ۲۷۳)

فرشتے نیکیاں لکھتے ہیں

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ، قرار قلب و سینہ، فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا! اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تم وضو کرو تو بسم اللہ و الحمد اللہ کہہ لیا کرو۔ جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا اس وقت تک تمہارے فرشتے یعنی کراما کاتبین تمہارے لئے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔

(طبرانی معراج ص ۷۳ رقم الحدیث ۱۸۶)

ہر ہر قدم پر ایک نیکی

جو شخص کسی جانور پر سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمد للہ پڑھ لے تو اس جانور کے ہر قدم پر اس سوار کے حق میں ایک نیکی لکھی جائے گی۔

(تفسیر نعیمی جلد اول ص ۴۲)

کشتی میں نیکیاں ہی نیکیاں

جو شخص کشتی میں سوار ہوتے وقت بسم اللہ اور الحمد للہ پڑھ لے۔ جب

تک وہ اُس میں سوار رہے گا اُسکے واسطے نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔

(تفسیر نعیمی جلد اول ص ۴۲)

محترم اسلامی بہنو! بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے فضائل اس قدر زیادہ ہیں کہ پڑھ یا سن کر جی چاہتا ہے کہ ہر وقت بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ہی پڑھتے رہیں مگر یہ سعادت صرف رب ہی کی عنایت سے مل سکتی ہے۔

### زہر قاتل بے اثر ہو گیا

ایک مرتبہ سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کچھ مجوسیوں نے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں کوئی ایسی نشانی بتائیے جس سے ہم پر اسلام کی حقانیت واضح ہو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ عنہ نے زہر قاتل منگوایا اور بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھ کر اُسے کھا لیا۔ بسم اللہ کی برکت سے اس زہر قاتل نے آپ رضی اللہ عنہ پر کوئی اثر نہ کیا۔ یہ منظر دیکھ کر مجوسی آتش پرست بے ساختہ پکار اٹھے دین اسلام حق ہے۔

(تفسیر کبیر ج اول ص ۱۵۵)

پیاری اسلامی بہنو! معلوم ہوا کہ کھانے پینے سے قبل بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھ لینے سے جہاں آخرت کا عظیم ثواب ہے وہیں دنیا میں بھی اس کا یہ فائدہ ہے کہ اگر کھانے یا پینے کی چیز میں کوئی مفر (نقصان دہ) اجزاء شامل ہوں بھی تو وہ انشاء اللہ عزوجل نقصان نہیں کریں گے۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر یہ زہر اثر نہ کرنے کا یہ واقعہ دیگر کتب میں کچھ الفاظ کے فرق کے ساتھ بھی ملتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ بار یہ کرامت ظاہر ہوئی ہو۔

### خوفناک زہر

حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے مقام ”حیرہ“ میں جب اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تو لوگوں نے عرض کیا باسیدی ہمیں اندیشہ ہے کہ کہیں یہ عجمی لوگ

آپ کو زہر نہ دے دیں لہذا محتاط رہئے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لاؤ میں دیکھ لوں کہ عجیبوں کا زہر کیسا ہوتا ہے؟ لوگوں نے آپ رضی اللہ عنہ نے بسم اللہ پڑھ کر کھالیا۔ الحمد للہ عزوجل آپ رضی اللہ عنہ کو بال برابر بھی فرر یعنی نقصان نہ پہنچا اور ”کلبی“ کی روایت میں یہ ہے کہ ایک عیسائی پادری جس کا نام عبدالمسیح تھا۔ ایک ایسا زہر لے کر آیا کہ اُس کے کھالینے سے ایک گھنٹہ کے بعد موت یقینی ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اُس سے زہر مانگ کر اُس کے سامنے ہی بِسْمِ اللّٰهِ وَ بِاللّٰهِ رَبِّ الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ بِسْمِ اللّٰهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ دَاءٌ۔ پڑھا اور زہر کھا گئے۔ یہ منظر دیکھ کر عبدالمسیح نے اپنی قوم سے کہا۔ اے میری قوم! انتہائی حیرتناک بات ہے کہ یہ اتنا خطرناک زہر کھا کر بھی زندہ ہیں۔ اب بہتر یہی ہے کہ ان سے صلح کر لی جائے۔ ورنہ ان کی فتح یقینی ہے۔ یہ واقعہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ہوا۔

(مخلص از حجۃ اللہ علی العالمین ج ۲ ص ۶۱۷)

اللہ عزوجل کی اُن پر رحمت ہو اور اُن کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔  
پیاری اسلامی بہنو! دیکھا آپ نے! سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ پر اللہ عزوجل کا کتنا خاص کرم تھا اور یقیناً باذن اللہ یہ آپ رضی اللہ عنہ کی کرامت تھی۔ کرامت کی بیشمار اقسام ہیں۔ جن میں سے ایک قسم مہلکات (یعنی ہلاک کر دینے والی اشیاء) کا اثر نہ کرنا بھی ہے۔

کھانے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھے

کھانے پینے سے قبل بسم اللہ پڑھنا سنت ہے۔ حضرت سیدنا حدیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے وہ کھانا شیطان کے لئے حلال ہو جاتا ہے۔

(یعنی بسم اللہ نہ پڑھنے کی صورت میں شیطان اُس کھانے میں شریک ہو جاتا ہے۔)

(صحیح مسلم ج ۲ ص ۷۲ رقم الحدیث ۲۰۱۲)

### کھانے کو شیطان سے بچاؤ۔

کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھنے سے کھانے میں بے برکتی ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم تاجدار رسالت، ماہ نبوت، مالک کوثر و جنت، محبوب رب العزت عزوجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں حاضر تھے۔ کھانا پیش کیا گیا۔ ابتداء میں اتنی برکت ہم نے کسی کھانے میں نہیں دیکھی مگر آخر میں بری بے برکتی دیکھی۔ ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ عزوجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں ہوا؟ ارشاد فرمایا۔ ہم سب نے کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی تھی۔ پھر ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانے کو بیٹھ گیا۔ اُس کے ساتھ شیطان نے کھانا کھایا۔

(شرح السنہ ج ۶ ص ۶۲ رقم الحدیث ۲۸۱۸)

### بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ

اُم المؤمنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے۔ جب کوئی شخص کھانا کھائے تو اللہ عزوجل کا نام لے۔ یعنی بسم اللہ پڑھے اور اگر شروع میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو یوں کہے، بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ۔

(ابوداؤد شریف ج ۳ ص ۳۵۶ رقم الحدیث ۳۷۶۷)

## شیطان نے کھانا اُگل دیا

حضرت سیدنا امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور سر اپا نور، فیض گنجور، شاہ غیور، محبوب رب غفور عزوجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے تھے۔ ایک شخص بغیر بسم اللہ پڑھے کھانا کھا رہا تھا۔ جب کھا چکا اور صرف ایک ہی لقمہ باقی رہ گیا تو وہ لقمہ اٹھایا اور اُس نے کہا۔ بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلَهُ وَاٰخِرَهُ ۔

تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر ارشاد فرمایا۔ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا جب اس نے اللہ عزوجل کا نام لیا۔ تو جو کچھ اُس کے پیٹ میں تھا اُگل دیا۔

(ابوداؤد شریف ج ۳ ص ۳۵۶ رقم الحدیث ۳۷۶۸)

## نگاہِ مصطفیٰ سے کچھ پوشیدہ نہیں

محترم پیاری بہنوں! جب بھی کھانا کھائیں یاد کر کے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھ لیا کریں۔ جو نہیں پڑھتا اس کا قرین نامی شیطان بھی کھانے میں ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ سیدنا امیہ بن مخشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ ہمارے بیٹھے بیٹھے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس نگاہیں سب کچھ دیکھ لیا کرتی ہیں۔ جہی تو شیطان کو قے کرتا ہو ملاحظہ فرمایا اور شیطان کی بدحواسی دیکھ کر مسکرا دیئے۔ چنانچہ مفتی احمد یار خان علیہ الرحمۃ المنان فرماتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس نظریں حقیقت میں چھپی ہوئی مخلوق کو بھی ملاحظہ فرماتی ہیں۔ اور حدیث مبارک بالکل اپنے ظاہری معنی پر ہے کسی تاویل کی ضرورت نہیں۔ جیسے ہمارا پیٹ مکھی والا کھانا جبکہ مکھی اس میں موجود ہو قبول نہیں کرتا۔ ایسے ہی شیطان کا معدہ بسم اللہ والا کھانا ہضم نہیں کر پاتا اگرچہ اُس کا قے کیا ہوا کھانا ہمارے کام نہیں آتا۔ مگر مردود بیمار پڑ جاتا ہے اور بھوکا ہی رہ جاتا ہے اور

ہمارے کھانے کی فوت شدہ برکت لوٹ آتی ہے۔ غرضیکہ اس میں ہمارا فائدہ ہے اور شیطان کے دو نقصان اور ممکن ہے کہ وہ مردود آئندہ ہمارے ساتھ بغیر بسم اللہ والا کھانا بھی اس ڈر سے نہ کھائے کہ شاید یہ بیچ میں بسم اللہ پڑھ لے اور مجھے قے کرنی پڑ جائے حدیث پاک میں جس آدمی کا ذکر ہے غالباً وہ اکیلا کھا رہا تھا اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھاتا تو بسم اللہ نہ بھولتا کیوں کہ وہاں تو حاضرین بسم اللہ بلند آواز سے کہتے تھے اور ساتھ والوں کو بسم اللہ کہنے کا حکم کرتے تھے۔

(مرآة شرح مشکوٰۃ ج ۶ ص ۳۰)

## 76 ہزار نیکیاں

حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ منورہ، سردار مکہ مکرمہ، سرور دوسرا، محبوب کبریاء عزوجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان فرحت نشان ہے جو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اُس کے نامہ اعمال میں چار ہزار نیکیاں درج فرمائے گا چار ہزار گناہ بخش دے گا اور چار ہزار درجات بلند فرمائے گا۔

(فردوس الاخبار ج ۳ ص ۲۶ رقم الحدیث ۵۵۷۳)

پیاری اسلامی بہنو! جھوم جائیے! اپنے پیارے پیارے اللہ کی رحمت پر قربان ہو جائیے۔ ذرا حساب تو لگائیے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں ۱۹ حروف ہیں۔ یوں ایک بار بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھنے سے چہتر ہزار نیکیاں ملیں گی۔ چہتر ہزار گناہ معاف ہوں گے اور چہتر ہزار درجات بلند ہوں گے۔ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ (یعنی اور اللہ عزوجل صاحب فضل و عظمت ہے)

بوقت ذبح الرحمن الرحیم نہ پڑھنے کی حکمت

حضرت مفتی احمد یار خان علیہ المنان خدائے رحمن عزوجل کی رحمت بے پایاں کا



تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ غور تو کرو کہ سورۃ توبہ میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ نہیں لکھی گئی اسی طرح ذبح کے وقت پوری بسم اللہ نہیں پڑھتے بلکہ یوں کہتے ہیں بِسْمِ اللّٰهِ اللّٰہ اکبر۔ اس میں کیا حکمت ہے؟ حکمت یہ ہے کہ سورۃ توبہ میں اول سے آخر تک جہاد اور قتال کا ذکر ہے اور یہ کافروں پر قہر ہے اسی طرح ذبح میں جانوروں کی جان لی جاتی ہے یہ بھی جبر و قہر کا وقت ہوتا ہے اس موقع پر رحمت کا ذکر نہ کرو۔ سبحان اللہ عزوجل تو جو شخص پوری بسم اللہ شریف یعنی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا ورد کرے تو ان شاء اللہ عزوجل خدا کے غضب سے محفوظ رہے گا۔

(تفسیر نعیمی جلد اول ص ۴۳)

## اُنیس حروف کی حکمتیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے ۱۹ حروف ہیں اور دوزخ پر عذاب دینے والے فرشتے بھی اُنیس۔ پس امید ہے کہ اس کے ایک ایک حرف کی برکت سے ایک ایک فرشتے کا عذاب دور ہو جائے دوسری خوبی یہ بھی ہے کہ دن رات میں ۲۴ گھنٹے ہیں جن میں سے پانچ گھنٹے پانچ نمازوں نے گھیر لئے اور ۱۹ گھنٹوں کے لئے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے اُنیس حروف عطا فرمائے گئے پس جو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کے اُنیس حروف عطا فرمائے گئے پس جو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کا ورد کرتا رہے۔ ان شاء اللہ عزوجل اس کا ہر گھنٹہ عبادت میں شمار ہوگا اور ہر گھنٹے کے گناہ معاف ہوں گے۔ (تفسیر کبیر جلد اول ص ۱۵۶)

## قبر سے عذاب اٹھ گیا

حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ایک قبر کے قریب گزرے تو عذاب ہو رہا تھا۔ کچھ وقفہ کے بعد پھر گزرے تو ملاحظہ فرمایا کہ اُس قبر میں

نور ہی نور ہے اور وہاں رحمت الہی عزوجل کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ علیہ السلام بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی عزوجل میں عرض کیا کہ مجھے اس کا بھید بتایا جائے۔ ارشاد ہوا۔ اے عیسیٰ علیہ السلام یہ شخص سخت گنہگار ہونے کے سبب عذاب میں گرفتار تھا۔ لیکن بوقت انتقال اُس کی بیوی امید سے تھی اُس کے لڑکا پیدا ہوا اور آج اُس کو مکتب بھیجا گیا۔ اُستاد نے اُس کو بسم اللہ پڑھائی۔ مجھے حیا آئی کہ میں اُس شخص کو زمین کے اندر عذاب دوں کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر میرا نام لے رہا ہے۔ (تفسیر کبیر ج اول ص ۱۵۵)

اللہ عزوجل کی اُن پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ سبحان اللہ عزوجل، سبحان اللہ عزوجل، سبحان اللہ عزوجل ہم سب کو چاہئے کہ اپنے بچوں کو ٹاٹا پاپا، سکھانے کی بجائے ابتداء ہی سے اللہ عزوجل کا نام لینا سکھائیں اور یہ نہیں کہ صرف مرنے والے والدین کو ہی اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں خود سیکھنے اور سکھانے والے کو بھی اس کی برکتیں نصیب ہوتی ہیں لہذا اپنے مدنی منے اور مدنی منی سے کھیلتے ہوئے سکھانے کی نیت سے اُن کے سامنے بار بار اللہ اللہ کرتے ہیں تو وہ بھی ان شاء اللہ عزوجل زبان کھولتے ہی سب سے پہلا لفظ اللہ کہیں گے اس طرح کی پاکیزہ سوچ ہمیں کہاں سے ملے گی۔ دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی سے وابستہ رہنے سے ملے گی۔

میٹھی میٹھی اسلامی بہنو!

اگر آپ رضائے الہی کو پانا چاہتی ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اپنے حلقے میں ہونے والے اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کیجئے۔ ان شاء اللہ اس کی برکت سے آپ کا سینہ مدینہ بن جائے گا۔

الحمد للہ دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی

جاتى ہى، خوش نصیب اسلامى بہنیں گھر گھر نیکی كى دعوت كى دھو میں مچارہى ہى۔ آپ  
بھى نیکی كى دعوت عام كرنے میں لگ جائیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
اپنا یے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كى پیاری بیٹی خاتونِ جنت حضرت فاطمہ  
رضی اللہ عنہا كى نورانى سیرت اپنا یے اور دونوں جہانوں میں عزت پائیے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت و ریاضت میں مصروف رکھے اور اخلاص كے ساتھ  
اعمالِ صالحہ پر کار بند رکھے۔

اٰمِیْنُ بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْنِ

صَلِّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنِ



## فضیلت تلاوت القرآن

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَاغْوِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى الْإِلِكِ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى الْإِلِكِ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

### ﴿فضیلت ڈورو پاک﴾

حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، سلطان باقرینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ جس نے مجھ پر روز جمعہ دوسو (200) بار درود پاک پڑھا۔ اُس کے دوسو سال کے گناہ معاف ہوں گے۔

(کنز العمال جلد ۱، صفحہ ۲۵۶، رقم الحدیث ۲۲۳۸ طباعت دارالکتب العلمیہ بیروت)

نام محمد ﷺ صل علی

آؤ اُن کا ذکر کریں جو ہیں دافع رنج و بلا

جن کو اُن کا قرب ملا ہے بن گئے ہادی و راہنما

سب پر اُن کی چشمِ کرم ہے واہ رے شانِ جوہ و سخا

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پیاری اسلامی بہنو! اللہ عزوجل نے قرآن میں اپنی قدرت و حکمت اور کبریائی

تکوینی دلیلیں پیش فرمائیں۔ ان میں سے اہل علم ہی اس سے ڈرتے ہیں اس طرح اہل علم کے علم کی عزت افزائی بھی فرمادی اور یہ بھی بتا دیا کہ اہل علم وہ ہیں جو آیات ربانی میں غور و فکر کرتے ہیں۔ اور ان اسرار و رموز کا سرخ لگاتے ہیں جو کائنات کے مختلف رویوں میں جلوہ نما ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اسے وہ رازداری اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں اور وہ ایسی تجارت کے امیدوار بھی ہیں۔

ہرگز نقصان نہیں دے گی تاکہ اللہ انہیں پورا پورا اجر عطا فرمائے اور اپنے فضل سے ان کے اجر میں مزید اضافہ فرمائے بیشک وہ بہت بخشنے والا بڑا قدر دان ہے یہ لوگ ایسی تجارت کر رہے ہیں جس میں نفع ہی نفع ہے جس میں خسارے اور گھائے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو ایسے پاکبازوں کو اللہ ان کے اعمال حسنہ کا پورا پورا اجر عطا فرمائے گا صرف اسی اجر پر بس نہیں بلکہ **يَزِيدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ** انہیں اپنے فضل و کرم سے مزید بخشے گا اس بخشش سے مزید کا اندازہ کون لگائے اس کو کس ترازو سے تو لا جائے اور کس پیمانے سے ناپا جائے وہ غفور بھی ہے اور شکور بھی خاص عمل اگر تھوڑا بھی ہو تو وہ اس کو قبول فرماتا ہے اور اس پر ثواب بے انداز عطا کرتا ہے۔

**بِقَبْلِ الْقَلِيلِ مِنَ الْعَمَلِ الْخَالِصِ وَ يُثِيبُ عَلَيْهِ الْجَزِيلُ مِنَ الثَّوَابِ**

(قرطبی منقول از ضیاء القرآن)

اللہ والے کون ہیں؟

تلاوت کی فضیلت میں حدیث سنئے اور جھومے چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ میں نے حضور سراج السالکین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے اسے چاہئے کہ وہ اللہ والوں کی عزت کرے صحابہ

کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا اللہ والا بھی کوئی ہے؟ تو حضور تاجدار رسالت، پیکر عظمت و شرافت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں! پوچھا گیا وہ کون ہے تو حضور محبوب العزت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں اللہ والے وہ ہیں جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں خبردار جو ان کی عزت و تکریم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی عزت و تکریم فرماتا ہے اور اسے جنت بھی عطا فرماتا ہے اور جو شخص ان کی توہین اور بے عزتی کرتا ہے تو اللہ اسے ذلیل و رسوا کرتا ہے اور اسے دوزخ میں داخل کرے گا مزید حضور اکرم نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ! اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرآن کریم کے حافظ سے بڑھ کر کوئی بھی زیادہ معزز و محترم نہیں ہے۔ مزید حضور دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً حافظ قرآن سے اللہ کی بارگاہ میں سوائے انبیاء کرام کے کوئی بھی معزز و محترم نہیں۔

(درۃ الناصحین)

### حافظ قرآن کی فضیلت

حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضور نبی مکرم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں یہ نہ بتا دوں کہ قیامت کے دن میری امت میں سب سے افضل کون ہوگا تو آپ کے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخبروا کرم فرمائیے۔ تو حضور رسول اکرم، سرور معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل وہ لوگ ہوں گے جو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر فرمائیں گے کہ میدان محشر میں یہ اعلان کر دو کہ جو شخص قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے وہ دو یا تین دفعہ اعلان کرے گا۔ تو رحمان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت

كرنے والوں كى صفیں كھڑى ہو جائیں گى اور ان میں سے كسى كو بهى يارائے گفتگونہ ہو گا يهاں تك اللہ كے نبى داؤد عليه السلام كھڑے ہو جائیں گے۔ تو اللہ تعالى ارشاد فرمائیں گے كہ اے لوگو! قرآن كريم پڑھو اپنى آوازوں كو بلند كرو ان میں سے ہر ايك اللہ تعالى كے كلام سے وہ كچھ پڑے گا جو اللہ نے اسے الہام كيا ہوگا۔ تو جو بهى قرآن كريم كى تلاوت كرے گا اللہ تعالى ان میں سے ہر ايك كے درجات كو ان كى خوبصورت آواز، حسن لحن، غور و فكر اور تدبر كى وجہ سے بلند فرمادے گا۔ پھر اللہ تعالى ارشاد فرمائیں گے اے ميرے اہل! كيا تمہیں معلوم ہے كہ دنيا میں تمہارے ساتھ كس نے زيادہ احسان كيا ہے وہ عرض كريں گے اے ہمارے پروردگار ہم انہیں خوب جانتے ہیں تو اللہ تعالى ارشاد فرمائے گا كہ جاؤ ميدان محشر میں تلاش كرو اور ہر وہ آدمى جسے تم جانتے ہو كہ اس نے تمہارے ساتھ احسان كيا ہے اسے اپنے ساتھ جنت میں داخل كر دو۔

(درۃ الناصحين)

### حافظ قرآن كو ناراض كرنے سے اللہ تعالى كا غضب

حضور كى مدنى سركار، محبوب رب اكبر صلى اللہ عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمايا كہ جس رات رب ذوالجلال نے مجھے معراج كا شرف بخشا تو میں نے اس رات سنا كہ كہنے والا يہ كہہ رہا تھا اے محمد صلى اللہ عليه وآله وسلم اپنى امت كو حكم دو كہ وہ تين اشخاص كى عزت كريں۔ (۱) اپنے والد كى (۲) عالم ربانى كى (۳) حافظ قرآن كى۔ مزيد فرمايا۔ اے محمد صلى اللہ عليه وآله وسلم اپنى امت كو اس بات سے ڈراؤ كہ وہ انہیں ناراض كرے يا ان كى توہين كرے كيونكہ جو انہیں ناراض كرے گا تو اس پر مير اغضب شديد ہوگا۔ اے محمد صلى اللہ عليه وآله وسلم! اہل قرآن، ہى ميرے اہل ہیں میں نے انہیں دنيا میں تمہارے پاس اس لئے بھیجا ہے تا كہ ان كے صدقے اہل دنيا كو عزت و احترام

حاصل ہوا اگر قرآن کریم ان کے سینوں میں محفوظ نہ ہوتا تو میں دنیا اور اہل دنیا کو ہلاکت کر دیتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! حاملین قرآن کو نہ عذاب دیا جائے گا اور نہ ہی قیامت کے دن ان سے حساب لیا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! حافظ قرآن جب اس دنیا سے رحلت فرماتا ہے تو اس پر میرے آسمان میری زمین اور میرے ملائکہ روتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین شخصوں کی جنت بہت مشتاق ہے۔ (۱) آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی (۲) آپ کے دونوں دوست ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی (۳) حافظ قرآن کی

### پیاری اسلامی بہنو! تلاوت قرآن کا اجر و ثواب

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضور پر نور مکی مدنی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی کتاب یعنی قرآن سے ایک حرف پڑھا اسے اس کے بدلے ایک حسنہ حاصل ہوگی اور حسنہ سے مراد دس نیکیاں ہیں پھر آپ نے فرمایا کہ الم ایک حرف نہیں بلکہ الف الگ حرف ہے لام الگ حرف ہے اور میم الگ حرف ہے تو گویا جس نے الم پڑھا اس کے نامہ اعمال میں تیس نیکیاں لکھ دی گئیں۔

(ترمذی شریف، امام ترمذی کے نزدیک یہ حسن اور صحیح ہے)

عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین وہ شخص ہے جس نے قرآن کریم پڑھا اور اسے لوگوں کو پڑھایا۔ جس ذات نے یہ ارشاد فرمایا اس نے سچ فرمایا۔

### قوموں کے عروج و زوال

جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں اس میں غور و فکر کرتے ہیں اس کے حقوق کا تحفظ



کرتے ہیں۔ اس میں بیان کردہ اوامر کی پیروی کرتے ہیں اور نواہی سے اجتناب کرتے ہیں تو انہیں اللہ تعالیٰ بلند مراتب پر فائز فرمادیتا ہے اور جو ان مذکورہ بالا چیزوں کو نظر انداز کرتے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ ذلیل و رسوا فرماتا ہے اگرچہ بظاہر انہیں دنیا کی شان و شوکت حاصل ہوتی ہے لیکن حقیقت میں وہ نایب و خاسر ہوتے ہیں کیونکہ اخروی نعمتوں میں سے انہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا جیسے حضور سراج السالکین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ اس قرآن کریم کے صدقے قوموں کے درجات بلند فرماتا ہے اور اس کے علاوہ دوسروں کو عزت و رفعت کے مرتبہ سے گرا دیتا ہے۔

جو شخص قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہوتا ہے اور وہ نہ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرتا ہے اور نہ ہی ذکر اذکار کی محفلوں میں شریک ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے کہیں زیادہ عطا فرماتا ہے جو اس سے مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے۔

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس آدمی کو قرآن کریم میرے ذکر سے اور مجھ سے مانگنے سے مشغول کر دے تو میں اسے کہیں زیادہ افضل عطا کروں گا جو میں مانگنے والوں کو عطا کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت باقی تمام کلام پر اسی طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔

قرآن کریم پڑھنے والے کی اور نہ پڑھنے والی کی مثال

حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ

رسول اکرم، سرور معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مومن کی مثال جو قرآن کریم پڑھتا ہے، لیموں کی طرح ہے جس کی خوشبو بھی عمدہ ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ بھی بہت عمدہ ہوتا ہے اور اس مومن کی مثال جو قرآن نہیں پڑھتا کھجور کی مانند ہے جس کی خوشبو نہیں ہوتی اور اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے اور وہ منافق جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور ریحانہ یعنی نیاز بو کی طرح ہوتا ہے جس کی خوشبو عمدہ اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اور وہ منافق جو قرآن کریم نہیں پڑھتا وہ حنظلہ یعنی اندرائن کی طرح ہے نہ جس میں خوشبو ہے اور اس کا ذائقہ کڑوا ہے اور ایک روایت میں منافق کی جگہ فاجر کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔

(احمد بخاری، مسلم، ابوداؤد، ترمذی، نسائی)

ابن ماجہ نے یہ حدیث پاک حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مومن جو قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے اور اسے پڑھتا ہے اس کی مثال اترجہ یعنی لیموں کی طرح ہے جس کی خوشبو پاکیزہ اور ذائقہ عمدہ ہوتا ہے اور وہ مومن جو قرآن کریم پڑھتا ہے اور عمل نہیں کرتا ہے وہ کھجور کی طرح ہے جس کی خوشبو نہیں ہوتی اور اس کا ذائقہ لذیذ ہوتا ہے۔ اور وہ فاجر آدمی جو قرآن کریم پڑھتا ہے وہ ریحانہ یعنی نیاز بو کی طرح ہے جس کی خوشبو عمدہ اور ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اور وہ فاجر جو قرآن کریم نہیں پڑھتا وہ حنظلہ یعنی اندرائن کی طرح ہے جس کی نہ خوشبو ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ کڑوا ہوتا ہے اور نیک ہم نشین کی مثال صاحب کستوری کی طرح ہے اگر آپ اس سے کچھ بھی حاصل نہ کریں تو اس کی خوشبو تیرے ہشام جان کو ضرور معطر کر دیتی ہے اور برے ہم نشین کی مثال دھونی دکھانے والے کی طرح ہے اگر تجھے اس کا کوئی نقصان نہ پہنچے تو بھی اس کا دھواں تیرے نتھنوں میں داخل ہوگا۔ (ابوداؤد)

## تلاوت قرآن نزول رحمت اور تسکین کا سبب ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سراج السالکین محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طویل حدیث شریف روایت کی ہے جس میں حضور تاجدار رسالت، پیکر عظمت و شرافت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کی تکالیف کو دور کرنے اور ان کے لئے آسانی پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا قیامت کی تکلیفوں کو دور فرمانے اور آسانی پیدا کرنے کا ذکر فرمایا ہے اس کا یہاں ذکر کر دینا فائدہ سے خالی نہیں ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ حضور محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مومن سے دنیا کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کی تکلیفوں میں سے ایک تکلیف دور فرمادیتا ہے اور جو کسی فقیر کے لئے آسانی مہیا کرتا ہے تو اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے لئے آسانی فرماتا ہے اور جو آدمی کسی مسلمان کا عیب چھپاتا ہے اللہ دنیا اور آخرت میں اسے پردے میں چھپالیتا ہے یعنی اسے رسوا نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ بندہ اپنے کسی مسلمان بھائی کی مدد میں رہتا ہے اور جو شخص کسی ایسے راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سبب جنت کی طرف جانے والا راستہ اس کے لئے آسان بنا دیتا ہے اور اگر اللہ کی مسجدوں میں سے کسی مسجد میں ایک جماعت جمع ہو جائے وہ اس میں اللہ کی کتاب کی تلاوت سے ذوق و شوق، دل کا نور اور قلب سے ظلمات نفسانیہ کا دور کرنا عطا فرمادیتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ (اس سے مراد ایک فرشتہ ہے جو بندہ مومن کے دل میں اترتا ہے اور اسے نیک کام کرنے کا حکم دیتا ہے اور اللہ کی اطاعت پر برا بیچتہ کرتا ہے) اور انہیں اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے (اور اللہ کے

فرشتے ان کے گرد گھومتے ہیں یعنی وہ ان کا قرآن کریم پڑھنا سنتے ہیں اور انہیں مصیبتوں سے بچاتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں اور ان سے ملاقات کرتے ہیں) اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر اس مخلوق میں کرتا ہے جو ان سے بہتر ہے یعنی ملائکہ اور وہ آدمی جس کا عمل آخرت میں اسے پیچھے ہٹا دے گا تو اس کا نسب اسے نسب سے جنت کی طرف نہیں لے جائے گا یعنی کسی شخص کا صرف نسب اس کی نجات کا باعث نہیں ہو گا۔ جبکہ ایمان و اعمال سے وہ تہی دامن ہو گا۔

### سورة البقرہ پڑھنے کا ثواب

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزنِ جوہر و سخاوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ بے شک جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے۔

(مسلم کتاب صلاۃ المسافرین، باب استحباب صلاۃ النافلۃ فی بیتہ الخ رقم ۷۸۰ ص ۳۹۳)

### سورة البقرہ اور آل عمران پڑھنے کا ثواب

حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: میں نے سید المبلغین، رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن پڑھا کرو کیونکہ یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ دو روشن سورتیں یعنی بقرہ اور آل عمران پڑھا کرو کیونکہ یہ دونوں سورتیں قیامت کے دن سایہ کرنے والے بادل کی طرح آئیں گی کہ گویا پرندوں کے جھنڈ ہیں جو اپنے پر پھیلائے ہوئے ہیں پھر یہ اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں جھگڑا کریں گے۔ سورہ البقرہ پڑھا کرو کیونکہ اسے پڑھنا باعث برکت اور چھوڑ دینا باعث حسرت ہے اور بطلہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے سیدنا معاویہ بن سلام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ خبر پہنچی ہے کہ بطلہ سے مراد

جادو گر ہیں۔

(مسلم کتاب صلاۃ المسافرین، باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرہ رقم ۸۰۲ ص ۴۰۳)

حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ البقرہ اور آل عمران سیکھو کیونکہ یہ روشن قیامت کے دن اپنے قاریوں پر سایہ کریں گی گویا سایہ کرنے والے بادل یا پر پھیلائے ہوئے پرندوں کا جھنڈ ہیں۔

(المستدرک، کتاب فضائل القرآن، باب اخبار فی فضل سورة البقرہ الخ رقم ۲۱۰۱ ج ۱ ص ۲۶۵۲)

### سورة یسین پڑھنے کا ثواب

حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم، جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورۃ بقرہ قرآن پاک کی رفعت ہے اور اس کی ہر آیت کے ساتھ اسی ۸۰ ملائکہ نازل ہوئے اور اللہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ کو عرش کے نیچے سے نکال کر اس سورت کے ساتھ ملایا گیا اور سورۃ یسین قرآن کا دل ہے جو اسے اللہ عزوجل کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لئے پڑھے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔

(مسند احمد، حدیث معقل بن یسار، رقم ۲۰۳۲۲ ج ۷ ص ۲۸۶)

حضرت سیدنا جناب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی رات میں اللہ عزوجل کی رضا کے لئے سورۃ یسین پڑھی اس کی مغفرت کر دی جائے گی۔

(الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، کتاب الصلاۃ فصل فی قیام الیل رقم ۲۵۲۵ ج ۴ ص ۱۲۱)

حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا! بے شک ہر چیز کا ایک دل ہے اور قرآن کا دل

سورۃ یسین ہے اور جو ایک مرتبہ سورۃ یسین پڑھے گا اس کے لئے دس مرتبہ قرآن پڑھنے کا ثواب لکھا جائے گا۔

(ترمذی، کتاب فضائل القرآن باب ماجاء فی فضل یس رقم ۸۹۶ ج ۴ ص ۴۰۶)

## سورۃ ملک پڑھنے کا ثواب

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم نور مجسم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص روزانہ رات میں تبارک الزی بیدہ الملک پڑھے گا اللہ عزوجل اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمادے گا، سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسے مانعہ (یعنی عذاب قبر سے بچانے والی) کہا کرتے تھے اور بیشک یہ قرآن کی ایک ایسی سورت ہے جو اسے رات میں پڑھتا ہے۔ وہ بہت زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔

(عمل الیوم واللیلۃ مع السنن الکبریٰ للنسائی الجزء الثالث رقم ۱۰۵۴ ج ۶ ص ۱۷۹)

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو عذاب اس کے قدموں کی جانب سے آئے گا تو اس کے قدم کہیں گے تیرے لئے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر عذاب اس کے سینے یا پیٹ کی طرف سے آئے گا تو وہ کہے گا کہ تمہارے لئے میری جانب سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا پھر وہ اس کے سر کی طرف آئے گا تو سر کہے گا کہ تمہارے لئے میری طرف سے کوئی راستہ نہیں کیونکہ یہ رات میں سورۃ ملک پڑھا کرتا تھا۔ تو یہ سورت روکنے والی ہے، عذاب قبر سے روکتی ہے تو رات میں اس کا نام سورۃ ملک ہے جو اسے رات میں پڑھتا ہے بہت زیادہ اور اچھا عمل کرتا ہے۔

(المستدرک، کتاب التفسیر باب المانع من عذاب سورۃ الملک رقم ۳۸۹۲ ج ۳ ص ۳۲۲)

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے ایک قبر پر اپنا خیمہ لگایا مگر انہیں علم نہ تھا کہ یہاں قبر ہے لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہاں کسی شخص کی قبر ہے جو سورہ ملک پڑھ رہا ہے اور اس نے پوری سورت ختم کی وہ صحابی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! میں نے ایک قبر پر خیمہ تان لیا مگر مجھے معلوم نہ تھا کہ وہاں قبر ہے جبکہ وہاں ایک ایسے شخص کی قبر ہے جو روزانہ پوری سورہ ملک پڑھتا ہے۔ تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہی روکنے والی ہے، یہی نجات دلانے والی ہے جس نے اسے عذابِ قبر سے محفوظ رکھا۔

(ترمذی، کتاب فضائل القرآن، باب ماجاء فضل سورۃ ملک رقم ۲۸۹۹ ج ۲ ص ۴۰۷)

پیاری اسلامی بہنو! قرآن نہ پڑھنے اور اس کی طرف عدم توبہ کی سزا

وہ شخص جس نے قرآن کریم میں سے کچھ بھی حاصل نہ کیا ہو وہ اس گھر کی مانند ہے جو کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اکرم، نور کے پیکر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی مروی ہے آپ فرماتے ہیں حضور سر اپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی جس کے دل میں قرآن کریم کا کچھ حصہ بھی نہ ہو تو وہ اس گھر کی مانند ہے جو کھنڈرات میں بدل چکا ہو یعنی نہ اس کی دیواریں اور چھت درست ہوں اور نہ ہی اس میں کوئی مکین ہو۔

قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کے قرآن کریم سے منہ پھیر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں سزا دیتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى ۝ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ

بَصِيرًا ۝ قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا ۖ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ  
تُنْسَى ۝ (طہ: ۱۲۶، ۱۲۷)

اور جس نے منہ پھیرا میری یاد قرآن سے تو اس کے لئے زندگی کا جامہ  
تنگ کر دیا جائے گا اور ہم اسے اٹھائیں گے قیامت کے دن اندھا کر کے  
تو وہ کہے گا۔ اے میرے رب! کیوں اٹھایا تو نے مجھے نابینا کر کے میں تو  
(پہلے بالکل) بینا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس طرح آئی تھیں تیرے  
پاس ہماری آیتیں سو تو نے انہیں بھلا دیا۔ اسی طرح آج تجھے فراموش کر  
دیا جائے گا۔

علامہ ابن کثیر اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو شخص ذکر الہی  
سے منہ موڑتا ہے اور احکام خداوندی سے روگردانی کرتا ہے وہ دولت اور ثروت کے  
انبار جمع کر لینے کے باوجود جاہ جلال کے بلند ترین مناسب پرفائز ہونے کے باوجود  
اظمینان قلب کی نعمت سے محروم رہتا ہے۔ اس کے دسترخوان پر لذیذ ترین کھانے  
چنے جاتے ہیں وہ بیش قیمت لباس زیب تن کئے ہوتا ہے لیکن اس کا دل اُداس روح  
بے چین اور طبیعت افسردہ رہتی ہے۔ سچی خوشی سے وہ کبھی بہرہ مند نہیں ہوتا دن  
رات دولت یا اقتدار کے حصول میں سرگرداں رہتا ہے پھر اس کی حفاظت کی فکر ہر  
وقت دامن گیر رہتی ہے وہ حرام اور ناجائز ذرائع استعمال کرنے سے باز نہیں آتا۔  
اس طرح اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے اور یہ ملامت بڑی شدید اور دل گداز قسم کی  
ہوتی ہے وہ خود اپنی آنکھوں سے محروم ہوتا ہے اس کے دامن کے بد نما داغ اسے ہر  
وقت گھورتے رہتے ہیں۔ یہ سزا تو دنیا میں اسے ملی اور جب وہ روز محشر اٹھے گا تو  
اندھا ہو کر اٹھے گا۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا پھیلا ہوا محسوس ہوگا۔ دوسری آیت  
میں ہے:



وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيًَّا وَبُكْمًا وَصُمًّا ط

(بنی اسرائیل ۹۷)

یعنی ہم انہیں قیامت کے دن ان کے منہ کے بل اٹھائیں گے اندھے،  
گونگے اور بہرے۔

اس وقت وہ اپنے آپ کو اندھا پا کر کہے گا الہی میں تو دنیا میں بیٹا تھا میری  
آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں میری بینائی بڑی تیز تھی آج کیا ہو گیا مجھے کچھ نظر نہیں آ  
رہا۔ آخر مجھے اتنی سخت سزا کیوں دی جا رہی ہے تو اسے جواب ملے گا تم درست کہتے  
ہو لیکن تمہیں یاد ہے کہ میری آیتیں پڑھ کر تمہیں سنائی گئیں ہدایت کی دعوت دی گئی  
میرے بندوں نے تجھے سمجھانے کی بڑی کوشش کی لیکن تو نے میری آیات کو فراموش  
کر دیا اور انہیں پس پشت ڈال دیا سو یہ اس کی سزا ہے یہاں آج تمہیں فراموش کر دیا  
گیا ہے نسی مامعنی بھلانا بھی ہے اور نظر انداز کر دینا بھی یہاں دوسرا بھی زیادہ مناسب  
ہے۔

(ضیاء القرآن شریف)

الحمد للہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مہکے  
مدنی ماحول میں بکثرت سنئیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، آپ بھی اسلامی بہنوں کے  
ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی مدنی التجاء ہے، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ  
وآلہ وسلم کے مدنی قافلے بھی سنتوں کی تربیت کے لئے قریہ قریہ، شہر شہر، ملک بملک  
سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر پر آمادہ  
کیجئے اور انہیں تیار کر کے مدنی مرکز بھیج دیجئے۔ آپ کے شفقت فرمانے سے اگر آپ  
کا کوئی عزیز مدنی قافلے کا مسافر بن گیا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی سینہ بھی مدینہ  
بن جائے گا۔

خوش نصیب اسلامی بہنیں فکرِ مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات پر عمل کرتی ہیں، آپ بھی 63 مدنی انعامات کا کارڈ حاصل کیجئے اور روزانہ اُسے پُر کرنے کا معمول بنائیے اور ہر مدنی ماہ کی ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنی حلقہ ذمہ دار اسلامی بہن کو جمع کروا دیجئے۔ ان شاء اللہ عزوجل اس کی برت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لئے کڑھنے کا ذہن بنے گا۔

ہر اسلامی بہن اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ان شاء اللہ عزوجل

اپنی اصلاح کے لئے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے۔ ان شاء اللہ عزوجل اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی سہر بلندی کے لئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دعوتِ اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرمائے۔

اٰمِیْنُ بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْنِ

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنِ



## فضائل درود و سلام

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَاَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى الْإِكِّ وَأَهْلِ حَبَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى الْإِكِّ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

### ﴿ فضیلت درود پاک ﴾

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی مجھ پر درود و سلام بھیجتا ہے تو اللہ تعالیٰ اُس کا  
جواب دینے کے لئے میری قوت گویائی لوٹا دیتا ہے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الناسک، باب زیارة القبور، رقم الحدیث ۲۰۴۱، جلد ۲، صفحہ ۳۲۵)

دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان

کان لعل کرامت پہ لاکھوں سلام

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ ﷺ

پیارے اسلامی بہنو! حصول برکت اور ترقی معرفت اور حصول پر نور، محسن انسانیت  
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربت کے لئے درود و سلام سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے یقیناً

سرکارِ مدینہِ راحتِ قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ ان کو احاطہ بیان میں لانا ممکن نہیں۔ درود شریف کے فضائل میں بے شمار کتب تصنیف کی جا چکی ہیں۔ اس کے فضائل و ثمرات اکثر مبلغین بیان کرتے رہتے ہیں۔ قلم کی روشنائی تو ختم ہو سکتی ہے۔ بیان کے الفاظ بھی ختم ہو سکتے ہیں۔ مگر فضائلِ درود و سلام بہ خیر الٰہی نام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔

دن ہو یا رات ہمیں اپنے محسن و غمگسار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے پھول نچھاور کرتے ہی رہنا چاہئے۔ اسی میں کوتاہی نہیں کرنی چاہئے یوں بھی سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں۔ بطنِ سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دنائے آب و گل میں جلوہ افروز ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور ہونٹوں پر یہ دعا جاری تھی۔

رَبِّ هَبْ لِي أُمَّتِي پروردگار امیر کی امت میرے حوالے فرما: رَبِّ هَبْ لِي أُمَّتِي کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق عزوجل نے فرمایا کہ بخشا الصلوٰۃ والسلام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفرِ معراج پر روانگی کے وقت امتِ عاصیوں کو یاد فرما کر آبدیدہ ہو گئے۔ دیدارِ جمالِ خداوندی عزوجل اور خصوصی نوازشات کے وقت بھی گنہگار ان امت کو یاد فرمایا۔ عمر بھر گناہ گاران امت کے لئے غمگین رہے لہذا محبت اور عقیدت بلکہ مروت کا بھی یہی تقاضا ہے کہ غمخوار امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد اور درود و سلام سے کبھی غفلت نہ کی جائے۔

جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا

ذکر اُس کا اپنی عادت کیجئے

اگر کوئی شخص کسی پر احسان کرے تو چاہئے کہ محسن کا بدلہ دیا جائے۔ اگر بدلہ نہ ہو

سکے تو کم از کم اُس کے لئے دعاء کر دی جائے۔ اگر کسی کے گھر دعوت کھائیں تو اُس

کے لئے بھی دعا کریں۔ غور فرمائیں پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر کتنے احسانات ہیں مگر یہ کب ممکن ہے کہ ہم ان کا شکر یہ ادا کر سکیں۔ بس اتنا ہی کریں کہ اُن پر درود و سلام کے تحفے بھیجا کریں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کیا کریں۔ جیسے فقراء سخی داتا کو دائیں دیتے ہیں۔ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا! دل تم پہ فدا جان حسن تم پہ فدا ہو

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا نَبِیَّ اللّٰهُ

وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللّٰهِ

مذکورہ بالا آیت کریمہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محترع نعت ہے اس میں ایمان والوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا گیا ہے لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے قرآن کریم میں کافی احکامات صادر فرمائے مثلاً نماز، روزہ، حج وغیرہ وغیرہ۔ مگر کسی جگہ یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ یہ کام ہم بھی کرتے ہیں۔ ہمارے فرشتے بھی کرتے ہیں اور ایمان والو! تم بھی کیا کرو۔ صرف درود شریف کے لئے ہی ایسا فرمایا گیا ہے۔ اس کی وجہ بالکل ظاہر ہے کیونکہ کوئی کام بھی ایسا نہیں جو خدا عزوجل کا بھی ہو اور بندے کا بھی۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام ہم نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے کاموں سے اللہ عزوجل بند و بالا ہے۔

اگر کوئی کام ایسا ہے جو اللہ عزوجل کا بھی ہو ملائکہ بھی کرتے ہوں اور مسلمانوں کو بھی اس کا حکم دیا گیا ہو وہ صرف اور صرف آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے جس طرح ہلال عید پر سب کی نظریں نزع ہو جاتی ہیں اسی طرح مدینہ کے چاند پر ساری مخلوق کی اور خود خالق عزوجل کی بھی نظر ہے۔ جنکے ہاتھوں کے بنائے ہوئے حسن و جمال! اے حسین تیری اداؤں کو پسند آئی ہے ایسا تجھے خالق

عزوجل نے طرحدار بنایا! یوسف علیہ السلام کو تیرا طالب دیدار بنایا اللہ عزوجل کا درود ہے رحمت نازل فرمانا، جبکہ فرشتوں کا اور ہمارا درود دعائے رحمت کرنا ہے۔

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا نَبِیَّ اللّٰه  
وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا نُوْرَ اللّٰهِ

پیارى اسلامى بہنو! اللہ عزوجل نے آیت مبارکہ میں یہ خبر دی ہے کہ ہم ہر آن اور ہر گھڑی اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کی بارش برساتے ہیں۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ عزوجل خود ہی رحمتیں نازل فرما رہا ہے تو ہمیں درود شریف پڑھنے یعنی رحمت کے لئے دعا مانگنے کا کیوں حکم دیا جا رہا ہے۔ کیوں کہ مانگی وہ چیز جاتی ہے جو پہلے سے حاصل نہ ہو تو جب پہلے ہی سے رحمتیں اتر رہی ہیں پھر مانگنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی سوالی کسی دروازہ پر مانگنے جاتا ہے تو گھر والے کے مال و اولاد کے حق میں دعائیں مانگتا ہوا جاتا ہے۔ سخی کے بچے زندہ رہیں مال سلامت رہے، گھر آباد رہے وغیرہ وغیرہ۔ جب یہ دعائیں مالک مکان سنتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ مہذب سوالی ہے بھیک مانگنا چاہتا ہے۔ مگر ہمارے بچوں کی خیر مانگ رہا ہے۔ خوش ہو کر کچھ نہ کچھ جھولی میں ڈال دیتا ہے۔ یہاں حکم دیا گیا۔ اے ایمان والو! جب تم ہمارے یہاں کچھ مانگنے آؤ تو ہم تو اولاد سے پاک ہیں۔ مگر ہمارا ایک پیارا حبیب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اس کے اہل بیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اس کے اصحاب کی خیر مانگتے ہوئے۔ ان کو دعائیں دیتے ہوئے آؤ تو جن رحمتوں کو ان پر بارش ہو رہی ہے اس کا تم پر بھی چھینٹا ڈال دیا جائے گا۔ درود شریف پڑھنا دراصل اپنے پروردگار کی بارگاہ سے مانگنے کی ایک اعلیٰ ترکیب ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمہ تن کرم بنایا! ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بنایا۔ نیز اس آیت مقدسہ میں

مسلمانوں کو متنبہ (خبردار) فرمادیا گیا کہ اے درود و سلام پڑھنے والو! ہرگز ہرگز یہ گمان بھی نہ کرنا کہ ہمارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری رحمتیں تمہارے مانگنے پر موقوف ہیں۔ اور ہمارے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درود و سلام کے محتاج ہیں۔ تم درود پڑھو یا نہ پڑھو۔ ان پر ہماری رحمتیں برابر برستی ہی رہتی ہیں۔ تمہاری پیدائش اور تمہارا درود و سلام پڑھنا تو اب ہو۔ پیارے حبیب، محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمتوں کی برسات تو جب سے ہے جبکہ ”جب“ اور ”کب“ بھی نہ بنا تھا۔ ”جہاں“ ”وہاں“ ”کہاں“ سے بھی پہلے ان پر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں۔ تم سے درود و سلام پڑھوانا یعنی پیارے محبوب پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دعائے رحمت منگوانا تمہارے اپنے ہی فائدے کے لئے ہے تم درود و سلام پڑھو گے تو اس میں تمہیں کثیر اجر و ثواب ملے گا۔

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ

وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِیْبَ اللّٰهِ

درود و سلام پڑھنے والی اسلامی بہنو! آپ کو مبارک ہو۔ جب آپ ایک بار درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ عز و جل دس بار رحمت بھیجتا ہے دس درجات بلند کرتا ہے۔ دس نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ دس گناہ مٹاتا ہے۔ دس غلام آزاد کرنے کا ثواب اور بیس غزوات میں شمولیت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ (جذب القلوب)

درود پاک سب قبولیت دعا ہے۔ اس کے پڑھنے سے شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واجب ہو جاتی ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باب جنت پر قرب نصیب ہوگا۔ درود پاک تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لئے اور تمام حاجات کی تکمیل کے لئے کافی ہے۔ درود پاک گناہوں کا کفارہ ہے صدقہ کا قائم مقام بلکہ صدقہ سے بھی افضل ہے درود شریف سے مصیبتیں ٹلتی ہیں بیماریوں سے شفاء حاصل ہوتی ہے

خوف دور ہوتا ہے۔ ظلم سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ اللہ عزوجل کی رضا حاصل ہوتی ہے اور دل میں اُس کی محبت پیدا ہوتی ہے فرشتے اُس کا ذکر کرتے ہیں۔ اعمال کی تکمیل ہوتی ہے۔ دل و جان اسباب و مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔ پڑھنے والا خوشحال ہو جاتا ہے برکتیں حاصل ہوتی ہیں اولاد در اولاد چار نسلوں تک برکت رہتی ہے۔ (جذب القلوب) درود شریف پڑھنے سے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات حاصل ہوتی ہے سکرات موت میں آسانی ہوتی ہے۔ دنیا کی تباہ کاریوں سے خلاصی (نجات) ملتی ہے۔ تنگدستی دور ہوتی ہے۔ بھولی ہوئی چیزیں یاد آ جاتی ہیں۔ ملائکہ درود پاک پڑھنے والے کو گھیر لیتے ہیں درود شریف پڑھنے والا جب پل صراط سے گزرے گا تو نور پھیل جائے گا اور وہ اُس میں ثابت قدم ہو کر پلک جھپکنے میں نجات پا جائے گا۔ اور عظیم تر سعادت یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے کا نام حضور سراپا نور تاجدار مدینہ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی ہے محاسن نبویہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل میں گھر کر جاتی ہیں اور کثرت درود شریف سے صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور ذہن میں قائم ہو جاتا ہے اور خوش نصیبوں کو درجہ قربت مصطفوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل ہو جاتا ہے اور خواب میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار فیض آثار نصیب ہوتا ہے روز قیامت مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مصافحہ کی سعادت نصیب ہوتی ہے۔ روز قیامت مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واسطہ رکھنے والوں کو فرشتے مرحبا کہتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں فرشتے اُس کے درود کو سونے کے قلموں سے چاندی کی تختیوں پر لکھتے ہیں۔ اور اُس کے لئے دعائے مغفرت کرتے ہیں اور فرشتگان سیاحین (زمین پر سیر کرنے والے فرشتے) اُس کے درود شریف کو مدنی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہہ میں پڑھنے والے اور اُس کے باپ کے نام کے ساتھ پیش کرتے ہیں۔ (جذب القلوب)



## سعادت عظمى

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (جذب القلوب) میں مزید فرماتے ہیں کہ درود و سلام پیش کرنے والے کے لئے سعادت در سعادت یہ ہے کہ اُسے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس جواب سلام سے مشرف فرماتے ہیں۔ ایک ادنیٰ غلام کے لئے اس سے بالاتر سعادت اور کون سی ہو سکتی ہے؟

کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود جواب سلام کی صورت میں دعائے خیر و سلامتی فرمائیں۔ اگر تمام عمر میں صرف ایک بار بھی یہ شرف حاصل ہو جائے تو ہزار ہا شرافت و کرامت اور خیر و سلامتی کا موجب ہے۔

یہی آرزو ہو جو سرخرو ملے دو جہان کی آبرو! میں کہوں غلام ہوں آپ کا وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔

## حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مہر دس بار درود شریف

اللہ عزوجل نے جب حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پیدا فرمایا تو آنکھ کھولتے ہی عرش پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم گرامی لکھا ہوا دیکھا۔ عرض کیا۔ یا اللہ عزوجل تیری بارگاہ میں کوئی مجھ سے بھی زیادہ عزت والا ہے؟ ارشاد باری عزوجل ہوا ہاں۔ اس نام والا پیارا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ تیری اولاد میں سے ہوگا۔ میرے نزدیک تجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ اے پیارے آدم علیہ السلام اگر میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا فرمایا نہ ہوتا تو نہ آسمان پیدا کرتا نہ زمین، نہ جنت پیدا کرتا اور نہ دوزخ، پھر جب اللہ عزوجل نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مبارک پسلی سے حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا۔ چونکہ اللہ عزوجل نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم اطہر میں شہوت بھی پیدا

فرمادی تھی حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ عزوجل میرا اس کے ساتھ نکاح کر دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا۔ اس کا مہر ادا کرو۔ عرض کیا مولیٰ اس کا مہر کیا ہے؟ فرمایا جو عرش پر نام نامی لکھا ہے۔ اس نام والے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دس بار درود پاک پڑھو عرض کی یا اللہ عزوجل اگر درود شریف پڑھوں تو حوا علیہ السلام کے ساتھ میرا نکاح کر دے گا؟ فرمایا ہاں تو حضرت آدم علیہ السلام نے درود پاک پڑھا اور اللہ عزوجل نے ان کا حضرت حوا علیہ السلام کے ہمراہ نکاح کر دیا۔

(سعادة الدارين)

الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَیْكَ يَا نَبِیَّ اللّٰه

وَعَلٰی اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللّٰهِ

امداد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ایک غریب شخص تھا جس پر پانچ سو درہم کا قرضہ تھا۔ اُسے ایک رات سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ اُس نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی پریشانی عرض کی: سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تم ابوالحسن کیسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے اُسے کہو کہ وہ تمہیں پانچ سو درہم دے۔ وہ نیشاپور میں ایک سخی مرد ہے۔ ہر سال دس ہزار غریبوں کو کپڑے دیتا ہے۔ وہ اگر تم سے کوئی نشانی طلب کرے تو کہہ دینا۔ تم ہر روز دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سو بار درود پاک کا تحفہ پیش کرتے رہو۔ مگر کل تم نے درود پاک نہیں پڑھا۔

وہ شخص بیدار ہوا اور ابوالحسن کیسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچ گیا۔ اور اپنا حال زار بیان کیا ساتھ ہی سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بھی سنایا تو ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ سنتے ہی وجد میں آگئے اور تخت سے اتر کر دربار الہی میں سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر کہا

اے بھائی! یہ میرے اور اللہ عزوجل کے درمیان ایک راز تھا۔ دوسرا کوئی اس راز سے واقف نہ تھا۔ واقعی کل میں درود پاک پڑھنے سے محروم رہا تھا۔ پھر ابو الحسن کیسانی نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ ان کو پانچ سو کے بجائے دو ہزار پانچ سو درہم دے دو، پھر کہا اے بھائی! پانچ سو درہم سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیل میں پیش کر رہا ہوں۔ ایک ہزار درہم مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے پیغام اور بشارت لانے کا شکرانہ ہے اور یہ لیکر ہزار درہم آپ کے یہاں قدم رنجہ فرمانے کا نذرانہ ہے۔ مزید کہا کہ آپ کو آئندہ جب کبھی کوئی ضرورت پیش ہو میرے پاس ضرور تشریف لایا کریں۔

(معارض النبوة)

مشکل جو آ پڑی کبھی تیرے ہی نام سے ٹلی

مشکل کشا ہے تیرا نام نبیوں کے سرور امام ﷺ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

پیاری اسلامی بہنو! اللہ عزوجل کے کروڑہا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ جو اپنی امت کے تمام احوال کو جانتے ہیں۔ امت کی پریشانیوں کو بھی جانتے ہیں۔ مدد اور دستگیری بھی فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیز میں آیت مبارکہ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (یعنی اور یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گواہ ہیں) کے تحت فرماتے ہیں تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر قیامت کے دن اس وجہ سے گواہی دیں گے کہ وہ نور نبوت سے ہر مومن کے رتبے کو جانتے ہیں کہ اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میرے فلاں امتی کی ترقی میں کیا چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے الحاصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

تمہارے گناہوں کو بھی جانتے ہیں اور تمہارے ایمان کے درجات سے بھی باخبر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اچھے بُرے اعمال سے بھی واقف ہیں اور تمہارے اخلاص و نفاق پر بھی آگاہ ہیں۔ (تفسیر عزیزی سورۃ بقرہ)

اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا  
جب نہ خدا عزوجل ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود  
الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ  
وَعَلَىٰ اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللّٰهِ

تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عیدِ کراوی!

حضرت شیخ ابوالحسن بن حارث لیشی رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ پابند شریعت اور قبیح سنت اور درود شریف کی کثرت کرنے والے بزرگ تھے فرماتے ہیں۔ مجھ پر گردش کے دن آگئے۔ فقر و تنگدستی یہاں تک بڑھی کہ فاقہ کی نوبت آگئی۔ اسی عالمِ فاقہ مستی میں عید کی رات آگئی میں بے حد پریشان تھا کہ صبح عید کا دن ہے بچوں کے لئے نہ کوئی نئے کپڑے ہیں اور نہ ہی کھانے پینے کی چیزیں ابھی رات کی چند گھڑیاں گزری ہوں گی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو ہاتھوں میں قندیلیں اٹھاتے کچھ لوگ دروازہ پر کھڑے ہیں میں بے حد پریشان تھا کہ نہ جانے اس وقت یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں کہ ان میں سے ایک خوش پوش شخص جو اس علاقہ کا رئیس تھا آگے پڑھا اور اُس نے بتایا الحمد للہ ابھی ابھی میں سو رہا تھا کہ میری قسمت کا ستارہ چمک اٹھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ شہنشاہِ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریب خانہ پر تشریف لائے ہیں اور مجھ سے فرما رہے ہیں۔ ابوالحسن رحمۃ اللہ علیہ اور اُس کے بچے بڑی تنگدستی اور فقر و فاقہ کے دن گزار رہے ہیں۔ تجھے اللہ عزوجل نے بہت کچھ دے رکھا ہے جا اور جا کر اُن کی خدمت کر، اُس کے بچوں کے لئے کپڑے بھی ساتھ لیتا جا

اور کچھ خرچی بھی دے آتا کہ وہ اچھے طریقے سے عید کر سکیں اور خوش ہو جائیں۔ یہ کچھ سامان عید قبول فرمائیں اور میں درزی کو بھی ساتھ لیتا آیا ہوں۔ آپ بچوں کو بلا لیں تاکہ ان کے لباس کا ناپ لے کر ان کے کپڑے تیار کر دیئے جائیں۔ پھر اس رئیس نے درزیوں کو حکم دیا کہ پہلے بچوں کے کپڑے تیار کرو اور بعد میں بڑوں کے لہذا صبح ہونے سے پہلے سب کچھ تیار ہو گیا اور صبح گھر والوں نے خوشی خوشی عید منائی۔

(سعادة الدارين)

تیرے کرم سے اے کریم ﷺ مجھے کون سی شے ملی نہیں

جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں

سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ چوم لیا!

امام سخاوی اور دیگر محدثین رحمہم اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ حضرت محمد بن سعد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سونے سے پہلے ایک مقررہ تعداد میں درود پاک پڑھا کرتے تھے۔ انہوں نے ایک رات آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آپ پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے گھر کو منور فرمایا ہے اور مجھ سے فرما رہے ہیں۔ اپنا منہ قریب کر جس سے تو مجھ پر درود بھیجا کرتا ہے تاکہ میں اس پر بوسہ دوں فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی شرم آئی۔ میں اپنا منہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک کے قریب کیسے کروں؟ پس میں اپنا رخسار (گال) آپ کے منہ مبارک کے قریب لے گیا آپ سر اپا پُر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رخسار پر بوسہ دیا جب میں بیدار ہوا تو میرا سارا گھر مشک کی خوشبو سے مہک رہا تھا اور آٹھ یوم تک معطر رہا اور میرے رخسار سے بھی آٹھ روز تک خوشبو آتی رہی۔ جذب القلوب

عنبرز میں عبیر ہوا مشک تر غبار

ادنیٰ سی یہ شناخت تری رہگزر کی ہے

## درد پاک تمام اعمال سے افضل ہے!

حضرت عبدالعرفان سیدنا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہر ایک شخص کا قطعی طور پر قبول ہوتا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا۔ اس میں کوئی شب نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک تمام اعمال سے افضل ہے۔ اور یہ ان کمالانکہ کا ذکر ہے جو اطراف جنت میں رہتے ہیں اور جب وہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کی برکت سے جنت کشادہ ہو جاتی ہے۔ (أَفْضَلُ الْمَصَلَّوَاتِ عَلَى سَيِّدِ السَّادَاتِ)

جب فرشتے قبر میں صورت دکھائیں آپ کی

ہو زبان پر پیارے آقا الصلوٰۃ و السلام

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ

وَعَلَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

### ایک لاکھ ساٹھ ہزار حج کا ثواب!

حضرت مولیٰ علی کرم اللہ وجہہ الکریم سے روایت ہے ایک سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص حجۃ السلام سے مشرف ہو اور بعد اس کے ایک غزوہ میں شرکت کرے تو اس کا ثواب چار سو حج کے برابر ہوگا۔ وہاں پر کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جو حج کی استطاعت اور جہاد کی قوت نہ رکھتے تھے۔ یہ بات سن کر ان کے دل ٹوٹ گئے کیونکہ وہ اس ثواب کو حاصل نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ رب العزت کا دریائے رحمت جوش میں آیا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی فرمائی۔ اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو شخص تم پر درود بھیجے گا اس کو چار سو غزوات کا

ثواب ملے گا اور ہر غزوہ چار سو حج کے برابر ہوگا (جذب القلوب)  
 سبحان اللہ عزوجل! ایک بار درود شریف پڑھنے کا ثواب چار سو غزوات کے  
 برابر اور ہر غزوہ چار سو حج کے برابر۔ چار سو کو چار سو سے ضرب دینے سے حاصل ضرب  
 ایک لاکھ ساٹھ ہزار آیا! الحمد للہ! درود شریف پڑھنے سے ایک لاکھ ساٹھ ہزار حج کا  
 ثواب ملتا ہے! وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
 وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ

### ابر رحمت

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جناب رسول اللہ  
 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اُس  
 درود شریف پڑھنے والے کے سانس سے ایک سفید بادل پیدا فرماتا ہے پھر اُسے  
 برسنے کا حکم دیتا ہے۔ جب وہ برستا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین پر برسنے والے ہر قطرے  
 سے سونا پیدا فرماتا ہے اور پہاڑ پر گرنے والے ہر قطرہ سے چاندی پیدا فرماتا ہے اور  
 کافر پر گرنے والے ہر قطرے کی برکت سے اُس کو ایمان کی دولت نصیب فرماتا  
 ہے۔ (مکاشفة القلوب)

### دم بدم صل علی!

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا!  
 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بہت زیادہ درود  
 شریف پڑھا کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا دیجئے کہ دن کو کتنا حصہ درود  
 خوانی کے لیے مقرر کر دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جس قدر

چاہو مقرر کر لو۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ دن رات کا چوتھائی حصہ درود خوانی کے لئے مقرر کر لوں؟ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جس قدر چاہو مقرر کر لو اگر تم چوتھائی سے زیادہ حصہ مقرر کر لو گے تو تمہارے لئے بہتر ہی ہوگا! حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ دن رات کا دو تہائی مقرر کر لوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم جتنا چاہو وقت مقرر کر لو اور اگر تم اس سے زیادہ وقت مقرر کرو گے تو تمہارے لئے بہتر ہی ہوگا۔ تو حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں دن رات کا کل حصہ درود خوانی ہی میں خرچ کروں گا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے تو درود شریف تمہاری تمام فکروں اور غموں کو دور کرنے کے لئے کافی ہو جائے گا۔ اور تمہارے تمام گناہوں کے لئے کفارہ ہو جائے گا۔

وہی زب عزیل ہے جس نے تجھے کو ہمہ تن کرم بنایا  
ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستان بنایا

(حدائق بخشش)

پیاری اسلامی بہنو! سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہنے کے سبب اگر دعا کا وقت بھی نہ ملے تو ساری حاجتیں خود ہی بر آتی ہیں کیونکہ درود خود دعا ہے اور دعا بھی پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں یقیناً آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درجات بلند تر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری دعا کی حاجت نہیں۔ مگر ہم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے دعائیں مانگیں گے تو یقیناً سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں محروم نہیں چھوڑیں گے۔ دستور ہے کہ اگر کسی رئیس اور مالدار آدمی کو کوئی غریب آدمی تحفہ دے اگرچہ وہ مالدار شخص حاجت مند نہیں لیکن پھر بھی وہ قبول کر کے اُس کا بہتر بدلہ دینے کی سعی کرتا ہے تو



ہم گنہگار سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا گلدستہ بطور تحفہ پیش کریں تو پھر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے ہمارے بگڑے کام کیوں نہ سنور جائیں۔

بھر کے جھولی میری میری سرکار ﷺ نے  
مُسکرا کر کہا اور کیا چاہئے؟  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ  
وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

پیاری اسلامی بہنو! خصوصی اہتمام کے ساتھ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیت سے ہم سے جتنا بھی ہو سکے درود پاک کی کثرت کرنی چاہئے۔

اب درود پاک کے چند صحیفے پیش کئے جاتے ہیں جن کی برکت سے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار ہونے کی امید ہے۔

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ! الْجَامِعِ الْأَسْرَارِ  
وَالدَّلَائِلِ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ ط

اے اللہ عزوجل اپنی رحمت و سلامتی فرما۔ ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو جامع ہیں تیرے اسرار کے اور دلالت کرنے والے ہیں تیری ذات پر اور سلام ہو ان کے آل و اصحاب پر۔

مذکورہ بالا درود پاک کے بارے میں حضرت علامہ سید احمد دحلان علیہ رحمۃ اپنے ”مجموعہ“ میں فرماتے ہیں کہ جو روزانہ ایک ہزار بار یہ درود شریف پڑھے گا اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوگی علامہ نبہانی رحمۃ اللہ علیہ (أَفْضَلُ الصَّلَوَاتِ عَلَى سَيِّدِ السَّادَاتِ) میں فرماتے ہیں کہ

یہ نہیں فرمایا کہ خواب میں زیارت ہوگی یا بیداری میں ظاہر یہ ہے کہ خواب میں

زیارت ہوگی! اے اللہ عزوجل رحمت نازل فرما

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوحِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْوَاحِ وَعَلَى جَسَدِهِ فِي  
الْأَجْسَادِ وَعَلَى قَبْرِهِ فِي الْقُبُورِ!

محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پر عالم ارواح میں اور ان کے جسم پاک پر  
عالم اجسام میں اور قبر انور پر قبور میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ جو  
شخص مندرجہ بالا درود پاک پڑھے گا اُس کو خواب میں میری زیارت ہوگی اور جس  
نے مجھے خواب میں دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا اور جو مجھے قیامت کے  
دن دیکھے گا میں اُس کی شفاعت کروں گا۔ اور جس کی میں شفاعت کروں گا وہ حوص  
کوثر کا جام پئے گا اور اُس کے جسم کو اللہ عزوجل دوزخ پر حرام کر دے گا۔

(کشف الغمہ۔ القول البدیع)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ!

اے اللہ عزوجل محمد امی لقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔

مندرجہ بالا درود شریف کے فضائل میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ  
مفاخر الاسلام کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن ایک ہزار بار یہ درود  
شریف پڑھے گا تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کرے گا یا جنت  
میں اپنی منزل دیکھ لے گا۔ اگر پہلی بار میں مقصد پورا نہ ہو تو دوسرے جمعہ کو بھی اس کو  
پڑھ لے۔ ان شاء اللہ عزوجل پانچ جمعوں تک اس کو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
کی زیارت ہو جائے گی۔ (جذب القلوب)

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

اے اللہ عزوجل! امی لقب محمد نبی پر اور ان کی آل پر رحمت و سلامت نازل

فرما۔

”جذب القلوب“ میں ہے کہ جو شب جمعہ (یعنی جمعرات اور جمعہ کی درمیانی شب) دو رکعت نفل ادا کرے ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی گیارہ بار پھر گیارہ بار سورۃ اخلاص پڑھے۔ سلام پھیرنے کے بعد مذکورہ بالا درود شریف سو بار پڑھے ان شاء اللہ تین جمعہ نہیں گزریں گے کہ زیارت فیض بشارت سے سرفراز ہوگا۔

دیدار کی بھیک کب بٹے گی؟

منگتا ہے امیدوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

صَلَّى اللهُ عَلَى النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

اللہ عزوجل کی رحمت ہو نبی امی پر جو شخص شب جمعہ دو رکعت نفل ادا کرے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد چھپس بار سورۃ اخلاص پڑھے سلام پھیرنے کے بعد ایک ہزار مرتبہ مندرجہ بالا درود شریف پڑھے۔ ان شاء اللہ عزوجل خواب میں دیدار فیض آثار سے مشرف ہوگا!

1- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ

اے اللہ عزوجل! رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جیسے تو نے ہمیں حکم دیا ان کے لئے رحمت مانگنے کا۔

2- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ

اے اللہ عزوجل ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا درود بھیج جس کے آپ حقدار ہیں۔

3- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضَى لَهُ

اے اللہ عزوجل! درود پہنچا محمد پر جیسے تو چاہتا ہے اور ان کے لئے پسند کرتا ہے

4- اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى رُوحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْوَاحِ

اے اللہ عزوجل! روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عالم ارواح میں درود پہنچا!

5- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى جَسَدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَجْسَادِ

اے اللہ عزوجل! جسم محمد پر عالم اجسام میں رحمت نازل فرما۔

6- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُوْرِ

اے اللہ عزوجل! ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر رحمت نازل فرما عالم قبور میں۔

7- صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

اللہ کی رحمت ہو ہمارے سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر

حجۃ الاسلام شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا حامد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ المنان کے بعض معمولات و

وظائف کو ایک کتابچہ میں جمع کیا ہے جس کا نام ”الوظیفۃ الکریمہ“ ہے اس میں مندرجہ بالا درود پاک کے بارے میں تحریر فرمایا ہے کہ حصول زیارت اقدس کے لئے اس سے

بہتر کوئی صیغہ نہیں ہے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد مدینہ طیبہ کی طرف منہ کر کے یہ تصور کرے۔ روضہ انور کے حضور حاضر ہوں۔ اور یقین جانے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم مجھے دیکھ رہے ہیں۔ میری آواز سن رہے ہیں۔ میرے دل کے خطرات پر مطلع ہیں۔ دست بستہ (ہاتھ باندھ کر) ۴۱ بار یا ۱۰۰ بار یا ۱۰۰۰ بار غرض طاق بار روزانہ جتنا

نبھاسکے پڑھے اور ہاں خاص تعظیم شان اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے پڑھے۔ اس نیت کو بھی جگہ نہ دے کہ مجھے پڑھنے سے زیارت نصیب ہوگی۔ آگے ان کا کرم

بے حد، بے انتہا ہے۔ فراق و وصل چہ خواہی رضائی دوست طلب۔

جلوہ یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا

حسرتیں آٹھ پہر تکتی ہیں رستہ تیرا

پیاری اسلامی بہنو! زیارت اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے جتنے بھی درود

پاک کے صیغے ہیں جس پر چاہیں عمل کریں لیکن اس نیت سے پڑھنا کہ ”میں درود پاک پڑھوں گا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے“۔ مناسب نہیں ہے بہتر یہی ہے کہ عمل خاص تعظیم اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حصول ثواب کی نیت سے کیا جائے۔ آگے اُن کا کرم بے شمار ہے

تلا ہوا ہے کرم بندہ پروری کے لئے

کشادہ دامن رحمتہ ہے ہر کسی کے لئے

اگر زیارت میں تاخیر ہو جائے یا کسی کو زیارت ہوتی ہی نہیں تو اس میں بھی دل برداشتہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ اُن کی مرضی ہے تاخیر میں بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہو گی ہمیں اس شعر کا مصداق بن جانا چاہئے۔

وہ سنیں یا نہ سنیں اُن کی بہر حال خوشی!

درودِ دل ہم تو کہے جائیں گے ان شاء اللہ

تاخیر سے دل برداشتہ ہونے والی اسلامی بہن فرماتے ہیں۔ میں متواتر چودہ سال تک حج کی سعادت عنائی سے سرفراز ہوتا رہا اور ہر سال ایک درویش کو کعبہ معظمہ کا دروازہ پکڑے دیکھا۔ جب وہ لَبَّيْكَ اَسْأَلُهُمْ لَبَّيْكَ کہتا تو غیب سے آواز سنائی دیتی لَا لَبَّيْكَ میں نے چودھویں سال اُس شخص سے پوچھا! اے درویش تو بہرہ تو نہیں اُس نے جواب دیا! میں سب کچھ سن رہا ہوں!

میں نے کہا: پھر یہ تکلیف کیوں اٹھاتا ہے؟

اُس نے کہا یا شیخ! میں حلفیہ بیان کرتا ہوں کہ اگر بجائے چودہ سال کے چودہ ہزار سال میری عمر ہو اور بجائے سال بھر کے ہر روز ہزار بار یہ جواب ”لا لَبَّيْكَ“ سنائی دے تو پھر بھی اس دروازے سے سر نہ اٹھاؤں گا آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہم مصروف گفتگو تھے کہ اچانک آسمان سے ایک کاغذ اُس کے سینے پر گرا۔ اُس نے وہ

کاغذ میری طرف بڑھایا۔ میں نے پڑھا۔ اُس میں لکھا تھا۔

اے مالک رضی اللہ عنہ! تو میرے بندے کو مجھ سے جدا کرتا ہے کہ میں نے اس کے چودہ سال کے حج قبول نہیں کئے۔ ایسا نہیں بلکہ اس مدت میں آنے والے تمام حاجیوں کے حج بھی اس کی پکار نہی کی برکت سے قبول کئے ہیں تاکہ کوئی میری بارگاہ سے محروم نہ جائے۔ پیاری اسلامی بہنو! زیارت ہو یا نہ ہو کثرت درود شریف کا سلسلہ جاری رکھیں۔ مقصود صرف اللہ عزوجل اور اُس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا ہونی چاہئے۔ ان شاء اللہ عزوجل کبھی نہ کبھی زیارت ضرور ہوگی۔

دیدار کی بھیک کب بٹے گی؟

منگتا ہے امیدوار آقا ﷺ

الہی منظر ہوں وہ خرام ناز فرمائیں

بچھا رکھا ہے فرش آنکھوں نے کنو اب بصارت کا

اے ہمارے پیارے اللہ عزوجل! ہمیں بار بار سارے انبیاء کے سردار، سید ابرار، شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار فیض آثار کا شرف نصیب فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین!

تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا

مجھے جلوۂ پاک رسول دکھا تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم

(حدائق بخشش)

میٹھی میٹھی اسلامی بہنو!

اگر آپ رضائے الہی کو پانا چاہتی ہیں تو دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اپنے حلقے میں ہونے والے اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کیجئے۔ ان شاء اللہ اس کی برکت سے آپ کا سینہ مدینہ

بن جائے گا۔

الحمد للہ! دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، خوش نصیب اسلامی بہنیں گھر گھر نیکی کی دعوت کی دھو میں مچا رہی ہیں، آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے میں لگ جائیے، سنتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنائیے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی خاتونِ جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی نورانی سیرت اپنائیے اور دونوں جہانوں میں عزت پائیے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت و ریاضت میں مصروف رکھے اور اخلاص کے ساتھ اعمالِ صالحہ پر کار بند رکھے۔



## اللہ عزوجل كے ذكر كى فضيلت و اہميت

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
 أَمَا بَعْدُ! فَاغُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ  
 الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

### ﴿فضيلت دور و پاڪ﴾

ام المؤمنین، محبوبہ محبوب رب العالمین، صدیقہ بنت صدیق، طیبہ، طاہرہ، سیدہ  
 عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سحری کے وقت کپڑا سی رہی تھیں کہ سوئی گر گئی اور  
 چراغ بھی بجھ گیا، اتنے میں حضور سید عالم، تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
 تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ انور کی ضیاء سے سارا گھر  
 روشن ہو گیا حتیٰ کہ وہ سوئی بھی مل گئی۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے  
 عرض کی: حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے! اس پر حضور نبی  
 کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا: ہلاکت ہے اُس کے لئے جو قیامت میں  
 مجھے نہ دیکھ سکے گا۔ عرض کی گئی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! وہ کون ہے جو حضور



صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كونہ ديكھ سكهے گا؟ فرمایا: وہ بخیل ہے۔ عرض كى گئی: بخیل كون ہے؟  
فرمایا: جس نے میرا نام سنا اور مجھ پر درود نہ پڑھا۔

(القول البدیع صفحہ ۱۲۷، نزہۃ الناظرین صفحہ ۳۱)

خدا كا ذكر كریے ذكر مصطفیٰ ﷺ نہ كریے

ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ كریے

صَلُّوا عَلٰى الْحَبِيبِ: صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ مُحَمَّدٍ ﷺ

پیارى اسلامى بہنو! آج سارى دنيا میں ايک عالمگير بے چينى پائى جا رہى ہے۔  
كوى ملك، كوى شہر اور كوى گاؤں بلکہ كوى گھر ایسا نہیں جہاں بد امنى اور بے چينى نہ پائى  
جاتى ہو۔ آج ہر شخص بے چينى كا شكار نظر آ رہا ہے۔

آہ! نادان انسان شراب و رباب كى محفلوں، سینما گھروں كى گيلريوں، ڈارمہ  
گاہوں، فحش و عریانى سے مرقع نائٹ كلبوں اور جنسى و رومانى ناولوں كے مطالعہ میں  
سكون كى تلاش میں سرگرداں ہے، آخر سكون کہاں ملے گا؟ آئیے قرآن سے سوال  
كرتے ہیں، اے اللہ عزوجل كے سچے اور پاكیزہ كلام! تو ہى ہمارى رہمنائى فرما اور  
ہمیں ارشاد فرما كہ سكون کہاں ملتا ہے؟ جب ہم نے قرآن مجيد كى خدمت میں  
استفسار كيا تو جواب ملا۔

الْأَبْدِ كُرِ اللّٰهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (پ ۱۰۷۳)

سن لو اللہ كى ياد ہى میں دلوں كو چين ہے۔ (كنز الایمان)

گو يایہ بے چينى اور بے اطمینانى ذكر اللہ عزوجل سے غفلت كى وجہ سے ہے اللہ  
عزوجل كا ذكر دل كى غذا ہے اور دل اگر اپنى غذا نہ پائے تو بے چين نہ ہو تو كيا ہو۔  
معلوم ہوا كہ یہ پریشانیاں اور حیرانیاں محض اللہ عزوجل كے ذكر سے غفلت كے باعث  
ہیں۔

غافل انسان اپنے رب کو دیا کر  
دل کی اجڑی بستیاں آباد کر

ہر چیز تسبیح کرتی ہے!

پیاری اسلامی بہنو! یاد رکھئے کہ دنیا کی ہر چیز اللہ عزوجل کی تحمید و تقدیس میں  
رطب اللسان ہے۔

وَأَنْ مِّنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ (بہ ۵ ع ۵)

یعنی اور کوئی چیز نہیں جو اُسے سراہتی ہوئی اُس کی پاکی نہ بولے۔ چنانچہ اس کے  
مطابق کوئی شے بھی اُس کی تسبیح سے غافل نہیں۔ حضرت صدر الافاضل مولانا نعیم  
الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی تفسیر خزائن العرفان میں فرماتے ہیں۔  
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ ہر زندہ چیز اللہ عزوجل کی تسبیح کرتی  
ہے۔ اور ہر چیز کی تسبیح اُس کے حسب حیثیت ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ دروازہ  
کھولنے کی آواز اور چھت کا چٹنا یہ بھی تسبیح کرتا ہے۔ اور ان سب کی تسبیح ”سُبْحَانَ  
اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ“ ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ ہم نے تاجدار مدینہ صلی اللہ  
علیہ وآلہ وسلم کی انگشتہائے مبارک سے پانی کے چشمے جاری ہوتے دیکھے اور یہ بھی  
دیکھا کہ کھاتے وقت میں کھانا تسبیح کرتا تھا۔ (بخاری شریف)

حدیث شریف میں ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اُس  
پتھر کو جانتا ہوں جو میری بعثت کے زمانے میں مجھے سلام کرتا تھا۔ (مسلم شریف)

ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکڑی کے  
ایک ستون سے تکیہ فرما کر خطبہ فرمایا کرتے تھے۔ جب منبر بنایا گیا اور حضور صلی اللہ  
علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے تو وہ ستون رو دیا۔ غم خوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم نے اُس پر دست کرم پھیرا۔ اور شفقت فرمائی اور تسکین دی۔  
جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں  
اُس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام

(حدائق بخشش)

### غافل جانور ذبح کر دیا جاتا ہے!

ان تمام احادیث سے جماد (یعنی بے جان چیزیں مثلاً پتھر لکڑی وغیرہ) کا کلام اور تسبیح کرنا ثابت ہوا۔ شجر و حجر، جمادات و حیوانات سبھی اُس کی یاد میں مشغول ہیں اور جو غافل ہوا اُس نے نقصان اٹھایا۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کسی درخت پر کھاڑا اسی وقت چلتا ہے جبکہ وہ ذکر اللہ عزوجل سے غفلت اختیار کرے۔

جو جانور ذکر اللہ عزوجل سے غافل ہوتا ہے وہ ذبح کر دیا جاتا ہے۔ (المفروض)

### غافل پرندے کی سزا!

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کسی شخص نے ایک پرندہ تحفہ کے طور پر بھیجا۔ آپ نے قبول فرما کر اسے پنجرے میں بند کر دیا اور کچھ مدت اپنے پاس رکھ کر ایک دن اُسے آزاد کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا۔ حضرت! آپ نے اسے آزاد کیوں کر دیا؟ تو فرمایا۔ مجھے اُس پرندے نے بڑی منت سے کہا تھا کہ اے جنید! افسوس تو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ملاقات کا لطف اٹھائے اور مجھے میرے دوستوں کی ملاقات سے یوں دور رکھے اور پنجرے میں بند رکھے مجھے اُس پر رحم آیا اور چھوڑ دیا۔ اڑتے وقت وہ کہنے لگا کہ پرندہ یا جانور جب تک ذکر اللہ عزوجل میں مصروف رہتا ہے۔ آزاد رہتا ہے۔ اور جہاں اُس پر غفلت طاری ہوئی قید میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اے جنید! میں یاد الہی سے ایک ہی دن غافل ہوا تھا جس کی سزا میں مجھے

پنجرے کی سخت قید بھگتنا پڑی۔ ہائے اُن لوگوں کا کیا حال ہوگا جو اکثر اوقات ذکر اللہ عزوجل سے غافل رہتے ہیں۔ اے جنید! میں آپ کے سامنے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی ذکر اللہ عزوجل سے غافل نہ رہوں گا۔ یہ کہہ کر پرندہ اڑ گیا۔ پھر وہ پرندہ حضرت جنید بغدادی (رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ) کی زیارت کے لئے آیا کرتا اور اُن کے ہمراہ دسترخوان پر دانے وغیرہ بھی کھایا کرتا تھا۔ جب حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا تو وہ پرندہ بھی زمین پر گر پڑا اور تڑپ تڑپ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ اُس کے بعد حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو کسی نے خواب میں دیکھا اور حال پوچھا، انہوں نے جواب دیا چونکہ اُس پرندے پر میں نے رحم کھایا تھا اللہ عزوجل نے بھی مجھ پر رحم کیا۔ (نزہۃ المجالس)

### غافل مچھلیاں اور دانہ پکی!

ایک بزرگ کے حالات میں لکھا ہے کہ آپ مچھلیاں پکڑ رہے تھے۔ اور آپ کے ساتھ آپ کی چھوٹی لڑکی بھی بیٹھی تھی۔ آپ جو بھی مچھلی پکڑتے وہ اپنی لڑکی کو دیتے جاتے اور وہ لڑکی اپنے والد سے مچھلیاں لے لے کر پھر دریا میں ڈالتی جاتی۔ حضرت جب فارغ ہو کر اٹھے تو لڑکی سے فرمایا۔ بیٹی! مچھلیاں کہاں ہیں؟ تو وہ بولی! میں نے تو اُن سب کو پھر دریا میں ڈال دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا: تم نے یہ کیا کیا؟ ساری محنت برباد کر دی تو وہ بولی کہ آپ ہی نے تو بتایا تھا کہ جو مچھلی ذکر اللہ عزوجل سے غافل ہو جاتی ہے وہی جال میں پھنستی ہے تو آپ جس مچھلی کو پکڑتے تھے میں سمجھ لیتی تھی کہ یہ مچھلی ذکر اللہ عزوجل سے غافل ہے جیسی تو پکڑی گئی ہے۔ اس لئے میں نے اس خیال سے کہ غافل مچھلیاں کھا کر اُن کی صحبت سے کہیں ہم بھی ذکر اللہ عزوجل سے غافل نہ ہو جائیں لہذا میں نے وہ ساری مچھلیاں پھر دریا میں ڈال دیں۔ (نزہۃ المجالس)

ذکر تین طرح کا ہوتا ہے!

(۱) ذکر باللسان

(۲) ذکر بالقلب

(۳) ذکر بالجوارح

(۱) ذکر باللسان (یعنی زبان سے ذکر کرنا) سے مراد اللہ عزوجل کی تسبیح، تقدیس، ثناء وغیرہ بیان کرنا ہے۔ خطبہ توبہ استغفار، دعا وغیرہ بھی اس میں داخل ہیں۔ (خزائن العرفان)

(۲) ذکر بالقلب اللہ عزوجل کی نعمتوں کا یاد کرنا، اُس کی عظمت و کبریائی اور اُس کے دلائل قدرت میں غور کرنا علماء کا استنباط مسائل (قرآن و حدیث سے مسائل اخذ کرنا) میں غور کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ (خزائن العرفان)

(۳) ذکر بالجوارح اس ذکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ عزوجل کی عظمت و جلال میں غور کرے۔ اُس کی جبروت و ملکوت (یعنی عظمت و سلطنت) میں محو فکر ہوا اور زمین و آسمان میں اللہ عزوجل نے اپنی ذات و صفات پر جو نشانیاں قائم کی ہیں اُن نشانیوں کو تلاش کرے۔ اور اُس نشان پر پہنچ کر صاحب نشان یعنی اللہ عزوجل کو یاد کرے (مثلاً درندوں کی چیرہ دستی (یعنی قوت و ہیبت) کو دیکھ کر اللہ عزوجل کے قہر و غضب کو یاد کرے۔ اولاد پر ماں کی شفقت کو دیکھ کر اللہ عزوجل کی رحمت کو یاد کرے اور بلند و بالا پہاڑوں کو دیکھ کر اللہ عزوجل کی عظمت و ہیبت کو یاد کرے۔ وسیع و محیط آسمانوں کو پہنائی کو دیکھ کر اللہ عزوجل کی عظمت کو یاد کرے۔ (ذکر بالجبر)

رات بھر فرشتہ حفاظت کرتا ہے!

جب آدمی سونے کے لئے اپنے بستر پر آتا ہے۔ تو فوراً فرشتہ اور شیطان اُس

کے پاس آتے ہیں۔ فرشتہ کہتا ہے اپنا عمل بھلائی پر ختم کر۔ شیطان کہتا ہے بُرائی پر ختم کر۔ پھر اگر وہ ذکر اللہ عزوجل کر کے سو جاتا ہے تو فرشتہ رات بھر اُس کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر چار پائی سے گر کر مر گیا تو جنت میں داخل ہوگا۔ (حسن حصین)

اللہ عزوجل قرآن عظیم میں ارشاد فرماتا ہے۔

فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ (ب ۲۴)

تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔

اللہ عزوجل اپنے ذاکر بندوں کو کس طرح یاد فرماتا ہے اس کی تفصیل اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے چنانچہ

اللہ عزوجل بھی ذاکر کا ذکر کرتا ہے!

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکارِ مدینہ راحت و قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے متعلق میرا بندہ جو گمان رکھتا ہے میں اُس کے لئے ایسا ہی ہوتا ہوں اور میں اُس کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے۔ اگر وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں اُس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں اگر وہ مجھے کسی جماعت میں یاد کرے تو میں اُسے ایسی جماعت میں یاد کرتا ہوں جو ان سے بہتر ہے۔ (بخاری)

سبحان اللہ! اللہ تعالیٰ جس خوش نصیب کو یاد کرے اور وہ بھی بہتر جماعت یعنی فرشتوں کے گروہ میں! یقیناً اُس کے لئے تو دنیا و آخرت دونوں ہی سنور جائیں گے۔

اللہ عزوجل اپنے ذاکر کا ذکر فرماتا ہے!

حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ میرا ذکر کرتا ہے تو مجھے معلوم ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا، یہ کیوں کر؟ انہوں نے فرمایا،

جب میں اُس کا ذکر کرتا ہوں تو وہ میرا ذکر کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ (تنبیہ المعتبرین)

جہاں ذکر ہوتا ہے ہر چیز گواہ ہو جاتی ہے!

ابو اسحاق رحمۃ اللہ علیہ جب ذکر اللہ عزوجل کرتے تو اُن کو وجد آ جاتا اور فرماتے کہ مجھے اس لئے وجد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتا ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اگر وہ کسی جگہ جاتے ہوئے راستہ میں اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتی تو واپس آ جاتے اور دوبارہ اسی راستہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے، اگرچہ ایک منزل کا فاصلہ ہوتا۔ اور فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں جس جس بقعہ زمین (علاقے) سے گزروں وہ سب قیامت میں میرے ذکر اللہ عزوجل کی گواہی دیں۔ (تنبیہ المعتبرین)

سبحان اللہ! ہمارے بزرگوں کا تو حال یہ تھا کہ ہر وقت اللہ اللہ عزوجل کرتے رہتے۔ اگر کسی گلی سے گزرتے ہوئے ذکر سے غفلت ہو جاتی تو پھر دوبارہ لوٹ جاتے اور پھر ذکر کرتے ہوئے وہیں سے گزرتے کہ کوئی گلی، کوئی کوچہ ایسا نہ ہو جو ذکر اللہ عزوجل سے خالی رہ جائے اور آہ! ہم فحش گوئی، موسیقی اور فضول باتوں کا ہر شے کو گوارہ بنائے جا رہے ہیں!

یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر عظیم احسان ہے کہ اُس کا ذکر ہم ہر جگہ کر سکتے ہیں۔ اس کے لئے کوئی خاص مقام اور وقت مقرر نہیں فرمایا۔ جہاں جائیں۔ جدھر جائیں اللہ اللہ کر سکتے ہیں جیسا کہ

ذکر اللہ کے لئے کوئی مقام مخصوص نہیں!

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے اپنے قول اذکرونی

اَذْكُرْكُمْ ”توميرى يا كرومى تمهارا چر چه كروں گا“ سے هم پر آسانى كردى هے كه ذكر اللذوجل ك لئى كوى جگه مخصوص نهى فرمائى۔ اگر اللذوجل همارے لئى ذكر ك لئى كوى جگه مخصوص فرماديتا تو همى وهاں جانا واجب هو جاتا خواه وه مقام ايك صدى كى مسافت پر هوتا جيسا كه حج ك لئى لوگوں كو كعبه مى بلایا هے پس اس كا شكر اور احسان هے۔ (تنبيه المعترىن)

### اللذاللذ كرنى والا هى محبت مى بيٹھى

حضرت سيدنا ابراھيم بن ادھم رحمۃ اللذتعالى عليه كى مجلس مى جو شخص بيٹھنا چاھتا، آپ رحمۃ اللذ عليه اس سے شرط كر ليتے كه وه اللذتعالى عزوجل ك ذكر سے غفلت نہ كرے گا۔ (تنبيه المعترىن)

### جنيد بغدادى رحمۃ اللذتعالى عليه اور نائى

حضرت جنيد بغدادى رحمۃ اللذتعالى عليه كى زبان هر وقت ذكر اللذ عزوجل سے تر رھتى تھى ايك رتبه آپ رحمۃ اللذتعالى عليه نائى كے پس خط بنوار هے تھے، جب مونچھى تراشنے كا موقع آيا۔ نائى نے عرض كى عالى جاہ! پر اے مهربانى كچھ دير كے لئى ذكر موقوف فرمادىں تا كه مى مونچھى تراش لوں اور نہ هونٹ كٹ جانے كا انديشه هے۔ ارشاد فرمایا۔ آپ اپنا كام جارى رھيں هونٹ كٹتے هوں تو كٹ جائىں ليكن مى ذكر اللذ عزوجل بنو نهىں كر سكتا۔ (انيس الواعظين)

### غافل كى روح دنيا سے پياسى جاتى هے:

حضرت سيدنا داؤد طائى رحمۃ اللذتعالى عليه فرماتے هيں كه ذاكرين كى ارواح كے سوا باقى تمام روحيں دنيا سے پياسى نكلتى هيں۔

(تنبيه المعترىن)



## ذکر میں دل نہیں لگتا:

ایک شخص رات کو ذکر اللہ عزوجل میں مشغول تھا۔ اور اس کی زبان پر اللہ عزوجل اللہ عزوجل کا ورد جاری تھا۔ شیطان نے اُس کو دھڑک کر کہا! اے کمبخت! کب تک اللہ عزوجل کی رٹ لگائے جائے گا۔ ادھر سے تو کوئی جواب نہیں ملتا اور تو ہے کہ مسلسل اُسی کو پکارے جا رہا ہے شیطان کی بات سن کر اُس شخص کا دل ٹوٹ گیا۔ سر جھکایا تو نیند آگئی۔ عالم خواب میں دیکھا کہ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اے نیک بخت! تو نے ذکر حق عزوجل کیوں چھوڑ دیا؟ اُس نے کہا کہ بارگاہ الہی عزوجل سے مجھے کوئی جواب نہیں ملتا۔ اس لئے فکر مند ہوں کہ کہیں میرے ذکر اللہ عزوجل کو روڈ ہی نہ کر دیا گیا ہو۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ بارگاہ الہی عزوجل سے مجھ کو حکم ہوا ہے کہ تیرے پاس جاؤں اور تجھ کو بتاؤں کہ تو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہی ہمارا جواب ہے۔ تیرے دل میں جو سوز و گداز پیدا ہوتا ہے وہ ہمارا ہی تو پیدا کیا ہوا ہے اور یہ ہمارا ہی کام ہے کہ تجھ کو ذکر اللہ عزوجل میں مشغول کر دیا ہے۔ تیرے ہر ”یا اللہ“ کہنے میں ہماری سولہ بیک پوشیدہ ہیں۔

جان جاہل زین دعا جز دور نیست

زانک یا رب گفتنش دستور نیست

یعنی ایک جاہل اور غافل کو سچے دل سے دعا کی توفیق ہی نہیں ہوتی کیونکہ ”یا

رب عزوجل“ کہنا اُس کی عادت ہی نہیں۔ (مشنوی مولانا روم)

پیاری اسلامی بہنو! اس پیاری پیاری حکایت میں اُن لوگوں کے لئے درس ہے

جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ذکر کی لذت نہیں آتی، ہماری دعا قبول نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ۔

یہ نکتہ ذہن میں رکھئے کہ مریض کا منہ کڑوا ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے ہمیں ذکر و عبادت

میں کوئی لذت محسوس نہیں ہوتی تاہم جس طرح مریض دوا اور غذا کا استعمال نہیں

چھوڑتا۔ ہمیں بھی ذکر و عبادت کو ترک نہیں کرنا چاہئے۔ جیسے ہی ہمارا گناہوں کا مرض دور ہوگا تو ہمیں بھی لذت ذکر حاصل ہونا شروع ہو جائے گی اور دیگر عبادات میں بھی دل لگے گا۔ بہر حال دل لگے یا نہ لگے زبان سے ذکر و درود ترک کر دینا عقلمندی نہیں ہے۔ جس پروردگار نے ہماری زبان کو اپنا ذکر کرنے کی توفیق بخشی۔ وہ ہمارے دلوں کو بھی ذاکر بنا ہی دے گا۔ جس خدا عزوجل نے ہمیں اپنی بارگاہ میں سر جھکانے سجدہ ریز ہونے کی سعادت بخشی وہی ہمارے دلوں کو بھی اپنی طرف پھیر دے گا سجدے کی لذت سے اور دلوں کو بھر دے گا۔ اے اللہ عزوجل ہماری زبانوں کو توفیق دے کہ وہ ہر آن تیرے ذکر سے تر رہا کریں۔ اور ہمارے دلوں کو بھی اپنا ذاکر بنا دے۔

آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ آلہ وسلم

الحمد للہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیری غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، آپ سے بھی اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی مدنی التجاء ہے، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی قافلے بھی سنتوں کی تربیت کے لئے قریہ قریہ، شہر شہر، ملک بملک سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر پر آمادہ کیجئے اور انہیں تیار کر کے مدنی مرکز بھیج دیجئے۔ آپ کے شفقت فرمانے سے اگر آپ کا کوئی عزیز مدنی قافلے کا مسافر بن گیا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کا سینہ بھی مدینہ بن جائے گا۔

خوش نصیب اسلامی بہنیں فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات پر عمل کرتی ہیں، آپ بھی 63 مدنی انعامات کا کارڈ حاصل کیجئے اور روزانہ اُسے پُر کرنے کا معمول بنائیے اور ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنی حلقہ ذمہ دار اسلامی بہن کو جمع کروا دیجئے۔ ان شاء اللہ عزوجل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے

نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لئے کڑھنے کا ذہن بنے گا۔  
ہر اسلامی بہن اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی  
اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ ان شاء اللہ عزوجل  
اپنی اصلاح کے لئے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی  
کوشش کے لئے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے۔ ان شاء اللہ عزوجل  
اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی سر بلندی کے لئے نیکی کی دعوت دعوت عام کرنے  
کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دعوتِ اسلامی کی دن گیارہویں رات بارہویں ترقی  
عطا فرمائے۔



## فضیلت نماز اور اہمیت نماز

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَاغُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

### ﴿ فضیلت درود پاک ﴾

حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فضائل درود سن کر بارگاہ رسالت میں عرض کیا: میں (فرائض کے علاوہ) اپنا سارا وقت درود خوانی میں صرف کروں گا، اس پر سرکارِ مدینہ ہتر ارقب وسینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: یہ تمہاری فکروں کو دور کرنے کے لئے کافی ہوگا اور تمہارے گناہوں کے لئے کفارہ ہو جائے گا۔ (ترمذی شریف، جلد ۴، صفحہ ۲۰۷، رقم الحدیث ۲۳۶۵)

وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا  
چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام  
اُس کی باتوں کی لذت پہ لاکھوں درود  
اُس کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پیاری اسلامی بہنو! ہر عاقل بالغ اسلامی بھائی اور بہن پر روزانہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے نماز کے فرض ہونے کا جو انکار کرے وہ کافر ہے ایک بھی نماز جان بوجھ کر وقت گزار کر پڑھنا (یعنی قضا کرنا) کبیرہ گناہ ہے اور معاذ اللہ بالکل ہی نہ پڑھنا یہ تو نہایت ہی سخت کبیرہ گناہ ہے بد قسمتی سے آج مسلمانوں کو نماز کی بالکل پرواہ ہی نہیں رہی۔ ہماری مسجدیں ویران رہتی ہیں۔ آئیے! نماز کے فضائل پڑھئے اور دیکھئے اللہ عزوجل نے ہم پر نماز فرض کر کے خود ہم پر ہی احسان عظیم فرمایا ہے۔ ہم تھوڑی سی محنت کریں نماز پڑھیں تو اللہ عزوجل ہمیں کتنازبردست اجر و ثواب مرحمت فرماتا ہے اللہ عزوجل نے قرآن مجید میں جا بجا نماز کی تاکید فرمائی ہے ارشاد ہوتا ہے

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي: اور میری یاد کے لئے نماز قائم رکھ۔

اللہ عزوجل ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے۔

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ترجمہ کنز الایمان

”بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے (پ ۱۲۷۵)“

آج کل ہم نے بڑی ترقی کر لی ہے اور اوقات معلوم کرنا اب کوئی مشکل بات ہی نہیں۔ وقت معلوم کرنے کے لئے گھڑیاں موجود ہیں۔ پہلے لوگ سورج چاند اور ستاروں کو دیکھ کر وقت معلوم کرتے تھے۔ نماز کے لئے اوقات اب ہی انہیں ذرائع سے معلوم کر کے توقیت دان علماء ہماری سہولت کے لئے اوقات نماز کا نقشہ تیار کرتے ہیں اور عموماً ہماری مساجد میں یہ نقشے آویزاں ہوتے ہیں۔

ہر نماز اپنے وقت میں ہی پڑھنا چاہئے:

سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں میں سب بندوں سے زیادہ عظیم توالے لوگ وہ ہیں جو سورج اور چاند کا دھیان رکھتے

ہیں۔ ساتھیوں نے کہا: اے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اس سے مؤذن مراد ہیں؟ فرمایا نہیں بلکہ اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جو نماز کے وقت کا خیال رکھتے ہیں۔

(تنبیہ الغافلین)

ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے اگر بندہ وقت میں نماز قائم رکھے تو میرے بندے کا میرے ذمہ کرم پر عہد ہے کہ اُسے عذاب نہ دوں اور بے حساب جنت میں داخل کروں۔ (حاکم)

### نماز بڑھیا کی ایمان افروز حکایت:

حضرت سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم پر طوفان آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جو اللہ عزوجل کے برگزیدہ بندے ہیں اُن کو اپنے ساتھ لے لو اور کشتی میں سوار ہو جاؤ۔ آپ علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور ایک بڑھیا سے وعدہ فرمایا کہ جب طوفان آئے گا تو میں تم کو بھی ساتھ کشتی میں لے لوں گا۔ مگر جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام کو اُس بڑھیا کے متعلق خیال نہ آیا۔ طوفان آ کر اپنی تباہیاں مچاتا رہا اور بڑھیا اپنے مکان میں نماز میں مشغول رہی۔ طوفان گزر جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو اچانک بڑھیا کا خیال آیا اور بے حد افسوس ہوا۔ جب آپ علیہ السلام اُس کے مکان کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ بڑھیا اپنے مکان میں موجود ہے اور عبادت میں مشغول ہے۔ آپ علیہ السلام نے اُس کو سلام کیا بڑھیا بولی! کیا طوفان آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا محترمہ! طوفان تو آ کر گزر بھی گیا۔ کیا آپ کو خبر نہیں ہوئی؟ بڑھیا بولی! واقعی مجھے تو طوفان کے مطلق خبر ہی نہ ہوئی۔ میں تو یہاں نماز میں مصروف تھی ہر نماز پچھلی نماز کے بعد ہونے والا گناہ ہر نماز پچھلی نماز کے بعد ہونے والا گناہ مٹا دیتی ہے۔

ہر نماز پچھلی نماز کے بعد ہونے والے گناہ مٹا دیتی ہے:

حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف فرما تھے اور ہم بھی بیٹھے تھے کہ موذن آ گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی منگوا کر وضو کیا پھر فرمایا کہ میں نے مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ اور میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے بھی سنا کہ جو شخص میرے اس وضو کی طرح وضو کرے پھر وہ ظہر کی نماز پڑھے تو اللہ عز و جل اُس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے (یعنی وہ گناہ جو فجر کی نماز اور اس ظہر کی نماز کے درمیان ہوئے ہوں۔ پھر جب عصر کی نماز پڑھتا ہے تو ظہر اور عصر کے مابین (بیچ کے) گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے پھر جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے تو عصر اور مغرب کے درمیان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے پھر ہو سکتا ہے کہ رات بھر وہ لیٹ کر ہی گزار دے اور پھر جب اُٹھ کر وضو کرے اور فجر کی نماز پڑھے تو عشاء اور فجر کے مابین (بیچ کے) گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے اور یہی دھکیاں ہیں جو بُرائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔

(تنبیہ الغافلین)

نماز سے گناہ دھلتے ہیں:

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے اگر تمہارے کسی کے صحن میں نہر ہو۔ ہر روز وہ پانچ بار اُس میں غسل کرے تو کیا اُس پر کچھ میل رہ جائے گا۔ لوگوں نے عرض کیا جی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ نماز گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتی ہے۔ جیسا کہ پانی میل کو دھوتا ہے۔ (ابن ماجہ)

## عیسیٰ علیہ السلام اور میلا کچھلا جانور:

ایک دفعہ سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام دریا کے کنارے کنارے جا رہے تھے۔ دفعۃً آپ علیہ السلام کی نظر ایک سفید نورانی رنگ کے جانور پر پڑی۔ دیکھتے کیا ہیں کہ وہ جانور دریا کی میلی کچھڑ میں لوٹ پوٹ ہو رہا ہے۔ جس سے اُس کا بدن میلا ہو گیا۔ پھر وہ جانور وہاں سے نکل کر دریا میں نہاتا ہے جس سے وہ پھرا جلا ہو جاتا ہے۔ یہی عمل اُس جانور نے پانچ مرتبہ کیا۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کو جانور کے اس فعل سے تعجب ہوا حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آپ کو متعجب دیکھ کر فرمایا کہ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام! یہ جانور جو آپ کو دکھایا گیا ہے۔ یہ اُمت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نمازیوں کی مثال ہے اور یہ کچھڑ اُن کے گناہوں کی مثال ہے اور دریا اُن کی نمازوں کی مثال ہے یہ کچھڑ میں لوٹنا اُن کے گناہ کرنے کی مثال ہے پس جس طرح یہ جانور کچھڑ میں لوٹا اور نہا کر پاک و صاف ہو گیا اسی طرح اُمت محمد یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گناہگار ان پانچ نمازوں کے سبب اپنے گناہوں سے پاک و صاف ہو جائیں گے۔ (نزہۃ المجالس)

پیاری اسلامی بہنو! یہ ہماری کس قدر سعادت مندی ہے خوش قسمتی ہے کہ اللہ عزوجل نے ہم پر نماز فرض فرمائی اور بتقاضائے بشریت جو گناہ ہم سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ وہ نماز کی برکت سے اور اپنے فضل و کرم سے ہمیں معاف فرماید کرتا ہے۔ یہ واقعی ہمارے پروردگار کا بے حد کرم ہے اللہ عزوجل کے اس کرم کے خزانے کو جو نہ لوٹے وہ کس قدر بد نصیب اور محروم ہے۔

## فخر کی نماز کی فضیلت:

حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ سرکارِ مدینہ صلی اللہ



علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ عزوجل کے ذمہ میں ہے۔ (طبرانی)

ایک دوسری روایت میں ہے تم اللہ عزوجل کا ذمہ نہ توڑو جو اللہ عزوجل کا ذمہ توڑے گا اللہ تعالیٰ اُسے اوندھا کر کے دوزخ میں ڈال دے گا (طبرانی)

**شیطان کا ساتھی:**

جو کوئی اسلامی بھائی فجر کی نماز ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنے مسجد میں حاضر ہوتا ہے اس کے ساتھ ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے اور جو بد نصیب بغیر نماز فجر ادا کئے بازار کو جاتا ہے شیطان بھی اُس کے ساتھ ہو لیتا ہے چنانچہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو صبح کی نماز کو گیا۔ ایمان کے جھنڈے کے ساتھ گیا اور جو صبح بازار کو گیا ابلیس کے ساتھ گیا۔ (ابن ماجہ)

### نماز فجر باجماعت ادا کرنے کی فضیلت:

جو کوئی خوش نصیب اسلامی بہن فجر کی نماز جماعت کے وقت ادا کرنے کی سعادت حاصل کرتی ہے تو دیگر فضائل کے ساتھ ساتھ یہ بھی فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ سوئے رہنے کے باوجود اُسے ساری رات کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ سے موقوفاً روایت ہے کہ جو نماز صبح کے لئے ثواب ہو کر حاضر ہوا۔ گویا اُس نے تمام رات قیام کیا اور جو نماز عشاء کے لئے حاضر ہوا گویا اُس نے آدھی رات قیام کیا۔

فجر و عشاء چالیس دن باجماعت پڑھنے والا جہنم سے بری کر دیا جاتا ہے:

جو کوئی خوش نصیب اسلامی بہن فجر و عشاء کی نماز مسلسل چالیس روز تک پابندی

کے ساتھ نماز ادا کرتی ہے وہ جہنم اور منافقت کی مصیبت سے آزاد کر دی جاتی ہے جیسا کہ حضرت سیرنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جس نے چالیس دن فجر و عشاء باجماعت پڑھی اُس کو اللہ تعالیٰ عزوجل دو برائتیں عطا فرمائے گا۔ ایک نار سے دوسری نفاق سے۔

### دوزخ سے آزادی:

جو کوئی خوش نصیب اسلامی بہن مسلسل چالیس دن تک عشاء کی نماز پابندی سے ادا کر لیتی ہے وہ دوزخ سے آزاد کر دی جاتی ہے جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسجد میں باجماعت چالیس راتیں نماز عشاء پڑھے کہ رکعت اولی فوت نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ عزوجل اُس کے لئے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ (ابن ماجہ)

### چور بھی اگر صبح نماز پڑھے تو سدھر سکتا ہے:

سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا کہ فلاں شخص رات کو نماز پڑھتا اور صبح کو چوری کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ عنقریب نماز اسے بُرے عمل سے روک دے گی۔ (مکاشفۃ القلوب)

### ایک عجیب و غریب واقعہ:

نماز بُرائیوں سے بچاتی ہے ” کے ضمن میں حضرت عبدالرحمن منصور رضی اللہ عنہ نے نزہۃ المجالس میں ایک عجیب و غریب حکایت بیان فرمائی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک شخص ایک عورت پر عاشق ہو گیا اور شب و روز اُس کے فراق میں بے قرار رہنے لگا۔ آخر کار ہمت کر کے اُس نے ایک چٹھی لکھی اور اپنے عشق کا اظہار کرتے ہوئے وصال (ملاپ) کا طالب ہوا۔ وہ خاتون نہایت شریف خاندان سے

تعلق رکھتی تھی (میک اپ کر کے تعلیم یافتہ جاہل اور بے حیا عورتوں کی طرح گلیوں اور بازاروں میں بے پردہ پھرنے والیوں میں سے نہ تھی۔ نہ اُس نے کبھی کسی غیر مرد کے ساتھ ہنس ہنس کر بے تکلفی کے ساتھ بات چیت کی تھی۔ کیوں کہ اُس کو معلوم تو تھا کہ کسی غیر مرد کے ساتھ بے تکلف ہونا بلکہ اُس کے سامنے بے پردہ آجانا یہ سب گناہ ہے اور اس قسم کی حرکت کوئی غیرت مند خاتون کرتی ہی نہیں۔ بلکہ سوچ بھی نہیں سکتی۔ چنانچہ وہ اپنے زبردستی کے عاشق کی چٹھی پا کر بھنب گئی۔ چونکہ شادی شدہ بھی تھی اور اُسے اپنے شوہر نامدار کے حقوق کی بھی خبر تھی۔ کہ شوہر کی نافرمانی سے دنیا و آخرت میں تباہی اور بربادی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ لہذا کچھ سوچ سمجھ کر وہ چٹھی اپنے شوہر نامدار کی خدمت میں پیش کر دی۔ اُس کا شوہر نہایت ہی پرہیزگار ہونے کے ساتھ ساتھ عقلمندی بھی تھا (احقوں اور بے شرموں کی طرح کبھی اُس نے اپنی بیگم صاحبہ کو فیشن کرا کے بے شرموں اور بے حیاؤں کی فہرست میں اپنا نام کبھی نہیں لکھوایا تھا۔ اُس نے اپنی بیگم صاحبہ کو نماز اور سنتوں اور پردہ کی تربیت دے کر کامل مومنہ بنایا تھا۔ نادانوں کی طرح فیشن کی پتلی بنا کر اُس کے ساتھ فحش اور اُلٹے سیدھے گانے سن کر ڈرامہ دیکھ کر اُسے ”مومنہ“ سے ”میم صاحبہ“ نہیں بنا دیا تھا) اسے اپنی زوجہ پر پورا اعتماد تھا۔ دونوں ایک دوسرے سے بالکل خوش تھے اور ازدواجی زندگی نہایت ہی خوشگوار تھی۔ حسن اتفاق سے وہ ایک مسجد میں امامت بھی کرتا تھا۔ لہذا اُس چٹھی کے جواب میں اپنی زوجہ ہی کی معرفت اُس نے یہ جواب دلوایا کہ پہلے فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے متواتر چالیس روز پانچوں وقت باجماعت نماز ادا کرو۔ پھر آگے دیکھا جائے گا۔ مرتا کیا نہ کرتا بیچارہ عاشق جو ٹھہرا۔ اُس نے شرط منظور کر لی اور پابندی سے نماز باجماعت شروع کر دی۔ جوں جوں دن گزرتے گئے۔ نماز کی برکتیں اُس پر آشکار ہوتی چلی گئیں جب چالیس دن گزر گئے تو اُس کے دل کی دنیا ہی بدل چکی تھی۔

چنانچہ یہ پیغام بھیج دیا۔

محترمہ! نماز کی برکت سے میری آنکھ کھل گئی ہے۔ میں معاذ اللہ عزوجل حرام کاری کے خواب دیکھتا تھا۔ لیکن اللہ عزوجل کے کروڑہا کروڑ شکر کہ اُس نے مجھے تیری محبت سے چھٹکارا عطا کر دیا ہے اور اب میرے دل میں اپنے رب عزوجل کی محبت موجیں مار رہی ہے۔ الحمد للہ عزوجل میں نے تیری محبت اور اپنی بدنیتی سے توبہ کر لی ہے اور تجھ سے معافی کا طلب گار ہوں!

جب اُس نیک خاتون نے اپنے شوہر کو یہ پیغام سنایا تو سنتوں کا درد رکھنے والا نیک مرد ایک بگڑے ہوئے اسلامی بھائی کی اصلاح کی خوشخبری پا کر مسرت سے جھوم اٹھا۔ اور اُس کی زبان سے بے ساختہ یہ جاری ہو گیا۔

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ فِي قَوْلِهِ!

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ! (ب ۱۴۲۱)

یعنی رب عظیم نے بالکل سچ فرمایا بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بُری بات سے

پیاری اسلامی بہنو! دیکھا آپ نے؟ نماز کی برکت سے ایک عاشق ناشاد راہ راست پر آ گیا اور اُس کے دل میں مالک حقیقی کا عشق موجیں مارنے لگا اور اُسے سکون قلب حاصل ہو گیا۔ اور واقعی اللہ عزوجل اور اُس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے ہی ایسی کہ جس خوش نصیب کو یہ چاشنی نصیب ہو جائے وہ یقیناً پھر کسی اور سے دل لگا ہی نہیں سکتا ہے۔

جس کو ہے تجھ سے عشق وہ قسمت کا دھنی ہے ہاں ہاں غنی ہے

اُلفت ہے تیری رحمت باری کا خزینہ یا شاہ مدینہ علیہ السلام

نماز ایمان کی علامت ہے:

منیۃ المصلیٰ میں ہے کہ ارشاد فرمایا ہر شے کے لئے ایک علامت ہوتی ہے ایمان کی علامت نماز ہے۔

نماز کا خوب خیال رکھو:

حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نماز کا خوب دھیان رکھو! کہ وہ اہل ایمان کا ایک بہترین وصف (خوبی) ہے اللہ عزوجل کے کروڑہا کروڑ احسان کہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا اور ہماری بخشش کے بیشمار ذرائع مہیا کئے۔ یہاں تک کہ کمزوروں کے طفیل بھی بہت سارے مسلمانوں کی بگڑی بن جاتی ہے چنانچہ

رحمت ہی رحمت:

حضرت لیث رضی اللہ عنہما سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک نقل کرتے ہیں کہ میری امت بخشی بخشائی ہے اللہ تعالیٰ عزوجل ان کے اخلاص اور ان کی دعاؤں ان کی نماز اور ان کے کمزور ناتواں افراد کے طفیل عذاب کو ان سے دور فرمادیتا ہے۔ (تنبیہ الغافلین) اللہ عزوجل کے نیک بندوں کی نمازیں چونکہ ظاہری و باطنی آداب اور سنتوں سے سچی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس لئے ان کی نمازوں کا انہیں خوب فیض ملا کرتا ہے۔ اور ان کی دعاؤں میں بھی بڑی تاثیر پیدا ہو جاتی ہے یہ حضرات جب ہاتھ اٹھا دیتے ہیں تو اللہ عزوجل ان کی دعا کو یقیناً رد نہیں فرماتا۔ اس سلسلے میں ایک ایمان افروز حکایت پڑھئے اور جھومئے!

نماز کی برکت سے گھوڑا زندہ ہو گیا:

حضرت امام نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ چند رفقاء کے ساتھ سفر فرما رہے تھے اسی

دورانِ راہ میں اُن کا گھوڑا مر گیا۔ رفقاءِ سفر اُن کی عظمت و شان سے واقف تھے۔ چنانچہ اُنھوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ آپ اپنا سامان ہمیں دے دیجئے تاکہ اسے اپنی سواریوں پر رکھ لیں۔ حضرت امامِ نخبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے پسند نہ فرمایا اور ساتھیوں سے فرمایا۔ ٹھہر جاؤ ابھی جواب دیتا ہوں۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فوراً وضو کیا۔ دو رکعت نفل پڑھ کر اللہ تعالیٰ عزوجل کی جناب میں دعا کے لئے ہاتھ اٹھا دیئے۔ ابھی آپ رحمۃ اللہ علیہ دعا ہی میں مشغول تھے کہ مردہ گھوڑے میں حرکت پیدا ہو گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ اُٹھ کر کھڑا ہو گیا۔

بچہ سات برس کا ہو جائے تو اُسے نماز کا حکم دو:

سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جب تمہارے بچے سات برس کے ہوں تو انہیں نماز کا حکم دو اور دیکھا برس کے ہو جائیں تو مار کے پڑھاؤ۔

(ابوداؤد)

گھر سے پاک صاف ہو کر با وضو نماز کے لئے مسجد کی طرف چلیں تو ہر قدم کے عوض ایک نیکی ملتی ہے اور فی قدم ایک درجہ بھی بلند ہوتا ہے چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے طہارت و وضو غسل کر کے فرض ادا کرنے کے لئے مسجد کو جاتا ہے تو ایک قدم پر ایک گناہ محو (معاف) ہو جاتا ہے اور دوسرے پر ایک درجہ بلند ہوتا ہے۔ (مسلم شریف)

منازگاروں سے کھیلتا رہا:

سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا مبارک زمانہ تھا۔ ایک عورت نیک اور صالحہ تھی۔ اُس سے ایک مرتبہ تنور میں روٹیاں لگائیں۔ ابھی روٹیاں

تنور میں ہی تھیں کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ عورت نے وضو کیا اور نماز شروع کر دی۔ شیطان نماز کی یہ پابندی دیکھ کر جل بھن کر کباب ہو گیا۔ عورت کے ایمان میں خلل ڈالنے کے لئے اُس نے ایک عورت کا روپ دھارا۔ اور اُس عورت کے پاس آ کر بولا۔ بی بی! تیری روٹیاں تنور میں جلی جا رہی ہیں۔ مگر جن لوگوں کو آتش دوزخ میں جلنے کا ڈر ہو! اور دلوں میں ایمان بھی کامل ہو روٹی کی فکر انہیں عبادت سے کب ہٹا سکتی ہے؟ اُس اللہ عزوجل کی نیک بندی نے شیطان کی بات پر بالکل توجہ نہ دی۔ بلکہ نماز ہی میں مشغول رہی۔ شیطان نے جب دیکھا کہ عورت پر اس کے فریب کا کچھ اثر نہیں ہوا۔ اُس نے عورت کے ننھے ننھے بچے کو اٹھا کر تنور کے گرم گرم انگاروں پر ڈال دیا۔ اسی اثناء میں اُس نیک عورت کا خاوند گھر آیا۔ اُس نے دیکھا کہ اُس کا بچہ تنور میں گرم انگاروں سے کھیل رہا ہے یہ شخص سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ نبینا وعلیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور تمام واقعہ بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا۔ کہ اُس نیک خاتون کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ حاضر ہوئی۔ تو آپ علیہ السلام نے اُس سے پوچھا۔ اے بی بی! تو کون سا نیک عمل کرتی ہے جس کی وجہ سے یہ واقعہ رونما ہوا؟ نیک خاتون نے عرض کی! اے روح اللہ علیہ السلام! صرف اتنی سی باقی ہے کہ جب بے وضو ہوتی ہوں۔ اور جب وضو کر لیتی ہوں تو نماز کے لئے کھڑی ہو جاتی ہوں۔ اور جب کسی کو کوئی حاجت پیش آتی ہے تو اس کی حاجت پوری کرتی ہوں۔ اور جو تکالیف لوگوں کی طرف سے پہنچتی ہیں۔ اُن پر صبر کرتی ہوں۔ (نزہۃ المجالس)

کیا ہماری اسلامی بہنیں اس ایمان افروز حکایت سے درس حاصل کریں گی؟ ہو سکتا ہے کہ گھر کے کام کاج اور دھونے پکانے کے بہانے اور منے، مینیوں کی پرورش کا عذر کر کے وہ دنیا میں کسی کو قائل بھی کر دیں لیکن کیا یہ حیلے بہانے قیامت میں بھی چل جائیں گے؟ کیا یہ افسوس کا مقام نہیں؟ کہ آج ہماری اسلامی بہنوں کے پاس

”شاپنگ“ کے لئے تو وقت نکل آتا ہے۔ گلیوں، بازاروں میں بے پردہ پھرنے اُلٹی سیدھی نمائشوں اور میلوں، جھمیلوں کی رونق بڑھانے تفریح گاہوں اور سینما گھروں میں جانے بلکہ خود اپنے ہی گھر میں ٹی وی بلکہ وی۔سی۔ آر پر گھنٹوں فلمیں اور ڈرامے دیکھ کر گناہ کا ارتکاب کرنے کا وقت تو نکل آتا ہے لیکن افسوس صد افسوس! اگر وقت نہیں ملتا تو نماز کے لئے نہیں ملتا۔

### نماز کے بغیر آدمی کس کام کا؟

۲۸ ذوالحجہ ۲۳ھ کو نماز فجر میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک مجوسی غلام ابولولو فیروز نے قاتلانہ حملہ کر کے چھ کاری زخم لگائے وہ اس بدموم مقصد کے لئے پہلے ہی محراب میں چھپا بیٹھا تھا۔ جونہی امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضاه نے نماز کی نیت باندھ کر سورہ فاتحہ کی قرأت شروع کی۔ اُس نے محراب سے نکل کر آن کی آن میں آپ کو زخمی کر کے گرادیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فوراً آگے بڑھ کر مختصراً نماز پڑھائی۔ قاتل نے بھاگنے کی کوشش میں کئی اور صحابہ کرام (رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین) کو زخمی کیا اور آخر جب دیکھا کہ گرفتار ہو گیا ہے تو خودکشی کر لی۔

حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اٹھا کر گھر لایا گیا ہوش میں آئے تو سب سے پہلے بات یہ کی کہ ”نماز کا وقت ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں! تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا۔ مجھے قبلہ رخ کر دو اور اسی حالت میں نماز ادا کی اور فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اُس نے مجھے یہ فرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بھلا نماز کے بغیر آدمی کس کام کا ہے؟ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے اُس مجوسی غلام کا نام لیا۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: الحمد للہ عزوجل! میرا قاتل کوئی مسلمان نہیں اور نہ میرے قتل کی وجہ سے کوئی



مسلمان جهنم كا ايندھن بنا۔ نماز كے بے شمار فوائد و فضائل هیں۔ دنيا ميں بهي اس كى بركتيں هیں اور آخرت ميں بهي اس كى بے شمار يه بركتيں هیں اور سب سے برى فضيلت يه هے كه نماز رضائے الهى عز و جل كا ذريعه هے۔

نماز سے روزى ميں برکت هوتى هے:

حضرت جعفر بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ عليه سے روايت هے كه مدنى سركار صلى اللہ عليه وآله وسلم كا فرمان عالیشان هے كه نماز اللہ عز و جل كى رضا كا ذريعه هے۔ ملائكه كى محبت كا باعث هے۔

انبیاء عليهم السلام كا محبوب عمل هے۔ معرفت كا نور هے ايمان كى اصل هے۔ دعاء كى قبوليت كا سامان هے دشمنوں كے مقابلہ ميں ہتھیار هے۔ شیطان كى ناراضگى كا سامان هے اعمال كے مقبول ہونے كا ذريعه هے رزق ميں برکت كا ذريعه هے جسم كى راحت كا سبب هے۔

نمازى اور ملك الموت كے درميان سفارشى هے قبر كا چراغ هے قبر كے اندر بچھو هے۔ منكر نكير كے لئے جواب هے۔ قيامت تك كے لئے قبر ميں نمازى كى مونس و غمخوار هے۔ اور جب قيامت هوكى تو يه ي نماز اس كے اوپر سايبان كى طرح هوكى۔ اس كے سر كا تاج اور بدن كا لباس بنے كى اس كے اور دوزخ كے درميان حائل هو كى۔ اللہ عز و جل كے حضور مومنين كے لئے حجت اور دليل بنے كى۔ ميزان عمل ميں انتہائى وزنى هوكى۔ پل صراط پر سے گزرنے كا ذريعه هوكى اور جنت كى كنجى هوكى۔ اس لئے كه نماز اللہ عز و جل كى پاكيزگى اور حمد و ثناء عظمت و كبريائى كے بيان ہر قرأت اور دعا پر مشتمل هے اور اسے وقت پر ادا كرنا ہی تمام اعمال سے افضل عمل هے۔

(تشبيه الغافلین)

اللہ عزوجل کے نیک بندے نماز و عبادت کے ذریعہ اللہ عزوجل کی بارگاہ میں ایک خاص مقام حاصل کر لیتے ہیں اُن کے دل میں خوف خدا عزوجل راسخ ہو جاتا ہے۔ وہ کائنات کی کسی شے سے مطلق نہیں گھبراتے۔ بلکہ درندے تک اُن سے ڈرتے ہیں اور اُن کی اطاعت کرنے لگتے ہیں۔

### شیر سامان کی حفاظت کرتا رہا:

حضرت عروہ بن عقبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا زیادہ تر حصہ جہاد میں گزرا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ جہاد کے موقعوں پر دن کو میدان کارزار میں ہوتے اور شب کو نماز پڑھتے۔ ضرورت پیش آ جانے پر آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فوجی سامان کی حفاظت بھی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسی طرح شب کو فوج کے سامان پر پہرہ دے رہے تھے کہ شیر کی دھاڑ سنائی دی۔ شیر قریب آیا تو آپ نے اُسے اشارے سے اپنے پاس بلایا اور فوجی سامان کی حفاظت اُس کے سپرد کر دی اور خود نماز میں مشغول ہو گئے۔ صبح کاذب تک آپ رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی اطمینان اور خشوع و خضوع سے عبادت خدا عزوجل میں مصروف رہے اور شیر اُس خیمے کے چاروں طرف چکر لگاتا رہا اور سامان کی حفاظت کرتا رہا۔ یہاں تک کہ آپ صبح کی نماز سے فارغ ہوئی۔ خیمے کے قریب پہنچے تو شیر کی طرف دیکھ کر مسکرائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور شیر کو چلے جانے کی اجازت دی شیر خاموشی سے چلا گیا خوش نصیب ہی نماز پڑھتے ہیں اور جو بے چارے بد نصیب ہوتے ہیں اُن کا دل نماز میں لگتا ہی نہیں اور وہ مسجد سے بھاگنے ہی کی فکر میں رہتے ہیں اور یہ بھی یاد رکھئے کہ نماز پڑھنے والا اللہ عزوجل پر کوئی احسان نہیں کرتا بلکہ خود اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ کسی کو نماز کی توفیق عطا فرما دے۔

ستر ہزار فرشتے ساتھ ساتھ نماز پڑھتے ہیں:

اللہ عزوجل اپنے تین بندوں سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ چنانچہ! حضرت خالد بن معدان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ عزوجل تین آدمیوں کے سبب فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔

1- ایک وہ آدمی جو چٹیل میدان میں اذان اور اقامت کہہ کر اکیلا نماز پڑھتا ہے۔  
اللہ تعالیٰ عزوجل فرماتا ہے۔ میرے بندے کو دیکھو جو تنہا نماز پڑھتا ہے میرے سوا اسے کوئی نہیں دیکھ رہا جاؤ ستر ہزار فرشتے اُس کے پیچھے نماز ادا کرو۔

2- دوسرے اُس آدمی پر جو رات کو اٹھ کر تنہائی میں نماز پڑھتا ہے سجدہ میں جائے اور اس حالت میں (اگر اتفاق سے) نیند آجائے تو اللہ عزوجل فرماتا ہے۔ میرے بندے کو دیکھو! اُس کی روح میرے پاس اور جسم میرے حضور سجدہ ریز ہے۔

3- تیسرے اُس آدمی پر جو گھمسان کی جنگ میں ثابت قدم رہا حتیٰ کہ شہید ہو گیا۔  
(تنبیہ الغافلین)

پہاڑ کی چوٹی پر اذان دے کر تنہا نماز پڑھنے والا جنتی ہو جاتا ہے:

پیاری اسلامی بہنو! اس حدیث پاک سے کوئی بہ نہ سمجھے کہ جماعت سے نماز پڑھنے سے تنہا نماز پڑھنا افضل ہے ہرگز ایسا نہیں۔ یہ فضیلت تو ایسے جنگل، بیابان اور پہاڑ وغیرہ کے لئے ہے کہ جہاں بندہ تنہا ہو اور کوئی ایسی مسجد بھی نہیں کہ جس میں جا کر باجماعت نماز ادا کر سکے۔

اس کی تائید میں مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث پیش کی جاتی ہے جس میں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہے تیرا رب

عزوجل اُس بکری کے چرواہے سے بہت خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کے کسی ٹیکرے کی چوٹی پر اذان پکارتا ہے اور نماز پڑھتا ہے۔ اللہ عزوجل اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میری اس بندے کو دیکھو، یہ نماز قائم کرتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے بے شک میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اے ہمارے پیارے اللہ عزوجل ہمیں تمام تر ظاہرین و باطنی آداب کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔

اٰمِیْنُ بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْنِ

صَلِّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنِ

میٹھی میٹھی اسلامی بہنو:

اگر آپ رضائے الہی کو پانا چاہتی ہیں تو دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اپنے حلقے میں ہونے والے اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کیجئے۔ ان شاء اللہ اس کی برکت سے آپ کا سینہ مدینہ بن جائے گا۔

الحمد للہ دعوتِ اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، خوش نصیب اسلامی بہنیں گھر گھر نیکی کی دعوت کی دھو میں مچا رہی ہیں۔ آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے میں لگ جائیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنائیے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی خاتونِ جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نورانی سیرت اپنائیے اور دونوں جہانوں میں عزت پائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت و ریاضت میں مصروف رکھے اور اخلاص کے ساتھ اعمالِ صالحہ پر کار بند رکھے۔

اٰمِیْنُ بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْنِ

صَلِّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنِ

## بے نمازی کا انجام

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَاغُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

### ﴿فضیلت درود پاک﴾

آقائے دو عالم، شہنشاہ بنی آدم، رسول اکرم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے: بروز قیامت لوگوں میں سے میرے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر زیادہ درود پڑھا ہوگا۔

(آب کوثر بحوالہ کنز العمال، جلد ۲، صفحہ ۴۸۹)

ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بے شک قیامت کے دن اس کی ہولناکیوں اور دشوار گزار گھاٹیوں سے جلد نجات پانے والا وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا ہوگا۔

(آب کوثر صفحہ ۳۶ بحوالہ القول البدیع صفحہ ۱۲۱)

کشتی نوح میں، نارِ نمرود میں، بطن ماہی میں، یونس کی فریاد پر  
آپ کا نام نامی اے صلِّ علیٰ ہر جگہ ہر مصیبت میں کام آ گیا

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بے نمازی کی سزائیں:

میٹھی میٹھی اسلامی بہنو! الحمد للہ عزوجل ہم مسلمان ہیں اور مسلمان کا ہر کام اللہ عزوجل اور اُس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لئے ہونا چاہئے مگر بد قسمتی سے آج ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو کوئی قرضدار، کوئی گھریلو ناچاقیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست و بے روزگار، کوئی اولاد کا طلب گار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار، الفرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے اللہ عزوجل قرآن پاک میں فرماتا ہے۔

وَمَا أَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ

كَثِيرٍ ۝ (الشوریٰ آیت ۳۰)

اور تمہیں جو مصیبت پہنچی وہ اس سبب سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا اور بہت کچھ تو معاف کر دیتا ہے۔

میٹھی میٹھی اسلامی بہنو!

یقیناً دنیا و آخرت کی ہر پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ عزوجل اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو اللہ تعالیٰ عزوجل کے کاموں میں لگ جاتی ہے اللہ عزوجل اُس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔

نماز کی برکتیں:

مسلمانوں کے لئے سب سے پہلا فرض نماز ہے مگر افسوس کہ آج ہماری مسجدیں

دوران ہیں۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے نماز اللہ عزوجل کی خوشنودی کا سبب ہے نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے۔ نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نماز بیماریوں سے بچاتی ہے نماز دعاؤں کی مقبولیت کا سبب ہے۔ نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے۔ نماز عذاب قبر سے بچاتی ہے نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز پل صراط کے لئے آسانی ہے، نماز جہنم کے عذاب سے بچاتی ہے۔ نماز بیٹھے بیٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نماز کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور نمازی کے لئے سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اُسے بروز قیامت اللہ تعالیٰ عزوجل کا دیدار ہوگا۔

### بے نمازی کا ہولناک انجام:

بے نمازی سے اللہ تعالیٰ عزوجل ناراض ہوتا ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دیتا ہے اُس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ نماز میں سستی کرنے والے کو قبر اس طرح دبائے گی کہ اُس کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی اور اُس کی قبر میں آگ بھڑکا دی جائے گی اور اُس پر ایک خوفناک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ نیز قیامت کے روز اُس کا حساب سختی سے لیا جائے گا۔

جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والوں کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۝ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۝ (ماعون: ۴۵)

تو اُن نمازیوں کی خرابی ہے جو اپنی نماز سے بھولے بیٹھے ہیں۔

جہنم میں ایک ”ویل“ نامی خوفناک وادی ہے جس کی سختی سے خود جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنے والے اُس کے مستحق ہیں۔ قصداً نماز قضا

کرنے والوں کے لئے احادیث میں بھی عذاب وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ پڑھئے اور خوف خداوندی عزوجل سے لرزئے۔

### نماز قضا کرنے کی سزا:

معراج کی رات سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک منظر یہ بھی ملاحظہ فرمایا: کچھ مردوں اور عورتوں کے سروں پر فرشتے ضربیں لگاتے تھے اور چوٹ سے اُن کے دماغ اس طرح بہتے تھے جس طرح بڑی نہر بہتی ہو۔ اور وہ درد سے چیختے ہوئے کہتے تھے۔ ہائے افسوس! ہائے ہلاکت! آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا رحمت میں عرض کیا گیا: یہ لوگ بے وقت نماز پڑھتے تھے۔

(مخص از ذرۃ الناصحین)

پیاری اسلامی بہنو! اگر سر میں ہمیں معمولی سی چوٹ بھی لگ جائے تو تڑپ اٹھتیں ہیں۔ تو اگر نمازیں قضا کرے کی صورت میں ہمارے نازک سروں پر فرشتوں نے ہتھوڑے برسائے شروع کر دیئے تو ہمارا کیا بنے گا! کاش! ہماری کوئی نماز قضا نہ ہوتی۔ اب فجر کی نماز میں سوئے رہنے والے نماز کا وقت سو کر گزارنے کی ہولناک سزا کا احوال پڑھیں اور توبہ کریں۔

### سر کچلنے کی سزا:

سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے فرمایا، آج رات دو شخص (یعنی جبرائیل علیہ السلام) اور میکائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے ارض مقدسہ میں لے آئے۔ میں نے دیکھا کہ ایک شخص لیٹا ہے اور اس کے سر ہانے ایک شخص پتھر اٹھائے کھڑا ہے اور پے در پے پتھر سے اُس کا سر کچل رہا ہے ہر بار کچلنے کے بعد سر پھر ٹھیک ہو جاتا ہے۔ میں نے فرشتوں سے کہا۔ سبحان اللہ عزوجل یہ کون ہیں؟ انہوں نے عرض کیا۔ آگے تشریف لے چلئے، مزید مناظر دکھانے کے بعد



فرشتوں نے عرض کیا! کہ پہلا شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا یہ وہ تھا جس نے قرآن یاد کر کے چھوڑ دیا تھا اور فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا اس کے ساتھ یہ برتاؤ قیامت تک ہو گیا۔ (مخص از بخاری شریف)

قصداً نمازیں قضا کرنے والے اور جھوٹی قسمیں کھانے والے کو جہنم میں جانے کا حکم دیا جائے گا۔ چنانچہ حجۃ الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں۔

### جہنم میں جانے کا حکم:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو اللہ عزوجل کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عزوجل اُسے جہنم میں جانے کا حکم فرمائے گا۔ وہ عرض کرے گا۔ یا اللہ عزوجل مجھے کس لئے جہنم میں بھیجا جا رہا ہے ارشاد ہوگا، نمازوں کو اُن کا وقت گزار کر پڑھنے اور میرے نام کی جھوٹی قسمیں کھانے کی وجہ سے۔ (مکاشفۃ القلوب)

### قبر میں آگ کے شعلے:

ایک شخص کی بہن فوت ہو گئی۔ جب اُسے دفن کر کے لوٹا تو یاد آیا کہ رقم کی تھیلی قبر میں گر گئی ہے۔ چنانچہ وہ اپنی بہن کی قبر پر آیا اور اُس کو کھودا تا کہ تھیلی نکال لے۔ اُس نے دیکھا کہ بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑک رہے ہیں! چنانچہ اُس نے جوں توں قبر پر مٹی ڈالی اور غمگین روتا ہوا ماں کے پاس آیا اور پوچھا پیاری امی جان! میری بہن کے اعمال کیسے تھے؟ وہ بولی بیٹا کیوں پوچھتے ہو؟ عرض کی میں نے اپنی بہن کی قبر میں آگ کے شعلے بھڑکتے دیکھے ہیں۔ یہ سن کر ماں بھی رونے لگی اور کہا! ”افسوس! تیری بہن نماز میں سستی کیا کرتی تھی اور نماز اوقات گزار کر پڑھا کرتی تھی (یعنی نماز قضا کر

کے پڑھتی تھی)

میٹھی میٹھی اسلامی بہنو!

کہیں شیطان آپ کو اس وسوسے میں مبتلا نہ کر دے کہ نماز قضا کرنا ہی سخت گناہ ہے۔ لہذا نماز رہ جائے تو اسے قضا ہی نہیں کرنا چاہئے ایسا نہیں ہے قضا نماز ادا کرنے کے بعد توبہ سے معافی کی قوی امید ہے مگر جو نماز سرے ہی سے نہ پڑھے اُس کو توبہ سے نماز معاف نہیں ہو جاتی۔ ہاں اللہ عزوجل کسی مسلمان کو محض اپنی رحمت سے بے حساب جنت میں داخل فرمادے تو وہ اُس کی شان کریبی ہے۔ بہر حال نمازوں کی عادت ڈالنے اور اگر کچھلی نمازیں باقی ہیں تو ان کا بھی حساب لگا کر قضا عمری کا اہتمام کیجئے۔ امام اہلسنت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں، اگر کسی پر ساٹھ سال کی نمازیں باقی ہوں اور وہ ساری نمازیں قضا عمری کرنے کی نیت سے گھر سے باہر قدم رکھے اور موت آجائے تو ان شاء اللہ عزوجل اس کی مغفرت ہو جائے گی۔

قرآن مجید میں ہے کہ جب جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ وہ نہایت ہی حسرت و افسوس کے ساتھ جواب دیں گے۔

قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِيْنَ ۝ وَلَمْ نَكُ نَطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ۝ وَكُنَّا نَحْوُضُ مَعَ الْخَائِضِيْنَ ۝ وَكُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ۝ حَتَّىٰ آتَانَا الْيَقِيْنَ ۝ (المدثر آیت ۴۷)

ہم نماز نہ پڑھتے تھے اور مسکین کو کھانا نہ دیتے تھے اور بیہودہ فکر والوں کے ساتھ بیہودہ فکریں کرتے تھے اور ہم انصاف کے دن کو جھٹلاتے رہے یہاں تک کہ ہمیں موت آئی۔

میٹھی میٹھی اسلامی بہنو!

یاد رکھئے ہر عاقل و بالغ مرد و عورت مسلمان پر روزانہ پانچ وقت کی نماز فرض ہے جو نماز کو فرض نہ جانے وہ کافر ہے چاہے اس کا نام اور اس کے دیگر کام مسلمانوں والے ہوں اور فرض تو مانے مگر ادا نہ کرے وہ مسلمان تو ہے مگر ایک نماز بھی جو ترک کر دے وہ سخت فاسق و گنہگار مستحق عذاب نار ہے۔ اللہ عزوجل کا مقدس قرآن میں فرمان عظمت نشان ہے۔

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ  
فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غِيَاةً (مریم آیت ۵۹)

تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلفائے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو عنقریب وہ دوزخ میں ”غی“ کا جنگل پائیں گے۔

ہولناک کنواں:

مذکورہ بالا آیات مقدسہ میں ”غی“ کا تذکرہ ہے ”غی“ جہنم کی ایک خوفناک وادی کا نام ہے اُس کی گہرائی سب سے زیادہ ہے اس میں ایک ہولناک کنواں ہے جس کا نام ”ہب ہب“ ہے جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے اللہ عزوجل اس کنوئیں کو کھول دیتا ہے جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ یہ ہولناک کنواں بے نمازیوں، زانیوں، شرابیوں، سودخوروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لئے ہے۔

(بہار شریعت)

دنیوی کنواں:

میٹھی میٹھی اسلامی بہنو!

خوف خداوندی عزوجل سے لرز اٹھو! اور گھبرا کر جلد اپنے گناہوں کی توبہ کر لو کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ مذکورہ روایت میں بے نمازیوں، شرابیوں، زانیوں، سود

خوروں اور والدین کو ایذا دینے والوں کے لیے درس عبرت ہے اُس خوفناک آتشیں کنویں کو سمجھنے کے لئے کبھی کسی دنیوی گہرے کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر اُس کو گہرائی میں ذرا نظر ڈالیے اور سوچئے کہ اگر اس دنیا کو کنویں ہی میں قید کر دیا جائے تو کیا اس سزا کو برداشت کر سکیں گے؟ نہیں تو پھر جہنم کے کنویں کا عذاب کیونکر برداشت ہو سکے گا!

### حکایت:

ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ وہ اکثر روتے رہتے تھے جب سبب گر یہ دریافت کیا جاتا تو فرماتے میں سوچتا ہوں کہ اگر گناہوں کے سبب مجھے حمام کے گرم پانی میں غوطے دیئے جائیں تب بھی میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا حالانکہ مجرموں کو جہنم کی آگ اور وہاں کے کھولتے ہوئے پانی میں غوطے دیئے جائیں گے تو وہ کس طرح برداشت ہو سکے گا! قرآن پاک میں ارشاد ہے۔

هٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ۝ يَطوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ

حَمِيمٍ اِنَّ ۝ (الرحمن ۴۳، ۴۴)

یہ ہے وہ جہنم جسے مجرم جھٹلاتے ہیں پھیرے کریں گے اس میں اور انتہا کے جلتے کھولتے پانی میں۔

### خوفناک سانپ اور نخر نما بچھو:

حدیث پاک میں ہے۔ جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ”لملم“ ہے اس میں اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے سانپ ہیں۔ ہر سانپ کی لمبائی ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہے۔ جب یہ سانپ بے نمازی کو ڈسے گا تو اُس کا زہر اُس کے جسم میں ستر سال تک جوش مارتا رہے گا اور جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام ”حب

الحزن“ ہے۔ اس میں کالے خچر کی مانند بچھو ہیں ہر بچھو کے ستر ڈنگ ہیں اور ہر ڈنگ میں زہر کی تھیلی ہے۔ وہ بچھو جب بے نمازی کو ڈنگ مارتا ہے تو زہر اس کے سارے جسم میں سرایت کر جاتا ہے اور اس زہر کی گرمی ایک ہزار سال تک رہتی ہے۔ اس کے بعد اس کی ہڈیوں سے گوشت جھڑتا ہے اور اُس کی شرمگاہ سے پیپ بہنے لگتی ہے اور تمام جہنمی اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ (قرہ العیون)

میٹھی میٹھی اسلامی بہنو!

لرز اٹھو! اور گھبرا کر اللہ عزوجل کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر کے نمازوں کا اہتمام شروع کر دو۔ ورنہ یاد رکھو! اللہ عزوجل کا عذاب برداشت نہ ہو سکے گا۔

قارون کے ساتھ حشر:

رسول اکرم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جس نے نماز کی محافظت (یعنی ہمیشہ حفاظت) کی اُس کے لئے وہ نماز بروز قیامت نور اور برہان (یعنی دلیل) اور نجات ہوگی۔ اور جس نے محافظت نہ کی اُس کے لئے نہ نور ہے نہ نجات اور وہ قیامت کے روز قارون و فرعون و ہامون و ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ (احمد، دارمی، بیہقی، شعب الایمان)

حجتہ الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ مکاشفۃ القلوب میں اس حدیث کے تحت فرماتے ہیں!

بعض علماء رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو مال و دولت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز ترک کرے گا وہ بروز قیامت قارون کیساتھ اٹھایا جائے گا۔ جو حکومت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز میں غفلت کرے گا وہ قیامت کے روز فرعون کے ساتھ اٹھے گا جو وزرات (ملازمت) کی مصروفیت کے سبب نماز سے محروم ہوگا اسے فرعون کے وزیر ہامان کے ساتھ روز قیامت میں اٹھایا جائے گا۔ اور جو تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز ترک

کرے گا۔ وہ مکہ مکرمہ کے بدنام کافر تاجر ابیبن خلف کے ساتھ محشر کے دن اٹھایا جائے گا۔

### جان لیوا خراش:

ابی بن خلف پکا دشمن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ ہجرت سے قبل وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کرتا تھا۔ میں نے ایک گھوڑا پالا ہے اُسے کھلا پلا کر خوف فر بہ کر کے ایک ان اُس پر سوار ہو کر معاذ اللہ عزوجل آپ کو شہید کروں گا۔ ایک بار اللہ عزوجل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُس سے فرما دیا۔ ان شاء اللہ عزوجل میں ہی تجھے قتل کروں گا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے اس پر دہشت طاری ہو گئی اور یقین ہو چلا کہ اب سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر مجھ پر اپنا لعاب دہن بھی ڈال دیں گے تو میں مارا جاؤں گا۔ بہر حال غزوہ احد میں موقع پا کر وہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاذ اللہ عزوجل شہید کرنے کے ناپاک ارادے سے آگے بڑھا جان نثار صحابہ کرام علیہم الرضوان اُس کی طرف لپکے مگر مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو روک دیا جب وہ قریب ہوا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے برچھالے کر اس کی گردن پر ہلکی سی خراش لگا دی وہ بوکھلا کر گھوڑے سے گرا اور چیختا ہوا اپنے لشکر کی طرف بھاگا۔ وہ چلا چلا کر کہہ رہا تھا۔ خدا عزوجل کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے قتل کر دیا۔ روایت میں ہے کہ اُس کے چلانے کی آواز ایسی ہو گی تھی جیسی بیل کی ہوتی ہے۔ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ (جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے) نے اُس کو شرم دلاتے ہوئے کہا۔ معمولی سی خراش پر کیا چلا چلا کر آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے وہ بولا! آپ کو کیا معلوم کہ یہ مار کس کی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مار ہے لات وعزئی (کافروں کے مشہور دو بتوں کے نام) کی قسم! مجھے اس خراش میں اس قدر تکلیف ہو رہی ہے کہ اگر

یہ تکلیف تمام اہل حجاز میں تقسیم کر دی جائے تو سب کے سب ہلاک ہو جائیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں مجھ سے فرمایا تھا کہ ان شاء اللہ عزوجل میں تجھے قتل کروں گا میں اسی وقت سمجھ گیا تھا! کہ ان کے ہاتھوں میری ہلاکت یقینی ہے کہ ان کی کوئی بات کبھی غلط ہوتی نہیں دیکھی چنانچہ مکہ پاک پہنچے سے ایک دن قبل ہی وہ راستے میں تڑپ تڑپ کر ہلاک ہو۔ (تاریخ نہیں)

مقام غور:

میٹھی میٹھی اسلامی بہنو!

مقام غور ہے کہ ایک طرف تو ایک قطعی کافر اور دشمن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسا کامل یقین ہے کہ سلطان دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے جب اُس نے یہ سن لیا کہ میں ان شاء اللہ عزوجل تجھے قتل کروں گا۔ تو وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گیا۔ اور دوسری طرف ہم علامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرنے جان نثاری کا دعویٰ کرنے اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر فرمان پر سچے دل سے ایمان رکھنے کے باوجود نافرمانیوں کے بارے میں اُن کے بیان کردہ عذاب کے معاملے غفلت کا شکار ہیں۔

بے نمازی سے شیطان بھی بھاگتا ہے:

منقول ہے کہ ایک شخص جنگل میں جا رہا تھا شیطان بھی اُس کے ساتھ ہو لیا اُس شخص نے دن بھر میں ایک بھی نماز نہ پڑھی یہاں تک کہ رات ہو گئی شیطان اُس سے بھاگنے لگا۔ اُس شخص نے متعجب ہو کر بھاگنے کا سبب پوچھا تو شیطان بولا، میں نے عمر بھر میں صرف ایک بار آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا انکار کیا تو ملعون ہوا اور تو نے آج

پانچوں نمازیں ترک کر دیں۔ مجھے خوف آ رہا ہے کہ کہیں تجھ پر قہر نازل ہوا اور میں بھی اُس میں نہ پھنس جاؤں۔ (درۃ الناصحین)

### پندرہ خوفناک سزائیں:

نبی پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ جو نماز کے معاملے میں سستی برتے گا اللہ عزوجل اُسے پندرہ قسم کی سزائیں دے گا ان میں چھ دنیا میں تین موت کے وقت تین قبر میں اور تین قبر سے نکلنے کے بعد دے گا۔ دنیا کی چھ سزائیں یہ ہیں۔

- 1- اللہ عزوجل اُس کی عمر سے برکت زائل کر دیگا۔
  - 2- اللہ عزوجل اُس کے چہرے سے نیک لوگوں جیسی نورانیت چھین لے گا۔
  - 3- اللہ عزوجل اُس کے کسی عمل کا اجر و ثواب نہیں دے گا۔
  - 4- اُس کی کوئی دعا آسمان تک بلند نہ ہوگی۔
  - 5- اللہ عزوجل لوگوں کے سامنے اُسے ذلیل و خوار کرے گا۔
  - 6- نیک لوگوں کی دعا میں اُس کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔
- موت کے وقت کی تین سزائیں۔

- 1- ذلیل ہو کر مرنے گا۔
  - 2- بھوکا مرے گا۔
  - 3- مرتے وقت اتنی سخت پیاس لگے گی کہ اگر اُسے سارے دریاؤں کا پانی بھی پلا دیا جائے۔ تو پیاس نہ جائے۔
- قبر کی تین سزائیں۔

- 1- اُس کی قبر تنگ کر دی جائے گی اور اسے قبر اس قدر بھینچے گی کہ اُس کی پسلیاں



ٹوٹ پھوٹ کر ایک دوسرے میں پیوست ہو جائیں گی۔

2- اُس کی قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی جس میں اُلٹ پلٹ ہوتا رہے گا۔

3- اُس پر قبر میں ایک اژدھا مسلط کر دیا جائے گا جس کا نام الشَّجَاعُ الْأَقْرَعُ

(یعنی گنجا سانپ جو سخت زہریلا ہوتا ہے) ہے اُس کی آنکھیں آگ کی اور

ناخن لوہے کے ہوں گے ہر ناخن کی لمبائی ایک دن مسافت کے برابر ہوگی وہ

بجلی کی طرح کڑک کر کہے گا! میں الشَّجَاعُ الْأَقْرَعُ ہوں مجھے میرے رب

عزوجل نے حکم فرمایا ہے کہ تجھے صبح کی نماز ضائع کرنے پر ظہر تک عصر نماز

ضائع کرنے پر عصر تا مغرب، نماز مغرب ضائع کرنے پر مغرب تا عشاء، نماز

عشاء ضائع کرنے پر عشاء تا صبح مارتا رہوں اور جب جب وہ ایک ضرب لگائے

گا تو مردہ ستر ہاتھ زمین میں دھنس جائے گا۔ پھر وہ اژدھا اپنے ناخن زمین

میں گاڑ کر اُس کو نگالے گا۔ تو یہ عذاب اُس پر قیامت تک مسلسل ہوتا رہے گا۔

قبر سے اٹھنے کے بعد کی تین سزائیں۔

1- اللہ عزوجل جہنم کی آگ کا ایک بادل اُس کے چہرے کے سامنے مسلط فرمائے

گا جو اُس کو جہنم کی طرف ہانپ کر لے جائے گا۔

2- حساب کے وقت اللہ عزوجل اُس کی طرف غضبناک نظر ڈالے گا۔ جس سے

اُسکے چہرے کا گوشت جھڑ جائے گا۔

3- اُس کا حساب سختی سے لیا جائے گا۔ اللہ عزوجل اُس کو دوزخ میں لے جانے کا

حکم صادر فرمائے گا۔ (بخاری از قرۃ العین)

مکاشفۃ القلوب میں حجۃ الاسلام حضرت سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ علیہ السلام

فرماتے ہیں بروز قیامت وہ (یعنی نماز کے معاملے میں سستی کرنے والا) اس

حال میں آئے گا کہ اُس کے چہرے پر تین سطریں لکھی ہوں گی۔

- 1- اس اللہ عزوجل كا حق برباد كرنے والے۔
- 2- اسے اللہ عزوجل كے غضب كے ساتھ مخصوص۔
- 3- جس طرح دنیا میں تونے حق اللہ عزوجل كى ضائع كیا اسی طرح آج تو بھی اللہ عزوجل كى رحمت سے مایوس ہے۔

بے نمازی بہنو! اپنی ناتوانی پر ترس کھائیے سستی اڑائیے اور نمازوں كا اہتمام شروع کیجئے! جب آپ كو نماز كى عادت پڑ جائے گی تو پھر نماز پڑھے بغیر آپ كو ان شاء اللہ عزوجل چین ہی نہیں آئے گا اور ان شاء اللہ عزوجل شیطان خود ہی آپ كى جان چھوڑ دے گا۔

### حكايت:

ایک بزرگ كو شیطان نظر آ گیا تو فرمانے لگے كوئی ایسا طریقہ بتا كه میں تجھ جیسا بن جاؤں۔ شیطان نے کہا كه نماز میں سستی كر اور خوب جھوٹی قسمیں كھایا كر۔ وہ بزرگ فوراً بول اٹھے۔ میں اللہ عزوجل سے عہد كرتا ہوں كه كبھی نماز میں كوتاہی نہیں كروں گا۔ اور كبھی جھوٹی قسم نہیں كھاؤں گا شیطان نے بوكھلا كر کہا۔ میں بھی عہد كرتا ہوں كه كبھی كسى انسان كو نصیحت نہیں كروں گا۔ (تنبیہ الغافلین)

### بھیا نك قبر میں:

ایک بار خلیفہ عبد الملک كے پاس ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا۔ عالی جاہ! میں بے حد گنہگار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں كه میرے لئے معافی بھی ہے یا نہیں؟ خلیفہ نے کہا کیا تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ اُس نے کہا بڑا ہے خلیفہ نے پوچھا۔ کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا بڑا ہے پوچھا كه تیرا گناہ عرش و كروسی سے بھی بڑا ہے؟ عرض كیا اُس سے بھی بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا بھائی یقیناً تیرا

گناہ اللہ عزوجل کی رحمت سے بڑا نہیں ہو سکتا یہ سن کر اُس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے اُمنڈ آیا۔ اور وہ دھاڑیں مار مار کر رونے لگا۔ خلیفہ نے کہا۔ بھئی آخر مجھے بھی تو پتا چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے اس پر اُس نے کہا۔ حضور! مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے تاہم عرض کئے دیتا ہوں شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے یہ کہہ کر اُس نے اپنی داستان دہشت نشان سنانی شروع کی کہنے لگا۔ عالی جاہ! میں ایک کفن چور ہوں آج رات میں نے پانچ قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا۔

### شرابی کا انجام:

کفن چرانے کی غرض سے میں نے جب پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلہ سے پھرا ہوا تھا میں خوف زدہ ہو کر جوں ہی پلٹا کہ غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا کوئی کہہ رہا تھا۔ اس مردے سے عذاب کا سبب دریافت کرے۔ میں نے گھبرا کر کہا مجھ میں ہمت نہیں تم ہی بتاؤ آواز آئی یہ شخص شرابی اور زانی تھا۔

### خنزیر نما مردہ:

پھر میں نے دوسری قبر کھودی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا! کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور طوق وزنجیر میں جکرا ہوا ہے غیب سے آواز آئی یہ جھوٹی قسمیں کھتا تھا اور حرام روزی کما تا تھا۔

### آگ کی کیلیں:

تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی ایک بھیانک منظر تھا مردہ گدی کی طرف زبان نکلائے ہوئی تھا اور اُس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھیں غیبی آواز نے بتایا کہ غیبت کرتا تھا چغلی کھاتا تھا اور لوگوں کو آپ میں لڑواتا تھا۔

## آگ کی لپیٹ میں:

چوتھی قبر کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا۔ مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے آگ کے گزروں یعنی ہتھوڑوں سے مار رہے تھے مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہو گئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا۔ مگر میرے کانوں میں ایک غیبی آواز گونج رہی تھی کہ یہ بدنصیب نماز اور روزہ رمضان میں سستی کیا کرتا تھا۔

## جوانی میں توبہ کا انعام

جب پانچویں قبر کھودی تو اس کی حالت گزشتہ چاروں قبروں سے بالکل برعکس تھی۔ قبر مد نظر تک وسیع تھی اور اندر ایک نوجوان چاند سا چہرہ چمکاتا ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا، غیبی آواز نے بتایا۔ اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز و روزہ کا سختی سے پابند تھا۔

## میٹھی میٹھی اسلامی بہنو!

مندرجہ بالا حکایت بار بار پڑھئے اور خوف خداوندی عزوجل سے لرزئے۔ اللہ عزوجل کبھی کبھی قبر کے مناظر یعنی برزخ کے حالات اس لئے دکھاتا ہے تاکہ لوگ ان سے درس عبرت حاصل کریں اور گناہوں سے بچنے کا سامان کریں۔

## پچھو نما خطرناک جانور:

سرکارِ نامدار مالک و مختار، شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشادِ خوشبودار ہے بروز قیامت پچھو جیسا حریش نانا ایک جانور جہنم سے برآمد ہوگا۔ جس کی لمبائی زمین سے لیکر آسمان تک اور چوڑائی مشرق تا مغرب ہوگی جبرائیل علیہ السلام اس سے استفسار فرمائیں گے اسے حریش! کہاں چلے؟ کہے گا میدان قیامت میں جا رہا ہوں۔

پوچھیں گے كس كس كو طلب كرتے ہو؟ كہے گا پانچ طرح كے شخصوں كو۔

(1) بے نمازی

(2) جو اپنے مال كی زکوٰۃ نہیں دیتا

(3) شرابی

(4) ماں باپ كا نافرمان

(5) مسجد میں دنیا كی باتیں كرنے والا

(مخلص از ذرۃ الناصحین)

میٹھی میٹھی اسلامی بہنو!

مندرجہ بالا حدیث بار بار پڑھیے اور خوف خداوندی عزوجل سے لرزیے اور اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو فوراً اس كا اہتمام شروع كر دیجئے اور اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ پر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ اُس كے مستحقین تک پہنچا دیجئے۔ اگر والدین كا دل دکھایا ہے تو اُس سے ہر صورت میں معافی مانگ لیجئے اور اُن كو راضی كر لیجئے۔ شراب نوشی كی اگر عادت ہے تو اُس سے بھی توبہ كر لیجئے اور مسجد میں دنیا كی باتوں سے بھی پرہیز كیجئے، اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عزوجل ہمیں روزانہ پانچوں وقت كے ساتھ باجماعت نماز ادا كرنے كی سعادت نصیب فرما۔ اور ہم میں سے جن جن كی قضا نمازیں باقی ہیں اُن كو جلد تر قضا عمری كی توفیق عطا فرما اور تاخیر سے پڑھنے كا گناہ بھی معاف كر دے اور ہم سے سدا كے لئے راضی ہو جا ہمارى اور ہمارے والدین كی اور ساری اُمت كی مغفرت فرما۔

اٰمِیْنُ بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْنِ

صَلِّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنِ

## غیبت کی تباہ کاریاں

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ! فَاغْوِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

### ﴿فضیلتِ درودِ پاک﴾

نبیوں کے سالار ہم غریبوں کے غمگسار، شفیع روزِ شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ خوشبودار ہے: جو مجھ پر سو مرتبہ درودِ پاک پڑھے اللہ (عزوجل) اُس کی سو حاجات پوری فرمائے گا۔ ان میں سے تین دنیا کی ہیں اور ستر آخرت کی۔

(کنز العمال، کتاب الاذکار، جلد ۱، صفحہ ۲۵۵، رقم الحدیث ۲۲۲۹)

ہم غریبوں کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پہ بے حد درود

ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم

غیبت کی تعریف بہارِ شریعت میں:

صدر الشریعہ بدرالطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ

لقوی نے غیبت کی تعریف اس طرح بیان کی ہے کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو اس کی بُرائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا۔ (بہار شریعت حصہ ۱۶ ص ۱۷۵)

### غیبت کی تعریف ابن جوزی:

میٹھی میٹھی اسلامی بہنو!

افسوس کہ آج ہماری اکثریت کو غیبت کی تعریف تک معلوم نہیں حالانکہ اس کے بارے میں ضرور احکام جاننا فرض علوم میں سے ہے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۳۰۰ صفحات پر مشتمل کتاب ”آنسوؤں کا دریا“ صفحہ 256 پر حضرت علامہ ابوالفرج عبدالرحمن بن جوزی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے احادیث مبارکہ کی روشنی میں غیبت کی تعریف بیان فرمائی ہے۔ وہ یہ ہے تو اپنے بھائی کو ایسی چیز کے ذریعے یاد کرے کہ اگر وہ سن لے یا یہ بات اسے پہنچے تو اسے ناگوار گزرے اگرچہ تو اس میں سچا ہو خواہ اس کی ذات میں کوئی نقص (خامی) بیان کرے یا اس کی عقل میں یا اس کے کپڑوں میں یا اس کے فعل یا قول میں کوئی کمی بیان کرے یا اس کے دین یا اس کے گھر میں کوئی نقص بیان کرے تا اس کی سواری یا اس کی اولاد اس کے علام یا اس کی کنیز میں کوئی عیب بیان کرے یا اس سے متعلق (یعنی تعلق رکھنے والی) کسی بھی شے کا بُرائی کے ساتھ تذکرہ کرے یہاں تک کہ تیرا یہ کہنا کہ اس کی آستین یا دامن لمبا ہے سب غیبت میں داخل ہیں (بعد الموع ۱۸۷)

### غیبت کیا ہے:

حضرت سیدنا امام احمد بن حنبلہ شافعی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل کرتے ہیں علماء کرام رحمہم اللہ السلام فرماتے ہیں انسان کے کسی ایسے عیب کا ذکر کرنا جو اس میں موجود ہو غیبت کہلاتا ہے اب وہ عیب چاہے اُس کے دین، دنیا، ذات، اخلاق، مال، اولاد،

بیوی، خادم، غلام، عمامہ، لباس، حکایت و سلکناات، مسکراہٹ، دیوانگی، ترش روئی اور خوش روئی وغیرہ کسی بھی ایسی چیز میں ہو جو اس کے متعلق ہو۔ جسمانیات میں غیبت کی مثالیں، اندھا، لنگڑا، گنجا، ٹھگنا، لمبا، کالا اور زرد وغیرہ کہان دین میں غیبت کی مثالیں۔ فاسق، چور، خائن، ظالم، نماز میں سستی کرنے والا اور والدین کا نافرمان وغیرہ کہنا مزید آگے چل کر نقل فرماتے ہیں کہا جاتا ہے کہ غیبت میں کھجور کی سی مٹھاس اور شراب جیسی تیزی اور سرور ہے اللہ عزوجل اس آفت سے ہماری حفاظت فرمانے اور ہماری طرف سے غیبت والوں کے حقوق (محض اپنے فضل و کرم سے) خود ہی ادا فرمائے کیونکہ اس عزوجل کے علاوہ انہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا۔

(الزواج عن اقتراف الکلبا بمرج ۲ ص ۱۹)

گنا گدا کا حساب کیا وہ اگرچہ لاکھ سے ہیں سوا

مگر اے عفو تیرے عفو کا تو حساب ہے نہ شمار ہے

اپنے کلام کے اس مقطع کے مصرعہ اولیٰ میں اعلیٰ حضرت امام حمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے خوب انکساری فرمائی ہے لہذا رضا کی جگہ سب مدینہ عفی عنہ نے اپنے گناہوں کے تصور سے گدا لکھا ہے۔

اکثر گھر میدان جنگ بنے ہوئے ہیں:

میٹھی میٹھی اسلامی بہنوا!

اللہ عزوجل کی قسم! غیبت انتہائی تباہ کار ہے۔ اسی غیبت کے باعث آج اکثر گھر میدان کارزار بنے ہوئے ہیں۔ خاندانوں اور برادریوں میں، محلوں اور بازاروں میں، عوام و خواص کے اکثر طبقوں میں، بلکہ سنت کی خدمت کا جذبہ رکھنے والے متعدد افراد کے درمیان بھی اسی غیبت کے باعث نفرت کی منحوس دیواریں قائم ہیں۔

آہ! مرنے کے بعد نازک بدن غیبت کا ہولناک عذاب کیسے برداشت کر سکے



گا! سنو! سنو!

سینوں سے لٹکے ہوئے لوگ:

سرور کائنات، شاہ موجودات، محبوب رب الارض والسموات عزوجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا اے جبرائیل! یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی! یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں اور ان کے متعلق اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے۔

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ (ب ۱۳ الہمزہ ۱)

خرابی ہے اس کے لئے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے۔ پیٹھ پیچھے بدی کرے۔

(شعب الایمان ج ۵ ص ۳۰۹ حدیث ۶۷۵)

تا بنے کے ناخن:

سرکارِ دو عالم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ میں شب معراج ایسی قوم کے پس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تا بنے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے میں نے پوچھا اے جبرائیل! یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے (یعنی غیبت کرتے) تھے اور ان کے عزت خراب کرتے تھے۔

(سنن ابوداؤد ج ۳ ص ۳۵۱۲ حدیث ۲۸۷۸)

عورتیں زیادہ غیبتیں کرتی ہیں:

مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ فرماتے ہیں۔ ان پر خارش کا عذاب مسلط کر دیا گیا تھا اور ناخن تا بنے کے دھار دار اور نوکیلے تھے ان سے سینہ چہرہ کھبلاتے تھے اور زخمی ہوتے تھے۔ اللہ عزوجل کی پناہ یہ عذاب سخت عذاب

ہے۔ یہ واقعہ بعد قیامت ہوگا۔ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا مزید فرماتے ہیں۔ یعنی یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے اور ان کی آبرو یزی (عزت خراب) کرتے تھے یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں انہیں اس سے عبرت لینا چاہئے۔ (مراۃ ج ۶ ص ۶۱۹)

پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر کھلانے کا عذاب:

میٹھی میٹھی اسلامی بہنو!

کبھی تنہائی میں غور کیجئے کہ ہماری کمزور کی حالت تو یہ ہے کہ معمولی خارش بھی برداشت نہیں ہوتی۔ ناخن کا معمولی چرکا (یعنی ہلکا سا چیرا) بھی سہنا نہیں جاتا تو اگر غیبت کر کے بغیر توبہ کئے مر گئے اور تانبے کے ناخنوں سے چہرہ اور سینہ چھیلنے اور نوچنے کی سزا دی گئی تو اس سخت ترین اذیت کی سہار کیوں کر ہوگی! غیبت کے ایک اور دل ہلا دینی والے عذاب کی روایت سنئے اور تھر تھر کانپئے! حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے۔ جس رات مجھے آسمانوں کی سیر کرائی گئی تو میرا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر خود ان ہی کو کھلایا جا رہا تھا۔ انہیں کہا جاتا کھاؤ! تم اپنے بھائیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ میں نے پوچھا اے جبرائیل یہ کون ہیں؟ عرض کی آقا! یہ لوگوں کی غیبت کیا کرتے تھے۔

(دلائل النبوة للبیہقی ج ۲ ص ۳۹۳، تنبیہ الغافلین ص ۸۶)

قیامت میں مردہ بھائی کا گوشت کھلایا جائے گا:

حضور نبی کریم رؤف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظیم ہے جو دنیا میں اپنے جس بھائی کا گوشت کھائے گا (یعنی غیبت کرے گا) وہ یعنی (جس کی غیبت کی تھی) قیامت کے دن اُس کے قریب لایا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا۔ اسے مردہ

حالت میں بھی کھا جس طرح اسے زندہ کھاتا تھا۔ پس وہ اسے کھائے گا اور تیوری چڑھائے گا (یعنی منہ بگاڑے گا) اور (سخت تکلیف کی وجہ سے) شور و غل مچائے گا۔  
(المعجم الاوسط للطبرانی ج ۱ ص ۲۵۰ حدیث ۱۶۵۶)

زبان جلنے سے محفوظ رہے گی:

میٹھی میٹھی اسلامی بہنو!

غیبتوں اور گناہوں بھری باتوں سے رشتہ تھوڑے اور اللہ عزوجل کی یادوں۔  
میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعمتوں سے رشتہ جوڑے خوب درود و سلام کے لئے زبان کو استعمال کیجئے اور خوب خوب تلاوت قرآن پاک کیجئے اور ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجئے۔ چنانچہ ”روح البیان“ میں یہ حدیث قدسی ہے۔

جس نے ایک بار بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ کو الحمد شریف کے ساتھ ملا کر یعنی بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ختم سورۃ تک پڑھا تو تم گواہ ہو جاؤں کہ میں نے اسے بخش دیا۔ اس کی تمام نیکیاں قبول فرمائیں اور اس کے گناہ معاف کر دیئے اور اس کی زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا اور اس کو عذاب قبر، عذاب نار، عذاب قیامت اور بڑے خوف سے نجات دوں گا۔

(تفسیر روح البیان ج ۱ ص ۹)

ملانے کا مزید واضح طریقہ ملاحظہ فرمائیے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ  
سورۃ پوری کیجئے۔

رہائی مجھ کو ملے کاش! نفس و شیطان سے گناہ  
ترے حبیب کا دیتا ہوں واسطہ یا رب عزوجل  
کر عفو سہہ نہ سکوں گا کوئی سزا کوئی سزا یا رب عزوجل

## نماز و روزہ کی نورانیت گئی:

میٹھی میٹھی اسلامی بہنو!

غیبت کی تباہ کاریوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کی نحوست سے عبادت کی نورانیت رخصت ہو جاتی ہے چنانچہ ایک بار کا ذکر ہے کہ دو روزہ دار جب نماز ظہر یا عصر سے فارغ ہوئے تو (غیب جاننے والے) پیارے پیارے آقا کی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم دونوں وضو کرو اور نماز دہراؤ اور روزہ پورا کرو اور دوسرے دن اس روزے کی قضاء کرنا۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ عزوجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ حکم کس لئے ہوا؟ فرمایا تم نے فلاں شخص کی غیبت کی ہے۔

(شعب الایمان ج ۵ ص ۳۰۳ حدیث ۶۷۲۹)

پیاری اسلامی بہنو! غیبت عبادت کے حق میں بڑی تباہ کار ہے۔ اس ضمن میں دو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملاحظہ فرمائیے۔ روزہ سپر ہے جب تک اسے پھاڑا نہ ہو۔ عرض کی گئی کس چیز سے پھاڑے گا؟ ارشاد فرمایا جھوٹ یا غیبت سے۔

(المعجم الاوسط ج ۳ ص ۲۶۴ حدیث ۴۵۳۶)

روزہ اس کا نام نہیں کہ کھانے اور پینے سے باز رہنا ہو۔ روزہ تو یہ ہے کہ لغو و بیودہ باتوں سے بچا جائے۔

(المستدرک للحاکم ج ۲ ص ۶۷ حدیث ۱۶۱۱)

## کیا غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے:

غیبت سے روزہ وغیرہ عبادت کی نورانیت چلی جاتی ہے۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ ۹۸۴ پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ اللہ القوی فرماتے ہیں۔ احتلام ہو یا غیبت کی تو روزہ نہ گیا۔ (درمختار ج ۳ ص ۴۲۱، ۴۲۸)

اگرچہ غیبت بہت سخت کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں غیبت کرنے کی نسبت فرمایا۔ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا اور حدیث میں فرمایا: غیبت زنا سے سخت تر ہے۔ (المعجم الاوسط ج ۵ ص ۶۳ حدیث ۶۵۹)

اگرچہ غیبت کی وجہ سے روزہ کی نورانیت جاتی رہتی ہے۔ صفحہ ۹۹۶ پر فرماتے ہیں۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی دینا، بیہودہ (یعنی بے حیائی کی) بات، کسی کو تکلیف دینا کہ یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں روزے میں اور زیادہ حرام اور ان کی وجہ سے روزے میں کراہت آتی ہے۔

کھولتے پانی اور آگ کے درمیان دوڑنے والا:

نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے چار طرح کے جہنمی جو کہ جمیم اور جمیم (یعنی کھولتے پانی اور آگ) کے درمیان بھاگتے پھرتے ویل و شبور (ہلاکت) مانگتے ہوں گے ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا کہ جو اپنا گوشت کھاتا ہو گا۔ جہنمی کہیں گے۔ اس بد بخت کو کیا ہوا ہماری تکلیف میں اضافہ کئے دیتا ہے؟ یہ ”بد بخت“ لوگوں کا گوشت کھاتا (یعنی غیبت کرتا) اور چغلی کرتا تھا۔

(ذم الغیبة لابن ابی الدنیاص ۸۹ رقم ۳۹)

خوف گناہ ہو تو ایسا:

میٹھی میٹھی اسلامی بہنو!

آہ جہنم کا خوفناک عذاب! غیبت و معصیت سے کنارہ کشی نہایت ہی ضروری ہے ورنہ سخت سخت سے سخت مصیبت کا سامنا ہو سکتا ہے ہمیں اپنے گناہوں پر ندامت ہونی اور اس کی وجہ سے دہشت کھانی چاہئے۔ کاش! نصیب ہو جائے! اس فن میں ایک حکایت پڑھئے اور تڑپئے! ایک مرتبہ عابدین یعنی نیک بندوں کا ایک قافلہ جس

میں حضرت سیدنا عطاء رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے سفر پر چلا، کثرت عبادت کے سبب اُن عابدین کی آنکھیں اندر کی طرف ہو گئی تھیں۔ پاؤں سوچ گئے تھے اور اتنے کمزور ہو گئے تھے جیسے کہ خر بوزے کے چھلکے! ایسا محسوس ہوتا تھا گویا ابھی ابھی قبروں سے نکل کر آئے ہیں ارہ میں ایک عابد نے ہوش ہو گئے اور باوجود یہ کہ وہ دن سخت سردی کے تھے اُن کے سر سے بسبب دہشت پسینہ ٹپکنے لگا! ہوش آنے کے بعد لوگوں کے استفسار پر بتایا۔ جب میں اس جگہ سے گزرا تو مجھے یاد آیا کہ فلاں روز اس مقام پر میں نے گناہ کیا تھا۔ اس خیال سے میرے دل میں حساب آخرت کی دہشت طاری ہو گئی اور میں بے ہوش ہو گیا۔

(احیاء العلوم ج ۳ ص ۲۲۹ ملغصا)

کسی کی خامیاں دیکھیں، نہ میری آنکھیں اور  
 کرے زبان نہ عیبوں کا تذکرہ یا رب عزوجل  
 تلیں نہ حشر میں عطاء کے عمل مولیٰ عزوجل  
 بلا حساب۔ ہی تو اس کو بخشا یا رب عزوجل

تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے:

حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم بارگاہ رسالت میں حاضر تھے کہ ایک آدمی اُٹھ کر چلا گیا۔ اُس کے جانے کے بعد ایک شخص نے اس کی غیبت کی تو نبی حاشر، رسول صابر و شاکر، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم صادر فرمایا: خلال کرو! اُس نے عرض کی کس وجہ سے خلال کروں میں نے گوشت تو نہیں کھایا! تو ارشاد فرمایا۔ بے شک تو نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا (یعنی غیبت کی) ہے۔

(المعجم الکبیر المطبوع انی ج ۱۰ ص ۱۰۲ حدیث ۱۰۰۹۲)

غیبت بہت بڑا گناہ ہے:

کے سولہ حروف کی نسبت سے بیٹھک سے اٹھ کر جانے والے کی غیبت کی 16

مثالیں!

اس حدیث پاک سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو کہ اپنی مجلس یعنی بیٹھک سے اٹھ کر جانے والے کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر کے غیبتوں کا ارتکاب کرتے ہیں مثلاً

(۱) یار! وہ گیا جان چھوٹی، (۲) اس نے بور کر دیا تھا، (۳) خوا مخواہ بحث کر رہا تھا، (۴) اپنی چلائے جا رہا تھا، (۵) کسی کی نہیں سنتا تھا، (۶) ڈیڑھ ہشیار ہے، (۷) چکنی کرتا ہے، (۸) بات بات پر ہا ہا کرتے ہنستا تھا، (۹) سیدھی منہ بات کہاں کر رہا تھا، (۱۰) ذرا واٹر (یعنی لچا، ٹیڑھا) ہے، (۱۱) ہاں بھی ایسوں سے اللہ عزوجل بچائے، (۱۲) پیٹ کا بھی تھوڑا ہلکا ہے، (۱۳) B.B.C ہے۔ (۱۴) ڈھول ہے، (۱۵) تم نے وہ بات جو اس کے سامنے کی نا اس کا اب خوب ڈنکا بجائے گا، (۱۶) ہاں یار! آئندہ یہ آئے تو بات بدل دیا کرو کیونکہ کہ اس کے پیٹ میں کوئی بات نہیں رہتی وغیرہ وغیرہ

تو غیبت کی عادت چھڑایا الہی عزوجل!  
بری بیٹھکوں سے بچا یا الہی عزوجل!  
ہو پزار دل تہمتوں چغلیوں سے!  
مجھے نیک بندہ بنایا الہی عزوجل!

منہ سے گوشت نکلا:

ام المؤمنین حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کسی نے غیبت کے

بارے میں معلومات کے لئے سوال کیا تو ام المومنین نے فرمایا۔ ایک دفعہ جمعہ کے روز میں صبح کے وقت اُٹھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز فجر کے لئے تشریف لے گئے! اتنے میں انصار کی عورتوں میں سے ایک پڑوسن میرے پاس آئی اور کچھ مردوں اور عورتوں کی غیبت کرنے لگی۔ میں بھی غیبت میں شریک ہوئی اور ہم دونوں ہنسنے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کی نماز ادا کر کے تشریف لائے تو ان کی آواز سن کر ہم دونوں خاموش ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھر کے دروازے میں کھڑے ہو کر اپنی چادر مبارک کا کونا پکڑ کر اپنی ناک پر رکھ لیا اور ارشاد فرمایا: اُف! جا تم دونوں قے کر کے پانی سے منہ صاف کرو! میں نے قے کی تو منہ سے بہت سا گوشت نکلا۔ اسی طرح دوسری عورت نے بھی گوشت کی قے کی۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گوشت نکلنے کی وجہ پوچھی تو فرمایا: یہ گوشت اُس شخص کا ہے جس کی تم نے غیبت کی ہے۔

(تفسیر رد منثور ج ۷ ص ۵۷۲)

### عورتیں دوزخ میں زیادہ ہوں گی:

کے تیس حروف کی نسبت سے عورتوں میں کی جانے والی غیبتوں کی ۲۳ مثالیں! اس حدیث پاک کو اسلامی بہنیں بار بار سنیں اور عبرت سے سر نہ ہیں! افسوس صد کروڑ افسوس جب یہ مل کر بیٹھتی ہیں تو عموماً غیر موجود اسلامی بہن کی خیر نہیں رہتی، ان کی آپس میں غیبت کی ۲۳ مثالیں کچھ اس طرح ہیں۔

- (۱) وہ طلاقن (یعنی طلاڑی) ہے، (۲) اُس کی سواگزی زبان ہے، (۳) اپنے میاں کو کبھی سکھ کا سانس نہیں لینے دیا، (۴) اپنے میاں کے سامنے بہت زبان چلاتی ہے، (۵) ہاں بھی! پھر میاں کے ہاتھوں پٹی بھی ہے، (۶) جی! جی پھر بھی اس کی ناک کہاں ہے، (۷) لگتا ہے طلاق لے گی تب سیدھی بیٹھے گی، (۸) اُس نے اپنی



بہو کے ناک میں دم کر رکھا ہے، (۹) بہو سے نوکرانی کی طرح کام کرواتی ہے، (۱۰) ارے بھئی! بہو کو اپنے ہاتھ سے مارتی ہے، (۱۱) بہو کو روٹی کہاں دیتی ہے، (۱۲) بہو بے چاری بیمار ہے تب بھی آرام نہیں کرنے دیتی، (۱۳) پڑوسیوں سے لڑتی رہتی ہے، (۱۴) چڑچڑی بہت ہے، (۱۵) میاں کے ہاتھ میں دو پیسے آگئے ہیں تو مزاج آسمان پر پہنچ گیا ہے، (۱۶) بچوں پر چینتی بہت ہے، (۱۷) ایسی کنجوسی ہے کہ چمڑی جائے مگر دمڑی نہ جائے، (۱۸) خالی غریب بنتی ہے کافی سونا دبا رکھا ہے، (۱۹) پچی بہت شریف ہے مگر اس کی ماں کی وجہ سے بے چاری کی منگنی ٹوٹی ہے، (۲۰) عمر کافی ہوگئی ہے مگر اس کو کہاں کوئی لیتا ہے، (۲۱) بیٹی جوان ہوگئی ہے مگر گھر میں نہیں بٹھاتی، (۲۲) دودو بیٹیوں کی شادی کی مگر پڑوس میں کسی کو جھوٹے منہ بھی دعوت نہ دی، (۲۳) وہ تو سسرال میں جھگڑ کر کہہ سکے آ بیٹھی ہے۔

شہنشاہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو گیا:

اسلامی بہنو! غیبت سے سچی توبہ کیجئے اور زبان کی حفاظت کی ترکیب بنائیے! اس پر استقامت پانے کے لئے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہئے، دعوت اسلامی کا مدنی کام بھی کرتی رہئے اور دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کی مسافرہ بننے کی سعادت بھی حاصل فرماتی رہئے۔

(۱) اگر کوئی پوچھے کہ مدنی قافلوں میں کیا ملتا ہے؟ تو میں کہوں گا کہ مدنی قافلوں میں کیا نہیں ملتا! اس مدنی بہار کو ملاحظہ فرمائیے اور عشق رسول سے لبریز دل کا فیصلہ مدنی بہار کے اختتام پر دیئے ہوئے شعر پر سبحان اللہ کہہ کر مہر تصدیق لگا کر کیجئے۔ چنانچہ حیدرآباد کی ایک اسلامی بہن کا بیان کچھ یوں ہے کہ ہمارے علاقے میں دعوت اسلامی کی اسلامی بہنوں کا ایک مدنی قافلہ تشریف لایا۔ دوسرے دن علاقائی

دورہ برائے نیکی کی دعوت کے بعد ہونے والے سنتوں بھرے بیان میں مجھے بھی شرکت کی سعادت ملی بیان کے بعد جب صلوٰۃ و سلام کے یہ اشعار پڑھے گئے۔ اے شہنشاہ مدینہ الصلوٰۃ والسلام تو الحمد للہ عزوجل میں نے جاگتی آنکھوں سے دیکھا کہ شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھولوں کا ہار پہنے وہاں تشریف لے آئے ہیں۔ اپنے غم خوار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ کر میں خود پر قابو نہ رکھ سکی اور میری آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ پھر وہ ایمان افروز منظر میری نگاہوں سے اوجھل ہو گیا یہاں تک کہ اجتماع اختتام کو پہنچا۔

مل گئے وہ تو پھر کی کیا ہے

دونوں عالم کو پالیا ہم نے

تم نے ابھی ابھی گوشت کھایا ہے:

ایک بار سلطان دو جہاں، رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مکان عالیشان میں تشریف فرما تھے جبکہ اصحاب صفہ مسجد میں تھے اور حضرت سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ انہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سنارہے تھے۔ اتنے میں رسول اللہ عزوجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گوشت حاضر کیا گیا۔ اصحاب صفہ حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ جاؤ۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر عرض کرو کہ ہم نے کئی دنوں سے گوشت نہیں کھایا تا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کچھ گوشت عنایت فرمادیں۔ جب حضرت سیدنا زید رضی اللہ عنہ وہاں سے چلے گئے تو یہ حضرت آپس میں کہنے لگے۔ حضرت سیدنا زید رضی اللہ عنہ بھی اسی طرح سرکار کائنات سے ملاقات کرتے ہیں جس طرح ہم کرتے ہیں پھر یہ کیسے ہمیں احادیث مبارکہ سناتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے

اور اصحاب صفہ کی درخواست پیش کی تو غیب دان آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جاؤ ان سے کہو کہ تم نے ابھی ابھی گوشت کھایا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے واپس آ کر انہیں بتایا تو وہ حضرات قسم کھا کر کہنے لگے کہ ہم نے تو کئی دنوں سے گوشت نہیں کھایا۔ پھر حضرت سیدنا زید رضی اللہ عنہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور دوبارہ عرض کی تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ انہوں نے ابھی ابھی گوشت کھایا ہے وہ واپس ہوئے اور اصحاب صفہ کو یہی جواب بتا دیا۔ اب کی بار وہ سب سرکار عالی وقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہر میں حاضر ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تم نے ابھی ابھی اپنے بھائی کا گوشت کھایا ہے اور اس کا اثر تمہارے دانتوں میں موجود ہے تھوک کر دیکھ لو گوشت کی سرخی کو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تو وہاں خون ہی خون تھا۔ سب نے توبہ کی اپنی بات سے رجوع کیا اور حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معافی مانگی۔

(تنبیہ الغافلین ص ۸۶)

### مردار خور جہنمی:

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرور کائنات، شاہ موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات جہنم میں ایسے لوگ دیکھے جو مردار کھا رہے تھے۔ استفسار فرمایا (یعنی پوچھا) اے جبرائیل! یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی یہ وہ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے (یعنی غیبت کرتے) تھے اور ایک شخص دیکھا جس کا رنگ سرخ اور آنکھیں انتہائی نیلی تھیں تو چھا! اے جبرائیل! یہ کون ہے؟ عرض کی یہ حضرت صالح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اونٹنی کی کوچیں (یعنی ٹانگیں) کاٹنے والا ہے۔

(مسند امام احمد بن حنبل ج ۱ ص ۵۵۳ حدیث ۲۳۲۲)

## مردار کا گوشت کھانا آسان نہیں:

میٹھی میٹھی اسلامی بہنو!

بظاہر غیبت کرنا بہت ہی آسان لگتا ہے مگر یاد رکھئے! جہنم میں مردار کا گوشت کھانا کوئی آسان بات نہیں، آج زندگی میں بکرے کا تازہ کچھ گوشت کوئی نہیں کھا سکتا، بلکہ اگر پکانے میں کسر رہ جاتی ہے، نمک، مصالحہ کم ہوتا ہے یا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو بسا اوقات کھانے کو جی نہیں کرتا تو ذرا تصور کیجئے کہ کچا گوشت اور وہ بھی ذبح شدہ نہیں مردار، پھر حلال حیوان کا نہیں مرے ہوئے انسان کا۔ ایسا گوشت بھلا کون کھا سکتا ہے۔ مزید اس روایت میں جس گہرے سرخ اور نیلے رنگ کے آدمی کا ذکر ہے۔ وہ قوم شمود کا سب سے پرلے درجے شری اور خبیث النفس شخص قد ار بن سالف تھا جس نے حضرت سیدنا صالح علیہ السلام کی مقدس اونٹنی کی مبارک ٹانگیں کاٹی تھیں۔

مجھے غیبتوں سے بچا یا الہی عزوجل  
گناہوں کی عادت چھڑا یا الہی عزوجل  
پئے سرشدی دے معافی خدایا عزوجل  
دوزخ میں مجھ کو جلا یا الہی عزوجل

## جہنمی بندر و خنزیر:

غیبت کی تباہ کاری تو دیکھئے کہ مشہور ولی اللہ حضرت سیدنا حاتم امم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم فرماتے ہیں ہمیں یہ بات پہنچی ہے کہ غیبت کرنے والا جہنم میں بندر کی شکل میں بدل جائے گا جھوٹا دوزخ میں۔ کتے کی شکل میں بدل جائے گا اور حاسد جہنم میں سور کی شکل میں بدل جائے گا۔

(تنبیہ المفترین ص ۱۹۴)

## چار نصیحتیں:

دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۳۴۴ صفحات پر مشتمل کتاب ”منہاج العابدین“ صفحہ ۱۶۳ تا ۱۶۴ پر ہے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم ارشاد فرماتے ہیں۔ میں کوہ لبنان میں کئی اولیائے کرام رحمہم اللہ السلام کی محبت میں وہاں میں سے ہر ایک نے مجھے یہی وصیت کی کہ جب لوگوں میں جاؤ تو انہیں ان چار باتوں کی نصیحت کرنا۔

(۱) جو پیٹ بھر کر کھائے گا اُسے عبادت کی لذت نصیب نہیں ہوگی،

(۲) جو زیادہ سوئے گا اس کی عمر میں برکت نہ ہوگی،

(۳) جو صرف لوگوں کی خوشنودی چاہے گا وہ رضائے الہی عزوجل سے مایوس

ہو جائے گا،

(۴) جو غیبت اور فضول گوئی زیادہ کرے گا وہ دین اسلام پر نہیں مرے گا۔

(منہاج العابدین (عربی) ص ۹۸)

## غیبت ایمان کے لئے نقصان دہ ہے:

محبوب رب العباد عزوجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: غیبت اور چغلی ایمان کو اس طرح کاٹ دیتی ہیں جس طرح چرواہا درخت کو کاٹ دیتا ہے۔

(الترغیب والترہیب ج ۳ ص ۳۳۲ حدیث ۲۸)

## کفر پر مرنے والے کے عذاب قبر کی کیفیت:

میٹھی میٹھی اسلامی بہنو!

معلوم ہوا غیبت سے معاذ اللہ عزوجل ایمان ضائع ہو جانے کا خوف ہے۔ آہ! جس کا ایمان برباد ہو گیا خدا کی قسم وہ کہیں کا نہ رہے گا، جب کفر پر مرنے والا بد نصیب

آدمی قبر میں پہنچے گا تو منکر نکیر کے سوالات کے درست جوابات نہ دے سکے گا۔ اور پھر خوفناک عذابات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ چنانچہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۱۲۵۰ صفحات پر مشتمل کتاب بہار شریعت جلد اول صفحہ ۱۱۰ تا ۱۱۱ پر صدر الشریعہ، بدر الطریقہ حضرت علامہ مولینا مفتی محمد احمد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے۔ اس کے لئے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ اس کی گرمی اور لپٹ اس کو پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لئے دو فرشتے مقرر ہوں گے۔ جو اندھے اور بہرے ہوں گے ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا! کہ پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے، اُس ہتھوڑے سے اُس کو مارتیں رہے گے۔ نیز سانپ اور بچھو سے عذاب پہنچاتے رہیں گے۔ نیز اعمال اپنے مناسب شکل پر متشکل ہو کر کتایا بھیڑیا یا اور شکل کے بن کر اُس کو ایذا پہنچائیں گے۔

جہنم ہمیشہ رہنے کی لرزہ خیز کیفیت:

قیامت کے میدان میں بھی کافر پر طرح طرح کے عذابات کا سلسلہ ہوگا۔ اور بالآخر منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ جہاں اُسے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ صدر الشریعہ، حضرت علامہ مولینا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ مختلف دل ہلا دینے والے عذابوں کا تذکرہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ پھر آخر میں کفار کے لئے یہ ہوگا کہ اس قدر برابر آگ کے صندوق میں اُسے بند کریں گے۔ پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا قفل (یعنی آگ کا تالا) لگایا جائے گا۔ پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھا جائے گا۔ اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا قفل لگایا جائے گا۔ پھر اسی طرح اُس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا قفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ

اس کے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا۔ اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے اور ہمیشہ اس کے لئے عذاب ہے جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہ رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لئے اس میں رہنا ہے اس وقت جنت و دوزخ کیدر میان موت کو مینڈھے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے پھر منادی (پکارنے والا) جنت والوں کو پکارے گا۔ وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو! پھر جہنمیوں کو پکارے گا وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے۔ پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں یہ موت ہے وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا۔ اے اہل جنت! ہمیشگی ہے اب مرنا نہیں اور اے اہل نار! ہمیشگی ہے اب موت نہیں، اُس وقت اُن (یعنی اہل جنت) کے لئے خوشی پر خوشی ہے اور ان (یعنی دوزخیوں) کے لئے غم بالائے غم۔

نَسْأَلُ اللّٰهَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدِّينِ وَالْدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

ہم اللہ عزوجل سے معافی کا سوال کرتے ہیں اور دین و دنیا اور آخرت میں عافیت مانگتے ہیں۔

(بہار شریعت جلد اول ص ۱۷۰-۱۷۱)

عطا رہے ایمان کی حفاظت کا سوالی

خالی نہیں جائے گا یہ دربار نبی سے

نقلی عبادت نہ کرنے والے سے نفرت کرنا کیسا؟

حضرت سیدنا عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ محبوب رب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی (ظاہری) مبارک حیات میں ایک صاحب کسی قوم کے پاس سے گزرے تو انہوں نے انہیں سلام کیا۔ ان لوگوں نے سلام کا جواب دیا۔ جب وہ صاحب وہاں سے تشریف لے گئے تو ان میں سے ایک شخص نے ان صاحب

کے بارے میں کہا۔ میں اللہ تعالیٰ کے لئے اس شخص سے نفرت کرتا ہوں۔ جب ان صاحب کو اس بات کی خبر پہنچی تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا عرض کیا اور فریاد کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بلا کر دریافت فرمائیے کہ مجھ سے کیوں نفرت کرتے ہیں۔ نبی اکرم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُسے بلوا کر پوچھا تو انہوں نے اقرار کیا کہ میں نے یہ بات کہی ہے۔ ارشاد فرمایا تم اس سے کیوں نفرت کرتے ہو؟ عرض کی میں ان صاحب کا پڑوسی ہوں اور میں ان کی بھلائی کا خواہاں ہوں۔ خدا عزوجل کی قسم! میں نے کبھی بھی فرض نماز کے علاوہ انہیں نفل نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جب کہ فرض نماز تو ہر نیک و بد پڑھتا ہے فریادی صاحب نے عرض کی! یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کیا انہوں نے مجھے فرض نماز میں تاخیر کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ یا میں نے وضو میں کوئی کوتاہی کی ہے۔ یا رکوع و سجود میں کوئی کمی کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے انکار کرتے ہوئے عرض کی میں نے اس میں ایسی کوئی بات نہیں دیکھی پھر اس نے مزید عرض کی اللہ عزوجل کی قسم! میں نے ان صاحب کو رمضان المبارک کے علاوہ کبھی (نفلی) روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا اس مہینے (ماہ رمضان المبارک) کا روزہ تو ہر نیک و بد رکھتا ہے یہ سن کر فریادی نے عرض کی۔ یا رسول اللہ عزوجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کیا میں نے کبھی رمضان المبارک میں روزہ چھوڑا ہے؟ یا روزے کے حق میں کوئی کمی کی ہے؟ پوچھئے پر انہوں نے عرض کی نہیں۔ پھر اس نے کہا: اللہ تعالیٰ کی قسم! میں نے نہیں دیکھا کہ ان صاحب نے زکوٰۃ کے علاوہ کسی مسکین یا سائل کو کچھ دیا ہو یا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا ہو۔ زکوٰۃ تو ہر نیک و بد ادا کرتا ہے۔ فریادی نے عرض کی: یا رسول اللہ عزوجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھئے کیا انہوں نے مجھے زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی کرتے ہوئے دیکھا ہے



یا میں نے کبھی اس میں ٹالم ٹول سے کام لیا ہے؟ دریافت کرنے پر انہوں نے عرض کی نہیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اُس نفرت کرنے والے سے فرمایا اٹھ جاؤ شاید یہ تم سے بہتر ہو۔

(مسند امام احمد ج ۹ ص ۲۱۰ حدیث ۲۳۸۶۴)

### غیبت مت کرو:

کے نو حروف کی نسبت سے مستحبات و نوافل میں غیبت کی ۹ مثالیں۔

میٹھی میٹھی اسلامی بہنو!

جس طرح فرائض و واجبات کی کوتاہی کرنے والوں کی کوتاہیوں کا بلا اجازت شرعی پیچھے سے تذکرہ غیبت ہے مستحبات و نوافل میں بھی برائی بیان کرنے کے طور پر تذکرہ کرنے کا یہی حکم ہے کیوں کہ یہ بھی ایذائے مسلم کا باعث ہے۔ مستحبات و نوافل میں سستی کرنے والوں کی غیبتوں کی ۹ مثالیں ملاحظہ ہوں۔

(۱) وہ تہجد نہیں پڑھتا، (۲) اس نے زندگی میں کبھی عاشورا کا روزہ نہیں رکھا، (۳) اشراق چاست نہیں پڑھتا، (۴) وہ اوابین کیا پڑھے گا اس کو یہ تو پوچھو کہ یہ نوافل کس وقت پڑھے جاتے ہیں، (۵) وہ تبرک کہہ کر نیاز تو کھا لیتا ہے مگر اس کے لئے چندہ کبھی نہیں دیتا، (۶) میرا سیٹھ ذرا واٹر (یعنی ٹیڑھا) ہے تین دن کے مدنی قافلے کے لئے چھٹی ہی نہیں دیتا، (۷) میں نے اُس سے کہا بھی کہ سب پڑھ رہے ہیں تم بھی صلوٰۃ التوبہ پڑھ لو مگر اس نے نہیں پڑھی، (۸) قرآن خوانی میں سب سے آخر میں پہنچتا ہے شاید اس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، (۹) وہ نعت خوانی میں تاخیر سے بلکہ نیاز کے وقت پہنچتا ہے۔

### غیبت کے انداز:

دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۲۱۳ صفحات پر مشتمل

کتاب، عیون الحکایات حصہ دوم صفحہ ۳۱۳ پر حضرت سیدنا حارث معاصی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں غیبت سے بچ! بیشک وہ ایسا عجیب شر ہے جسے انسان خود آگے بڑھ کر حاصل کرتا ہے۔ تیرا اُس چیز کے بارے میں کیا خیال ہے جو تجھے احسان فراموشی پر ابھارے تیری اتنی نیکیاں چھین کر اُن کو دے دے جن کی تو نے غیبت کی ہے۔ یہاں تک کہ وہ راضی ہو جائیں کیونکہ بروز قیامت درہم و دینار کام نہیں آئیں گے۔ بے شک! جتنا تو مسلمانوں کی عزت کو نقصان پہنچائے گا اتنی ہی مقدار میں تیرا دین تجھ سے لے لیا جائے گا۔ لہذا غیبت سے بچ غیبت کے منبع (یعنی نکلنے کی جگہ اور اس کے اسباب کو پہچان کہ تجھ پر غیبت کن کن جگہوں سے آتی ہے مزید فرماتے ہیں۔ توجہ سن! بے شک بعض جاہل و نادان اس انداز پر بھی غیبت میں مبتلا ہوتی ہیں کہ گنہگاروں پر خواہ مخواہ غصے ہوتے اور ان سے حسد اور بدگمانی کرتے ہیں پھر شیطان کے بہکاوے میں آ کر معاذ اللہ عزوجل اس غصے کو دینی غیرت کا نام دیتے اور یہ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ میں اپنی ذات کے لئے غصہ نہیں کر رہا میں تو عین کے نقصان کی وجہ سے فلاں کو برا بھلا کہتا یا ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہوں۔ یہ ایسی بُرائیاں ہیں جو کہ عقلمندوں سے پوشیدہ نہیں۔ بعض لوگ اہل علم ہونے کے باوجود شیطان کے دھوکے میں آ کر جب کسی کی بُرائی بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی نصیحت اور اصلاح کے لئے ایسا کر رہے ہیں۔ ہم تو اس کے خیر خواہ اور بھلائی چاہنے والے ہیں۔ حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا کیونکہ اگر واقعی وہ خیر (یعنی بھلائی) کے طالب ہوتے تو کبھی غیبت جیسی آفت میں نہ پڑتے اور ان کی نصیحت ان کے لئے غیبت پر معاون (مددگار) نہ ہوتی۔ بلکہ جس نے غلطی کی ہے براہِ راست اُس کو سمجھاتے یا اصلاح کا شرعی طریقہ اختیار کرتے۔ پیٹھ پیچھے غیبت کرتے پھر نا یہ کون سا اصلاح کا طریقہ ہے۔ توجہ سے سن! ایسے اوقات نیک پرہیزگار لوگ بھی حیرت کا اظہار کرنے کے

انداز میں اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کر بیٹھے ہیں۔ رہے استاد، سردار اور افسر وغیرہ تو بعض دفعہ وہ شفقت و رحمدلی کے طریقے سے غیبت کی گہری کھائی میں جا گرتے ہیں۔ مثلاً اپنے شاگردہ یا ماتحت کے بارے میں کہتے ہیں۔ افسوس! وہ فلاں فلاں غلط کام (مثلاً بُری محبت یا نشے کی نحوست) میں پڑ گیا۔ کاش بے چارہ فلاں بُرائی (مثلاً ہیروئن پینے) کا مرتکب نہ ہوتا درحقیقت وہ افسوس نہیں کر رہے ہوتے اس طرح کی باتیں کر کے اس بہانے وہ اُس کی پولیس کھول ڈالتے ہیں مگر سمجھتے یہ ہیں کہ ہم اس سے محبت اور ہمدردی کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہیں حالانکہ وہ غیبت کے گناہ میں پڑ چکے ہوتے ہیں۔ ورنہ اپنے ماتحت یا شاگردہ کا کیا خوف؟ پیچھے سے اس طرح غیبت کرنے کی بجائے براہِ راست اُس کو سمجھا کر سچی محبت کا ثبوت دے سکتے تھے۔ بعض اوقات ایک شخص کسی کی بُرائی کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے کہتا ہے میں نے اس کی بُرائی پر تم کو اس لئے اپنے گمان میں یہ اسے ہمدردی و شفقت سمجھتا ہے لیکن حقیقت میں یہ غیبت کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ رحمن عزوجل ہمیں شیطان کے خفیہ واروں سے بچائے۔ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہِ رحمت میں دعا کرتے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی غیبت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ (عیون الحکایات (عربی) ص ۸۱ ملخصاً)

افسوس مرض بڑھتا ہی جاتا ہے گناہوں کا

ہو نظر شفا عرض اے سرکارِ مدینہ ہے

### تابالغ کی غیبت:

جس طرح بچے کے ساتھ جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں اسی طرح اُس کی غیبت کی بھی ممانعت ہے۔ خواہ ایک ہی دن کا بچہ ہو بلا مصلحت شرعی اُس کی بھی بُرائی بیان نہ کی جائے۔ ماں باپ اور گھر کے دیگر افراد کے لئے لمحہ فکر یہ ہے ان کو چاہئے کہ بلا

ضرورت اپنے بچوں کو پیچھے سے (اور منہ پر بھی) ضدی شرارتی، ماں باپ کا نافرمان وغیرہ نہ کہا کریں۔

### کس بچے کی غیبت جائز ہے اور کس کی ناجائز؟

حضرت علامہ عبدالحی لکھنوی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں حضرت علامہ سیدنا ابن عابد بن شامی قدس سرہ السامی نے امام ابن حجر علیہ رحمۃ اللہ الاکبر سے نقل کیا ہے۔ جس طرح بالغ کی غیبت حرام ہے اسی طرح نابالغ اور مجنون (یعنی پاگل) کی غیبت بھی حرام ہے۔ (ردالمحتار ج ۶ ص ۶۷۶)

لیکن راقم العروف (یعنی مولینا عبدالحی صاحب) کے نزدیک تفصیل بہتر ہے۔

(۱) ایسا نابالغ بچہ جو فی الجملہ یعنی تھوڑی بہت سمجھ رکھتا ہو کہ اپنی تعریف پر خوش اور اپنی بُرائی سے ناخوش ہوتا ہو جیسا کہ معتوہ (یعنی آدھا پاگل بھی اپنی تعریف اور مذمت کی سمجھ رکھتا ہے) تو ایسے نابالغ بچے کی غیبت جائز نہیں اسی طرح نیم پاگل کی بھی ناجائز ہے۔

(۲) ایسے نا سمجھ بچے (مثلاً دودھ پیتے بچے) اور پاگل کی بھی غیبت جائز نہیں جن کا کوئی والی وارث ہے بے شک وہ بچہ یا پاگل اپنی تعریف یا بُرائی سمجھنے کی تمیز نہیں رکھتا تاہم ان کے عیب بیان کرنے سے ان کے ماں باپ وغیرہ بُرا لگے گا۔

(۳) ایسا لاوارث بچہ یا لاوارث پاگل جو اپنی تعریف و غیبت سے خوش اونا خوش ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا اُس کی غیبت جائز ہے مگر زبان کو ایسوں کی غیبت سے بھی روکنا ہی بہتر ہے (کیوں کہ بعض فقہائے کرام رحمہم اللہ سلام نے مطلقاً یعنی ایک دن کے بچے اور مکمل پاگل کی غیبت کو بھی حرام قرار دیا ہے)۔

(ماخوذ از: غیبت کی ۷ مثالیں)

## چھوٹے بچے کی غیبت کی ۷ مثالیں:

بہر حال پاگل ہو یا سمجھدار، بالغ ہو یا نابالغ، بوڑھا ہو یا دودھ پیتا بچہ ہر ایک کی غیبت سے بچنا چاہئے۔ بچوں کی غیبتوں کی بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں۔ کیوں کہ ان کی غیبت کے گناہ ہونے کی طرف بہت کم لوگوں کی توجہ ہے، جو منہ میں آیا بولدیا جاتا ہے۔ یہاں نمونتا صرف ۷ مثالیں پیش کی جاتی ہیں۔ جو کئی صورتوں میں غیبت میں داخل ہو سکتی ہیں۔

(۱) بستر گندا کر دیتا ہے، (۲) اتنا بڑا ہو گیا مگر تمیز نہیں آئی، (۳) اس کو جھوٹ کی عادت پڑ گئی ہے، (۴) چھوٹی بہن کو نوجتا ہے، (۵) چھوٹے منے کو گود میں لو تو بڑا منا حسد کرتا ہے، (۶) دونوں منے ایک دوسرے کی چغلیاں کھاتے رہتے ہیں، (۷) چھوٹا پڑھائی میں بہت ذہین ہے مگر بڑا ۸ سال کا ہوا ابھی تک کند ذہن ہے، (۸) ماں کو بہت بہت تنگ کرتا ہے، (۹) مٹی رات کو بہت چیختی ہے نہ سوتی ہے نہ کسی کو سونے دیتی ہے، (۱۰) منے نے غصے میں لات مار کر پانی کا کولر الٹ دیا، (۱۱) بہت چڑچڑا ہوا گیا ہے، (۱۲) بات بات پر روٹھ جاتا ہے، (۱۳) روزانہ کھانے کے وقت جھگڑتا ہے، (۱۴) پڑھنے میں کمزور ہے، (۱۵) بڑی بچی نے چھوٹی والی کو بال کھینچ کر گرا دیا، (۱۶) بس لڑتا ہی رہتا ہے، (۱۷) صبح اٹھاٹھا کر تھک جاتے ہیں مگر جواب نہیں دیتا وغیرہ۔

## بچوں کو غیبت مت کرنے دیجئے:

عموما بچے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور دیگر گھر والوں کی اپنی تو تلی زبان میں یا اشاروں سے غیبتیں کرتے رہتے ہیں اور گھر والے ہنس ہنس کر داد دیتے ہیں، کبھی کسی کو لنگڑا تا دیکھ لیتے ہیں تو خود بھی اس کی نقل اتارتے ہوئے لنگڑا کر چلتے ہیں اور

گھر والوں سے داد وصول کرتے ہیں حالانکہ کسی معین معذور کی اس طرح کی نقالی بھی غیبت ہے۔ باپ جب کامکاج سے شام کو لوٹتا ہے تو عام طور پر بچہ یا بچی دن بھر کی کارکردگی سناتے ہیں۔ اس سے لطف تو بہت آتا ہے مگر اُس کارکردگی میں غیبتوں کی بھی اچھی خاصی بھرمار ہوتی ہے۔ بچوں کو تو گناہ نہیں ہوتا مگر اولاد کی صحیح تربیت کرنا چونکہ والدین کی ذمہ داری ہے اور یوں بچوں کی زبانی غیبتیں سننے سے اولاد کی غلط تربیت ہوتی ہے لہذا اولاد کی غلط تربیت کا وبال ماں باپ کے سر آ جاتا ہے، یقیناً بچوں کے غیبت کرنے پر ہنس پڑنے سے اُن کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور وہ گویا اس طرح غیبت کی تربیت حاصل کرتے رہتے اور بے چارے بالغ ہونے کے بعد اکثر غیبت کے گناہ میں پکے ہو چکے ہوتے ہیں۔ لہذا جب بھی بچہ غیبت کرے! چغلی کھائے یا جھوٹ بولے تو اُس کی تیلی زبان سے محفوظ یعنی لطف اندوز ہوتے ہوئے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہنسامت کیجئے! ایسے موقع پر ایک دم سنجیدہ ہو جائیے اُس بات پر اُس کی حوصلہ شکنی کیجئے اور مناسب انداز میں اُس کو سمجھائیے جب بار بار اُس کو سمجھاتے رہیں گے۔ اور اس کو گھر کا کوئی بھی فرد غیبت وغیرہ پر اُسے داد نہیں دیگا تو ان شاء اللہ عزوجل خود بھی غیبت وغیرہ سننے کی آفتوں گناہوں سے بچے رہیں گے اور مٹا بھی بڑا ہو کر ان شاء اللہ عزوجل نیک بندہ بنے گا اور غیبت وغیرہ سے نفرت رکھے گا۔

### بچوں کی فریاد رسی کیجئے:

ہاں اگر مٹا محض بولنے کی خاطر نہیں بول رہا بلکہ آپ سے فریاد کر کے انصاف طلب کر رہا ہے تو بے شک اُس کی فریاد سنئے اور امداد کیجئے مثلاً مٹا کہنے لگا کہ مٹی نے میرا کھلونا چھین کر کہیں چھپا دیا ہے تو یہ غیبت نہیں۔ کیوں کہ مٹا ماں باپ سے فریاد نہیں کریگا تو کس سے کرے گا۔ لہذا آپ مٹی سے اُس کا کھلونا دلا دیجئے۔ اب اگر کھلونا مل جانے کے بعد مٹا اسی بات کو مٹی کی غیر موجودگی میں مثلاً اپنی امی سے ذکر

کرتا ہے۔ کہنتی نے میرا کھلونا چھین کر چھپا دیا تھا تو ابونے مننی کو ڈانٹ پلائی اور مجھے میرا کھلونا واپس دلایا تو یہ بہر حال غیبت ہے اگرچہ بچوں کو اس کا گناہ نہ ہو۔ عموماً بچے جن لوگوں سے مانوس ہوتے ہیں ان کو فریاد کرتے رہتے ہیں تو اگر کسی سے مذکورہ مثال کی مانند فریاد

کی اور وہ فریاد سی یعنی امداد نہیں کر سکتا۔ تو اب غیبت پر مبنی فریاد نہ سنے بلکہ حتی الامکان اچھے انداز میں بچے کو ٹال دے۔

بچوں سے صادر ہونے والی غیبت کی ۲۲ مثالیں:

- (۱) میرا کھلونا توڑ دیا ہے، (۲) میری ٹانی چھین کر کھالی، (۳) میری آنسکریم گرا دی، (۴) مجھے پیچھے سے ”ہاؤ“ کر کے ڈرا دیتا ہے شریر کہیں کا، (۵) مجھ پر بلی کا بچہ ڈال دیا، (۶) مجھے گندا بچہ کہہ کر چڑاتا ہے، (۷) میری نوٹ بک پھاڑ دی، (۸) مجھے دھکا دے کر گرا دیا، (۹) میرے کپڑے گندے کر دیئے، (۱۰) اپنی بابا سائیکل میرے پاؤں پر چڑھا دی، (۱۱) اپنے کپڑے گندے کر دیتا ہے، (۱۲) وہ گندا بچہ ہے، (۱۳) امی کے پاس میری چغلیاں لگاتا ہے، (۱۴) جھوٹ بول کر استاد سے مجھے مار کھلائی تھی، (۱۵) امی مدرسے کا بولتی ہے تو روتا ہے، (۱۶) منی امی کو مارتی ہے، (۱۷) استاد نے اُس کو کل ”مرغا“ بنایا تھا، (۱۸) اتنا بڑا ہو گیا مگر نیپل چوستا ہے، (۱۹) ہر وقت اُس کی ناک بہتی رہتی ہے، (۲۰) روز روز پنسل گما دیتا ہے، (۲۱) اُس دن ابو کی جیب سے پیسے چڑالئے تھے، (۲۲) اُس دن امی نے اُس کی خوب پٹائی لگائی تھی۔

بچوں کو جھوٹے بہلاوے مت دیجئے:

دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ۳۱۲ صفحات پر مشتمل

کتاب بہار شریعت حصہ ۱۶ صفحہ ۱۵۹ تا ۱۶۰ پر ہے ابو داؤد و بیہقی نے عبد اللہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے مکان میں تشریف فرما تھے۔ میری ماں نے مجھے بلایا کہ آؤ تمہیں دوں گی! حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا چیز دینے کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا کھجور دوں گی۔ ارشاد فرمایا اگر تو کچھ نہیں دیتی تو یہ تیرے ذمے جھوٹ لکھا جاتا۔

(سنن ابو داؤد ج ۲ ص ۳۸۷ حدیث ۴۹۹۱)

دیکھا آپ نے! بچوں کے ساتھ بھی جھوٹ بولنے کیا جازت نہیں افسوس آج کل بچوں کو بہلانے کے لئے اکثر لوگ جھوٹ موٹ اس طرح کہہ دیا کرتے ہیں کہ تمہارے لئے کھلونے لائیں گے ہوائی جہاز لا کر دیں گے وغیرہ۔ اسی طرح ڈرانے کے لئے اکثر مائیں بھی جھوٹ بول دیا کرتی ہیں کہ وہ بلی آئی، کتا آیا وغیرہ جن لوگوں نے ایسا کیا ان کو چاہئے کہ سچی توبہ کریں۔

غیبت کی تباہ کاریاں ایک نظر میں:

بہت سارے پرہیزگار نظر آنے والے لوگ بھی بلا تکلف غیبت سنتے، سناتے، مسکراتی اور تائید میں سر ہلاتے نظر آتے ہیں چونکہ غیبت بہت زیادہ عام ہے اس لئے عموماً کسی کی اس طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ غیبت کرنے والا نیک پرہیزگار نہیں بلکہ فاسق و گنہگار اور عذاب نار کا حقدار ہوتا ہے قرآن و حدیث اور اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ لمبین سے منتخب کردہ غیبت کی ۲۰ تباہ کاریوں پر ایک سرسری نظر ڈالئے، شاید خائفین کے بدن میں جھر جھری کی لہر دوڑ جائے! جگر تھام کر ملاحظہ فرمائیے:

- (۱) غیبت ایمان کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے، (۲) غیبت بُرے خاتمے کا سبب ہے،
- (۳) بکثرت غیبت کرنے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی، (۴) غیبت سے نماز روزے کی نورانیت چلی جاتی ہے، (۵) غیبت سے نیکیاں برباد ہوتی ہیں،



(۶) غیبت نیکیاں جلا دیتی ہے، (۷) غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے تب بھی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، الغرض غیبت گناہ کبیرہ، قطعی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، (۸) غیبت زنا سے سخت تر ہے، (۹) مسلمان کی غیبت کرنے والا سود سے بھی بڑے گناہ میں گرفتار ہے عیب کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سارا سمندر بدبودار ہو جائے، (۱۰) غیبت کرنے والے کو جہنم میں مردار کھانا پڑے گا، (۱۱) غیبت مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، (۱۲) غیبت کرنے والا عذاب قبر میں گرفتار ہوگا، (۱۳) غیبت کرنے والا تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہرے اور سینے کو بار بار چھیل رہا تھا، (۱۴) غیبت کرنے والے کو اُس کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کاٹ کر کھلایا جا رہا تھا، (۱۵) غیبت کرنے والا قیامت میں کتے کی شکل میں اٹھے گا، (۱۶) غیبت کرنے والا جہنم کا بندر ہوگا، (۱۷) غیبت کرنے والے کو دوزخ میں خود اپنا ہی گوشت کھانا پڑے گا، (۱۸) غیبت کرنے والا جہنم کے کھولتے ہوئے پانی اور آگ کے درمیان موت مانگتا دوڑ رہا ہوگا اور اس سے جہنمی بھی بیزار ہوں گے، (۱۹) غیبت کرنے والا سب سے پہلے جہنم میں جائے گا۔

### غیبت کے خلاف اعلان جنگ:

آہ! غیبت نے امت کی اکثریت کو نہایت ہی شدت کے ساتھ اپنی حراست میں لیا ہوا ہے، شیطان غیبت کے ذریعے بھرپور طریقے پر لوگوں کو جہنم کی طرف دھکیلتا چلا جا رہا ہے۔ ہوش میں آئیے! غیبت کے خلاف اعلان جنگ کر کے ایک دم مورچے پر ڈٹ جائیے جس جس نے اب تک جس قدر غیبتیں کی ہوں۔ اُن کی توبہ اور معافی تلافی میں لگ جائے، عزم مصمم کیجئے کہ نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے۔ افسوس صد کروڑ افسوس! غیبت ہمارے مدنی ماحول کو دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے لہذا دعوت اسلامی کے تمام ذمے دار اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں کی خدمتوں میں میری ہاتھ

جوڑ کر مدنی التجاء ہے کہ غیبت کے خلاف اعلان جنگ کے ضمن میں غیبتوں کے دروازوں پر تالے لگاتے چلے جائیے، اب تک جو بھی آپ کی ذمہ داری کے دوران مدنی ماحول سے دور ہوئے، ان کے معاملے میں ۱۲ بار غور کر لیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہوں نے آپ کی غیبتیں کی ہوں اور آپ کو غصہ آ جانے کی وجہ سے یا خود آپ نے ان کی غیبتیں کی ہوں! اس سبب سے وہ دلبرداشتہ ہو کر گھر جا بیٹھے ہوں اگر ایسا ہے تو اچھی اچھی نیتیں کر کے برائے رضائے رب اکبر عزوجل فوراً سے پیشتر مگر بلا کر نہیں۔ ان کے پاس خود جا کر ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر اے کاش! رورو کر معافی تلافی کی ترکیب بنا کر انہیں منا کر راضی کر کے گلے لگا لیجئے بلکہ ہر چھڑے ہوئے کو تلاش کر کے ان کے پاس بھی خود جا کر ہاتھ باندھ کر منت و سماجت کر کے انہیں دوبارہ مدنی ماحول میں لے آئیے اور انفرادی کوشش کے ذریعے ان سمجھوں کو پھر سے سنتوں کی خدمتوں میں مصروف کر دیجئے۔

اے خاصہ خاصانِ رسل وقت دعا ہے!  
 امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے!  
 چھوٹوں میں اطاعت ہے نہ شفقت ہے بڑوں میں!  
 پیلوں میں محبت ہے نہ یاروں میں وفا ہے!  
 جو کچھ ہیں وہ سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت!  
 شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت کا گلہ ہے!  
 دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت!  
 سچ ہے کہ بُرے کام کا انجام بُرا ہے!  
 ہم نیک ہیں یا بد پھر آخر ہیں تمہارے!  
 نسبت بہت اچھی ہے اگر حال بُرا ہے!

تدبیر سنبھلنے کی ہمارے نہیں کوئی!

ہاں ایک دعا تیری کہ مقبول خدا عزوجل ہے!

الحمد للہ! تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، آپ سے بھی اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی مدنی التجاء ہے، عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی قافلے بھی سنتوں کی تربیت کے لئے قریہ قریہ، شہر شہر، ملک بملک سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر پر آمادہ کیجئے اور انہیں تیار کر کے مدنی مرکز بھیج دیجئے۔ آپ کے شفقت فرمانے سے اگر آپ کا کوئی عزیز مدنی قافلے کا مسافر بن گیا تو اُس کے ساتھ ساتھ آپ کا سینہ بھی مدینہ بن جائے گا۔

خوش نصیب اسلامی بہنیں فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات پر عمل کرتی ہیں، آپ بھی ۶۳ مدنی انعامات کا کارڈ حاصل کیجئے اور روزانہ اُسے پُر کرنے کا معمول بنائیے اور ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنی حلقہ ذمہ دار اسلامی بہن کو جمع کروا دیجئے۔ ان شاء اللہ عزوجل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لئے کڑھنے کا ذہن بنے گا۔

ہر اسلامی بہن اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لئے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے۔ ان شاء اللہ عزوجل اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینِ اسلام کی سر بلندی کے لئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دعوتِ اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرمائے۔

## شريت ميں عورت كے پردہ كى اہميت و فضيلت

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى الْإِثْمَانِ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى الْإِثْمَانِ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

### ﴿فضيلت دورود پاك﴾

حضرت سيدنا ابو ہريره رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا، احمد مجتبیٰ،  
سيدنا محمد مصطفیٰ علیہ التحیۃ و الثناء نے فرمایا: جب میرا کوئی اُمتی مجھ پر درود و سلام بھیجتا  
ہے تو اللہ (عز و جل) میری قوت گویائی لوٹا دیتا ہے اور میں اُس کا جواب دیتا ہوں۔

(سنن ابی داؤد، کتاب المناسک، باب زیارة القبور، رقم ۲۰۳۱، جلد ۲، صفحہ ۳۱۵)

تاجدارِ حرم اے شہنشاہِ دین صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ ہر دم کروڑوں دُرود و سلام  
ہونگا کرم مجھ پہ سلطانِ دین صلی اللہ علیہ وسلم تم پہ ہر دم کروڑوں دُرود و سلام  
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عورت کا لفظی معنی:

عورت کے لغوی معنی ہیں پھپانے کی چیز! اللہ کے محبوب و انائے غیوب صلی اللہ  
علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالیشان ہے کہ عورت، عورت (یعنی چھپانے کی چیز) ہے جب

وہ نکلتی ہے تو اُسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے (یعنی اُسے دیکھنا شیطانی کام ہے)۔

(ترمذی ج ۲ ص ۳۹۲ حدیث ۱۱۷۶)

کیا آج کل بھی پردہ ضروری ہے:

جی ہاں چند باتیں اگر پیش نظر رہیں تو ان شاء اللہ عزوجل پردے کے مسائل سمجھنے میں آسانی رہے گی پارہ ۲۲ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر ۳۳ میں پردے کا حکم دیتے ہوئے پروردگار عزوجل کا ارشاد باری ہے۔

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

ترجمہ کنز الایمان: اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی۔

خليفة اعلیٰ حضرت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الہادی اسکے تحت فرماتے ہیں۔ اگلی جاہلیت سے مراد قبل السلام کا زمانہ ہے، اُس زمانہ میں ۶ برتیں اتراتی نکلتی تھیں، اپنی زینت و محاسن (یعنی بناؤ سنگھار اور جسم کی خوبیاں مثلاً سینے کے ابھار و ڈیرہ) کا اظہار کرتی تھیں کہ غیر مرد دیکھیں۔ لباس ایسے پہنتی تھیں، جن سے جسم کے اعضاء اچھی طرح نہ ڈھکیں (خزائن العرفان ص ۶۷۳) افسوس! موجودہ دور میں بھی زمانہ جاہلیت والی بے پردگی پائی جا رہی ہے یقیناً جیسے اُس زمانہ میں پردہ ضروری تھا ویسا ہی اب بھی ہے۔

زمانہ جاہلیت کی مدت کتنی؟

مفسر شیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الکنان فرماتے ہیں کاش اس آیت سے موجودہ مسلم عورتیں عبرت پکڑیں۔ یہ عورتیں اُن اُمہات المؤمنین رضی

اللہ تعالیٰ عنہن سے بڑھ کر نہیں۔ صاحب روح البیاء علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام و طوفان سیدنا نوح علی نبینا وعلی الصلوٰۃ والسلام کے درمیان کا زمانہ جاہلیت اولیٰ کہلاتا ہے۔ جو بارہ سو بہتر (۱۲۷۲) سال ہے اور عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیدرمیان کا زمانہ جاہلیت آخری ہے جو تقریباً چھ سو (۶۰۰) برس ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم عزوجل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

(نور العرفان ص ۶۷۳ پیر بھائی کپنی مرکز الاولیاء لاہور، روح البیاء ج ۷ ص ۱۷۰)

## بے پردہ عورت کی دعاء کیسی قبول ہو:

پارہ ۱۸۰ سورہ نور کی آیت نمبر ۳۱ کے اس حصے کی تفسیر میں ملاحظہ ہو چنانچہ ارشاد الہی ہوتا ہے۔

وَلَا يَضْرِبْنَ بَارِجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ط

ترجمہ کنز الایمان: اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے اُن کا چھپا ہوا سنگار۔

پیاری اسلامی بہنو! بیان کردہ آیت مبارکہ کے تحت خلیفہ اعلیٰ حضرت صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ الہادی فرماتے ہیں۔ یعنی عورتیں گھر کے اندر چلنے پھرنے میں بھی پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سنی جائے۔ مسئلہ: اسی لئے چاہئے کہ عورتیں باجے دار جھانجھن نہ پہنیں۔ حدیث شریف میں ہے ”اللہ تعالیٰ اُس قوم کی دعا نہیں قبول فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہوں“ (تفسیرات احمدیہ ص ۶۵)

اس سے سمجھا چاہئے کہ جب زیور کی آواز عدم قبول دعا (یعنی دعا قبول نہ ہونے) کا سبب ہے تو خاص عورت کی (اپنی) آواز (کا بلا اجازت شرعی غیر مردوں تک پہنچانا اور اس کی پردگی کیسی موجب غضب الہی (عزوجل) ہوگی۔ پردے کی

طرف سے بے پروائی تباہی کا سبب ہے۔

(خزان العرفان ص ۵۶۶)

### شرعی پردہ کسے کہتے ہیں:

شرعی پردہ سے مراد یہ ہے کہ عورت کے سر سے لیکر پاؤں کے گٹوں کے نیچے تک جسم کا کوئی حصہ بھی مثلاً سر کے بال یا بازو یا کلائی یا گلا یا پیٹ یا پنڈلی وغیرہ اجنبی مرد (یعنی جس سے شادی ہمیشہ کے لئے حرام نہ ہو) پر بلا اجازت شرعی ظاہر نہ ہو بلکہ اگر لباس ایسا مہین یعنی پتلا ہے جس سے بدن کی رنگ جھلکے یا ایسا چست ہے کہ عضو کی کیفیت (یعنی شکل و صورت یا ابھار وغیرہ) ظاہر ہو یا دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ بالوں کی سیاہی چمکے یہ بھی بے پردگی ہے۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہلسنت، ولی نعمت، عظیم البرکت عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت حضرت علامہ مولینا الحاج الحافظ القاری الشاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں۔ جو وضع لباس (یعنی لباس کی بناوٹ) و طریقہ کوشش (یعنی پہننے کا انداز) اب عورت میں رائج ہے۔ کہ کپڑے باریک جن میں سے بدن چمکتا ہے یا سر کے بالوں یا گلے یا بازو یا کلائی یا پیٹ یا پنڈلی کا کوئی حصہ کھلا ہو یوں تو خاص محارم کے جن سے نکاح ہمیشہ کو حرام ہے کسی کے سامنے ہونا سخت حرام قطعی ہے۔

(فتاویٰ رضویہ ج ۲۲ ص ۲۱۷)

### دامن کا دھاگہ

پیاری اسلامی بہنو! شرعی پردہ کرنے والیوں کی بڑی شانیں ہوتی ہیں چنانچہ آخبار الاخیار میں ہے، سخت قحط سالی ہوئی، لوگوں کی بہت دعاؤں کے باوجود بارش نہ ہوئی۔ حضرت سیدنا بابا نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی امی جان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا کے کپڑے کا ایک دھاگہ ہاتھ میں لے کر عرض کیا: یا اللہ عزوجل! یہ اس

خاتون کے دامن کا دھاگہ ہے جس (خاتون) پر کبھی کسی نامحرم کی نظر نہ پڑھی۔ میرے مولیٰ عزوجل! اسی کے صدقے رحمتہ کی برکھا برسا دے! ابھی دعاء ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ رحمتہ کے بادل گھر گئے اور رم جھم رم جھم بارش شروع ہو گئی (اخبار الاخیار ص ۲۹۴) اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔

اٰمِیْنُ بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْنِ

صَلِّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنِ

یہی مائیں تھیں جن کی گود میں اسلام پلتا تھا

حیا سے ان کی انسان نور کے سانچے میں ڈھلتا تھا

سبحان اللہ! بزرگوں کے جسم سے نسبت رکھنے والے لباس کے دھاگے کی جب

یہ شان ہے کہ ہاتھ میں رکھیں تو ان کی برکت اور وسیلے سے دعا قبول ہو جائے تو جو خود

بزرگوں کے وجود مسعود کی برکتوں کا کیا عالم ہوگا۔

آسان لفظوں میں پردہ کا طریقہ

محترم اسلامی بہنو! بہترین پردہ یہ ہے کہ شرعی اجازت کی صورت میں گھر سے نکلتے

وقت اسلامی بہن غیر جاذب نظر کپڑے کا ڈھیلا ڈھالا مدنی برقع اوڑھے ہاتھوں میں

دستانے اور پاؤں میں جرابیں پہنے۔ مگر داستانوں اور جرابوں کا کپڑا اتنا باریک نہ ہو کہ

کھال کی رنگت جھلکے جہاں کہیں غیر مردوں کی نظر پڑنے کا امکان ہو وہاں چہرے سے

نقاب نہ اٹھائے۔ مثلاً اپنے یا کسی کے گھر کی سیڑھی اور گلی محلہ وغیرہ نیچے کی طرف سے بھی

اس طرح برقع نہ اٹھائے کہ بدن کے رنگ برنگے کپڑوں پر غیر مردوں کی نظر پڑے۔

عورت کا کس کس سے پردہ ہے؟

ہر وہ مرد جس سے نکاح ہو سکے اُس سے پردہ ضروری ہے۔ اور جن سے ہمیشہ



ہمیشہ کے لئے نکاح حرام ہو ان سے پردہ نہیں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں ”پردہ صرف ان سے نادرست ہے جو کسبب نسب کے عورت پر ہمیشہ ہمیشہ کو حرام ہوں اور کبھی کسی حالت میں ان سے نکاح ممکن نہ ہو جیسے باپ، دادا، نانا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، چچا، ماموں، بیٹا، پوتا، نواسہ ان کے سوا جن سے نکاح کبھی درست ہے اگرچہ فی الحال ناجائز ہو جیسے بہنوئی (سے پردہ واجب ہے) (نیز) چچا (زاد) ماموں (زاد) خالہ (زاد) پھوپھی کے بیٹھے یا جیٹھ۔ دیوران (سب) سے پردہ واجب ہے اور جن سے نکاح ہمیشہ کو حرام ہے کبھی حلال نہیں ہو سکتا مگر وجہ حرمت (یعنی نکاح حرام ہونے کی وجہ) علاقہ نسب (خونی رشتہ) نہیں بلکہ علاقہ رضاعت (یعنی دودھ کا رشتہ) ہے جیسے دودھ کے رشتے سے باپ، دادا، نانا، بھائی، بھتیجا، بھانجا، چچا، ماموں، بیٹا، پوتا، نواسہ یا علاقہ امیر (سسرالی رشتہ) ہو جیسے خسر، ساس، داماد، بہو، ان سب سے نہ پردہ واجب ہے نہ نادرست ہے۔ (یعنی ان سے پردہ) کرنا نہ کرنا دونوں جائز اور طالت جوانی یا احتمال فتنہ (یعنی فتنے کے امکان میں) پردہ کرنا مناسب خصوصاً دودھ کے رشتے میں کہ عوام کے خیال میں اس کی اہمیت بہت کم ہوتی ہے۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۲۲ ص ۲۳۵)

### سسرال میں کسی طرح پردہ کرے

پیاری اسلامی بہنو! گھر میں رہتے ہوئے بھی بالخصوص دیور و جیٹھ وغیرہ کے معاملہ میں محتاط رہنا ہوگا۔ صحیح بخاری میں حضرت سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ پیکر شرم و حیا کی مدنی مصطفیٰ محبوب خدا عزوجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کے پاس جانے سے بچو، ایک شخص عرض کی، یا رسول اللہ عزوجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیور کے متعلق کیا حکم ہے؟ فرمایا دیور موت ہے۔

(صحیح البخاری ج ۳ ص ۲۷۲ حدیث ۵۲۳۲)

ديور كا اپنى بھابھى كے سامنے ہونا گویا موت كا سامنا ہے كہ يہاں فتنہ كا انديشہ زيادہ ہے مفتى اعظم پاكستان حضرت وقار ملت مولانا وقار الدين عليہ رحمۃ اللہ لمبين فرماتے ہيں۔ ان رشتہ داروں سے جو نامحرم ہيں۔ چہرہ، ہتھيلی، گٹے، قدم اور طنون كے علاوہ ستر (پرزہ) كرنا ضرورى ہے زينت بناؤ سنگھار بھى ان كے سامنے ظاہر نہ كيا جائے۔ (وقار الفتاوى ج ۳ ص ۱۵۱)

البتہ يہ بات ضرورى ہے كہ نامحرم مرد و عورت مثلاً ديور و جيسٹھ اور بھابھى ايک دوسرے كى طرف جان بوجھ كر نظر نہ كريں۔ حديث پاك ميں ہے جو شخص شہوت سے كسى اجنبیہ كے حسن و جمال كو ديكھے گا قيامت كے دن اس كى آنكھوں ميں سيسہ پگھلا كر ڈالا جائے گا (ہدايہ ج ۲ ص ۳۶۸) يقيناً بھابھى بھى اجنبیہ ہی ہے جو ديور و جيسٹھ اپنى بھابھى كو قصداً ديكھتے رہے ہوں بے تكلف بنے رہے ہوں۔ مذاق مسخرى كرتے رہے ہوں۔ وہ اللہ عزوجل كے عذاب سے ڈر كر فوراً سے پہلے سچى توبہ كر لیں۔ بھابھى اگر ديور كو چھوٹا بھائى اور جيسٹھ كو بڑا بھائى كہہ دے اس سے بے پردگى اور بے تكلفى جائز نہيں ہو جاتى بلکہ يہ انداز گفتگو بھى فاصلے دور كر كے قريب لاتا ہے اور ديور و بھابھى بدنكاہى بے تكلفى، ہنسى مذاق و غيرہ گناہوں كے دلدل سے مزيد دھنستے چلے جاتے ہيں۔

حالانكہ جيسٹھ اور ديور و بھابھى كا آپس ميں گفتگو كرنا بھى مسلسل خطرہ كى گھنٹی بجاتا رہتا ہے۔

اللہ كرے دل ميں اتر جائے مرى بات

بھابھى كو پچا ہے كہ اس حكم قرآنى كو پيش نظر ركھے جيسا كہ قرآن مجيد پارہ ۲۲

سورة الاحزاب كى آيت نمبر ۵۹ ميں ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ

عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ۗ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذِنَنَّ ط

وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝

ترجمہ کنز الایمان: اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیبیوں اور صاحبزادیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے فرمادو کہ اپنی چادروں کا ایک حصہ اپنے منہ پر ڈالے رہیں یہ اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی پہچان ہو تو ستائی نہ جائیں اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

دیور و جیٹھ اور بھابھی وغیرہ خبر دار رہیں کہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا ”المینان تزنیان“ یعنی آنکھیں زنا کرتی ہیں۔

(مسند الامام احمد بن حنبل ج ۳ ص ۳۰۵ حدیث ۸۸۵۲)

بہر حال اگر ایک گھر میں رہتے ہوئے عورت کے لئے قریبی نامحرم رشتہ داروں سے پردہ ناممکن ہو تو چہرہ کھولنے کی تو اجازت ہے مگر کپڑے ہرگز ایسے باریک نہ ہوں جن سے بدن یا سر کے بال وغیرہ چمکیں یا ایسے چست نہ ہوں کہ بدن کے اعضاء جسم کی ہیئت (یعنی صورت و گولائی) اور سینے کا ابھار وغیرہ ظاہر ہو۔

باپردہ رہنے کے لئے غصہ ترک کر دیجئے

سادہ سا ڈھیلا ڈھالا لباس پہن لیا جائے اور ضرورتاً غیر جاذب نظر مثلاً پلنگ پوش یا کوئی سی چادرو وغیرہ بدن پر لپیٹ لی جائے فی زمانہ اگرچہ ایسا کرنا ممکن بھی ہے یہ اس اسلامی بہن کے لئے ممکن ہے جو غصہ پر قابو کرنا جانتی ہو کیوں کہ سادگی اپنانے اور خود کو بے پردگی سے بچانے پر آج کل گھر میں ڈانٹ ڈپٹ ہونے کا ہر امکان موجود ہے۔ اگر ایسے میں اسلامی بہن غضبناک ہو کر آپے سے باہر ہو گئی تو بات مزید بگڑ سکتی ہے لہذا برائے نام نہیں صحیح معنوں میں صابرہ خاتون بن جائے زبان کو ہر حال میں قابو رکھے ہاں جب دل خوب جلے تو بے شک آنسو بہا لیکہ شاید بے جا سختیاں کرنے والوں کو رحم آجائے۔

## آسیہ کی دردناک آزمائش

جس اسلامی بہن کو شرعی پردہ کرنے کے باعث گھر اور خاندان میں ستایا جاتا ہو اُس کے لئے حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واقعات میں کافی درس عبرت ہے چنانچہ حضرت سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرعون کی زوجیت میں تھیں جادوگروں کی مغلوبیت اور ایمان آور پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ والصلوٰۃ والسلام پر ایمان لے آئیں جب فرعون کو علم ہوا تو اُس نے طرح طرح سے سزائیں دینی شروع کیں کہ کسی طرح بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایمان سے منحرف (من-ح-رف) ہو جائیں۔ مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو چلچلاتی دھوپ میں لکڑی کے تختے پر لٹا کر چومینا (چو-مے-خا) کر دیا یعنی دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں میں میخیں (لوہے کی کیلیں) ٹھونک دیں۔ ظلم بالائے ظلم یہ کہ مبارک سینے پر چکی کے پاٹ رکھوادیئے کہ ہل بھی نہ سکیں اس شدید ترین اور ناقابل برداشت تکلیف میں بھی ان کے پائے ثبات کو ذرہ برابر لغزش نہ ہوئی بیقرار ہو کر اپنے رب غفار جل جلالہ کے دربارِ گوہر میں عرض گزار ہوئیں۔

رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ  
وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝

ترجمہ کنز الایمان: اے میرے رب! میرے لئے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش۔

مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ الخفان فرماتے تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان (یعنی سیدتنا آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا) پر فرشتے مقرر فرما دیئے

جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر سایہ کر لیا اور ان کا جنتی گھر انہیں دکھا دیا جس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان تمام مصیبتوں کو بھول گئیں۔ بعض روایات میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جنت میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں ہوں گی۔

(نور العرفان ص ۸۹۶ پیر بھائی کمپنی مرکز اولیاء لاہور)

اللہ عزوجل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔

اٰمِيْنُ بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنِ

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَاَصْحَابِهٖ اَجْمَعِيْنَ

گھر میں پردے کا ذہن کیسے بنے

پیاری اسلامی بہنو! فیضان سنت سے گھر درس جاری کر کے مکتبۃ المدینہ سے جاری ہونے والے سنتوں بھرے بیانات کیسٹیں سنا سنا کر انفرادی کوشش کے ذریعے گھر کے مردوں کو دعوتِ اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کا مسافر بنا کر گھر میں مدنی ماحول قائم کرنے کی کوشش جاری رکھئے۔ ان کے لئے دل سوزی کے ساتھ دعاء بھی کرتے رہئے۔ خود کو اور اہل خانہ کو ہر گناہ سے بچنے کی کڑھن پیدا کیجئے اور اس کے لئے کوشش بھی جاری رکھئے مگر نرمی اور نرمی کو لازمی کر لیجئے۔ بلا مصلحت شرعی سختی کرنا کجا اس کا سوچئے بھی نہیں کہ عموماً جو کام ”نرمی“ سے ہوتا ہو اسے ”گرمی“ سے نہیں ہوتا۔

ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں

بر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں

بہر حال اپنے اہل و عیال کی اصلاح کی ہر ممکن صورت میں ترکیب بنائے رہنا

چاہئے۔ پارہ ۲۸ سورۃ التحریم کی چھٹی آیت کریمہ میں ارشادِ خداوندی عزوجل ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اُس  
آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔

ماتحت کے بارے میں پوچھا جائے گا

پیاری اسلامی بہنو! یاد رکھئے! خاوند اپنی بیوی کا، باپ اپنے بچوں کا اور ہر شخص  
اپنے اپنے ماتحتوں کا ایک طرح سے ”حاکم“ ہے۔ اور ہر حاکم سے اُس کے ماتحتوں  
کے بارے بروز محشر باز پرس ہوگی چنانچہ رحمت عالم نیر اعظم، نور مجسم شاہ بنی آدم  
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے۔

”تم سب متکلمین کے سردار و حاکم ہو اور حاکم سے روز قیامت اس کی  
رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔“

(صحیح البخاری ج ۱ ص ۳۰۹ حدیث ۸۹۳)

دیوث کی تعریف

جو لوگ باوجود قدرت اپنی عورتوں اور محارم کو بے پروگی سے منع نہ کریں وہ  
”دیوث“ ہیں رحمتہ عالمیاں سلطان دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت  
نشان ہے۔ تین شخص کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے دیوث اور مردانی وضع بنانے والی  
عورت اور شراب نوشی کا عادی۔

(مجمع الزوائد ج ۳ ص ۵۹۹ حدیث ۷۷۲۲)

مردوں کی طرح بال کٹوانے اور مردانہ لباس پہننے والیاں اس حدیث پاک سے  
عبرت حاصل کریں۔ چھوٹی بچیوں کے لڑکوں جیسے بال بنوانے اور انہیں لڑکوں جیسے  
کپڑے اور ہیٹ وغیرہ پہنانے والے بھی احتیاط کریں۔ حدیث پاک میں یہ جو فرمایا

گیا کہ ”کبھی جنت میں داخل نہ ہوں گے“ یہاں اس سے طویل عرصے تک جنت میں داخلے سے محرومی مراد ہے کیوں کہ جو بھی مسلمان اپنے گناہوں کی پاداش میں معاذ اللہ عزوجل دوزخ میں جائیں گے۔ مگر یہ یاد رہے کہ ایک لمحے کا کروڑوں حصہ بھی جہنم کا عذاب کوئی برداشت نہیں کر سکتا لہذا ہمیں ہر گناہ سے بچنے کے لئے ہر دم کوشش اور جنت الفردوس میں بے حساب داخلے کی دعاء کرتے رہنا چاہئے۔ دیوث کے بارے میں حضرت علامہ علاء الدین معکفی علیہ رحمۃ القوی فرماتے ہیں ”دیوث“ وہ شخص ہوتا ہے جو اپنی یا کسی محرم پر غیرت نہ کھائے (الدر مختار مع رد المحتار ج ۶ ص ۱۱۳) معلوم ہوا کہ باوجود قدرت اپنی زوجہ، ماں، بہنوں اور جوان بیٹوں وغیرہ کو گلیوں بازاروں شاپنگ سینڑوں اور مخلوط تفریح گاہوں میں بے پردہ گھومنے پھرنے، اجنبی پڑوسیوں نامحرم رشتے داروں غیر محرم ملازموں، چوکیداروں اور ڈرائیوروں سے بے تکلفی اور بے پردگی سے منع نہ کرنے والے دیوث جنت سے محروم اور جہنم کے حقدار ہیں میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجددین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں۔ دیوث سخت آخبث فاسق (ہے) اور فاسق معلن کے پیچھے نماز مکروہ تحریمی اسے امام بنانا حلال نہیں اور اسکے پیچھے نماز پڑھنی گناہ اور پڑھی تو پھیرنا واجب۔ (فتاویٰ رضویہ جدید ج ۶ ص ۵۸۳)

بے پردہ کل جو نظر آئیں چند پیمیاں

اکبر زمین میں غیرتِ قومی سے گڑ گیا

پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا؟

کہنے لگیں ”وہ عقل یہ مردوں کی پڑ گیا“

اگر عورت نافرمانی کرے تو

پیاری اسلامی بہنو! اگر مرد اپنی حیثیت کے مطابق منع کرتا ہے اور بے پردگی

سے روکنے کے شرعی تقاضے اس نے پورے کئے ہیں اور وہ نہیں مانتی تو اس صورت میں مرد پر کوئی الزام نہیں اور نہ ہی وہ دیوث۔ پس حتی الامکان بے پردگی وغیرہ کے معاملے میں عورتوں کو روکا جائے مگر حکمت عملی کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنی زوجہ یا ماں بہنوں پر اس طرح کی سختی کر بیٹھیں جس سے گھر کا امن ہی تہہ و بالا ہو کر رہ جائے۔

### کیا منہ بولے بھائی بہن کا پردہ ہے

جی ہاں! ان سے بھی پردہ ہے کہ کسی کو باپ، بھائی یا منہ بولا بیٹا بنالینے سے وہ حقیقی باپ، بھائی اور بیٹا نہیں بن جاتا ان سے تو نکاح بھی درست ہے ہمارے معاشرے میں منہ بولے رشتوں کا رواج عام ہے کوئی مرد کسی کو ”ماں“ بنائے ہوئے ہے کوئی لڑکی کسی کو ”بھائی“ بنا بیٹھی ہے تو کسی خاتون نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے کوئی کسی جوان لڑکی کا منہ بولا چچا ہے تو کوئی منہ بولا باپ اور پھر بے پردگیوں بے تکلفیوں اور محوط دعوتوں کے گناہ و پاپ کا وہ سیلاب ہے کہ الامان و العفیظ۔

صنف مخالف کے ساتھ منہ بولے رشتے قائم کرنے والوں اور والیوں کو اللہ عزوجل سے ڈرتے رہنا چاہئے یقیناً شیطان پہلے سے بول کر وار نہیں کرتا حدیث پاک میں آتا ہے۔ دنیا اور عورتوں سے بچو کیونکہ بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ عورتوں کی وجہ سے اٹھا۔

(صحیح مسلم ص ۱۳۶۵ حدیث ۲۷۳۲)

### عالم باپ کا دردناک انجام

ان لوگوں کی کم نصیبی ہے جو بلا وجہ علماء و مشائخ کے خلاف ہو جاتے ہیں دیکھئے! وعظ و نصیحت کرنا باذنہ تعالیٰ علمائے کرام کا کام ہے جبکہ لوگوں کو ہدایت دینا، دلوں کو پھیرنا اور بگڑے ہوؤں کو سدھارنا یہ رب الا نام عزوجل کا کام ہے۔ اگر کوئی عالم یا پیر



واقعی اپنی اولاد کی اصلاح کی کما حقہ کوشش نہیں کرتا بیشک وہ خطا کار ہے مگر بلا اجازت شرعی انہیں بُرا بھلا کہنے کا ہمیں کوئی اختیار نہیں اس ضمن میں ایک عبرت آمیز حکایت ملاحظہ فرمائیے۔ چنانچہ حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ الفضا فرماتے ہیں منقول ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عالم صاحب اپنے گھر میں اجتماع کر کے بیان کیا کرتے تھے ایک دن اُس عالم صاحب کے نوجوان لڑکے نے ایک خوبصورت لڑکی کی طرف اشارہ کیا جو عالم صاحب نے دیکھ لیا اور کہا اے بیٹے! صبر کر یہ کہتے ہی عالم صاحب اپنے تخت سے فوراً منہ کے بل گر پڑے یہاں تک کہ اُن کا سر پھٹ گیا اللہ عزوجل نے اُس وقت کے نبی (علیہ السلام) پر وحی فرمائی کہ فلاں عالم کو خبر کر دو کہ میں اُس کی نسل سے کبھی صدیق (سب سے اعلیٰ درجے کا ولی) پیدا نہیں کروں گا کیا میرے لئے صرف اتنا ہی ناراض ہونا کافی تھا کہ وہ بیٹے کو کہہ دے۔ ”اے بیٹے! صبر کر“ مطلب یہ کہ اپنے بیٹے پر سختی کیوں نہیں کی اور اس حرکت سے اُسے اچھی طرح باز کیوں نہ رکھا۔

(ولفصاحلیۃ الاولیاء ج ۲ ص ۲۲۲ حدیث ۲۸۲۳)

### مرد کے ہاتھ سے چوڑیاں پہننا

ایسا کرنے والی عورت گنہگار اور جہنم کی سزاوار ہے اگر شوہر و محارم غیرت نہ کھائیں اور باوجود قدرت نہ روکیں تو وہ بھی ”دیوث“ اور جہنم کے حقدار ہیں اگر شوہر اپنی زوجہ کو اس حال میں دیکھ لے کہ کسی غیر مرد نے اس کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے تو مرنے مارنے کے لئے تیار ہو جائے مگر صد کروڑ افسوس! یہی بیوی جب چوڑیاں پہننے کے لئے مرد کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیتی ہے تو شوہر کا خون بالکل بھی جوش نہیں مارتا۔ میرے آقا علی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جب منہار (م-ن-ہار) کے ہاتھوں چوڑیاں پہننے کے بارے میں حکم شرعی دریافت کیا گیا تو فرمایا حرام حرام

حرام ہے، ہاتھ دکھانا غیر مرد کو حرام اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دینا حرام ہے جو مرد اپنی عورتوں کے ساتھ اسے روار کھتی ہیں وہ دیوث ہیں۔

(فتاویٰ رضویہ ج ۲۲ ص ۲۳۷)

### عورت کی مزارات پر حاضری

عورتوں کے لئے بعض علماء نے زیارت قبور کو جائز بتایا درمختار میں یہی قول اختیار کیا مگر عزیزوں کی قبور پر جائیں گی تو جزع و فزع (یعنی رونا پینا) کریں گی لہذا ممنوع ہے اور صالحین کی قبور پر برکت کے لئے جائیں تو بوڑھیوں کے لئے حرج نہیں اور جوانوں کے لئے ممنوع (ردالمحتار ج ۱ ص ۸۴۳) صدر الشریعہ بدرالطریقہ علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں اور اسلم (یعنی سلامتی کا راستہ) یہ ہے کہ مطلقاً منع کی جائیں کہ اپنوں کی قبور کی زیارت میں تو وہی جزع و فزع (یعنی رونا پینا) ہے اور صالحین کی قبور پر با تعظیم میں سے گزر جائیں گی یا بے ادبی کریں گی عورتوں میں یہ دونوں باتیں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔

(بہار شریعت حصہ ۴ ص ۶۵ مدینہ المرشد بریلی شریف)

میرے آقا علی حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے عورتوں کے مزارات پر جانے کی جا بجا ممانعت فرمائی چنانچہ ایک مقام پر فرماتے ہیں امام قاضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے استفتاء (سوال) ہوا کہ عورتوں کا مقابر کو جانا جائز ہے یا نہیں فرمایا۔ ایسی جگہ جواز عدم جواز (یعنی جائز و ناجائز کام) نہیں پوچھتے یہ پوچھو کہ اس میں عورت پر کتنی لعنت پڑتی ہے جب گھر سے قبور کی طرف چلنے کا ارادہ کرتی ہے اللہ عزوجل اور فرشتے لعنت کرتے ہیں جب گھر سے باہر نکلتی ہے سب طرفوں سے شیطان اسے گھیر لیتے ہیں جب قبر تک پہنچتی ہے میت کی روح اس پر لعنت کرتی ہے جب تک واپس آتی ہے اللہ عزوجل کی لعنت ہوتی ہے۔ (فتاویٰ رضویہ ج ۴ ص ۱۷۲)

## کیا پردہ ترقی میں رکاوٹ ہے

پیاری اسلامی بہنو! مسلمانوں کی ترقی میں پردہ نہیں درحقیقت بے پردگی رکاوٹ بنی ہوئی ہے جی ہاں، جب تک مسلمانوں میں شرم و حیاء اور پردہ کا دورا ہا تب تک وہ فتوحات پر فتوحات کرتے چلے گئے یہاں تک کہ دنیا کہ بے شمار ممالک پر پرچم اسلام لہرائے گا پردہ نشین ماؤں نے بڑے بڑے بہادر جرنیل و سپہ سالار عظیم حکمران، علمائے ربانیین اور اولیائے کاملین کو جنم دیا، تمام اہمات المؤمنین و جملہ صحابیات سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالیٰ عنہن با پردہ تھیں حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی والدہ ماجدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا با پردہ تھیں سرکار بغداد حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کی والدہ محترمہ سیدتنا ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا با پردہ تھیں الغرض جب تک پردہ قائم تھا اور عفت مآب خواتین چادر اور چادر یواری کے اندر تھیں مسلمان خوب ترقی کی منازل طے کرتا رہا اور کافروں پر غالب رہا جب سے کفار مکار کینزیر اثر آ کر مسلمانوں نے بے پردگی کا سلسلہ شروع کیا ہے مسلسل تنزل کے گہرے گڑے میں گرتا چلا جا رہا ہے کل تک جو کفار مسلمانوں کے نام سے لرزہ بر اندام تھے آج وہ مسلمانوں کی بے پردگیوں اور بد اعمالیوں کے باعث غالب آچکے ہیں اسلامی ممالک پر باقاعدہ جارحانہ حملے ہو رہے ہیں اور ظالمانہ قبضے کئے جا رہے ہیں مگر مسلمان ہے کہ ہوش کے ناخن نہیں لیتا آہ! آج کا نادان مسلمان T.V. اور V.C.R. اور Internet پر فلمیں ڈرامے چلا کر بے ہودہ فلمی گیت گنگنا کر شادیوں میں ناچ رنگ کی محفلیں جما کر، کافروں کی نقال میں داڑھی منڈا کر کفار جیسا بے شرمانہ لباس بدن پر چڑھا کر اسکوٹر کے پیچھے بے پردہ بیگم کو بٹھا کر بے حیا بیوی کو میک اپ کروا کر تفریح گاہ میں جا کر اپنی اولاد کو دنیوی تعلیم کی خاطر کفار کے ممالک میں کافروں کے سپرد کروا کر نہ جانے کس قسم کی ترقی کا متلاشی ہے۔

وہ قوم جو کل تک کھیلتی تھی شمشیروں کے ساتھ  
سینما دیکھتی ہے آج وہ ہمشیروں کے ساتھ

### حقیقت میں کامیاب کون

افسوس صد کڑور افسوس! آج کا مسلمان جھوٹ غیبت تہمت، خیانت، زنا، شراب، جوا، فلمیں، ڈرامے دیکھنا اور گانے باجے سننا وغیرہ وغیرہ گناہ بے گناہ کئے جا رہا ہے مسلمان عورتوں نے مردوں کے شانہ بہ شانہ چلنے کی ناپاک دھن میں حیا کی چادر اتار پھینکی ہے اور اب دیدہ زیب ساڑھیوں نیم عریاں عزاروں، مردانہ وضع کے لباس، مرد جیسے بالوں کے ساتھ شادی ہالوں، ہوٹلوں، تفریح گاہوں اور سینما گھروں میں اپنی آخرت برباد کرنے میں مشغول ہیں خدا کی قسم! موجودہ روش میں نہ ترقی ہے نہ کامیابی ترقی تو کامیابی صرف و صرف اللہ و رسول عزوجل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمان برداری کرتے ہوئے اس مختصر ترین زندگی کو سنتوں کے مطابق گزار کر ایمان سلامت لئے قبر میں جانے اور جہنم کے ہولناک عذاب سے بچ کر جنت الفردوس پانے میں ہے چنانچہ پارہ سور آل عمران کی آیت نمبر ۱۸۵ میں ارشاد خدائے رحمن عزوجل ہے۔

فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز

ترجمہ کنز الایمان: جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔

### جہنم میں عورتوں کی کثرت

آہ! آہ! آہ! عورتوں میں بے پردگی اور گناہوں کی کثرت ہونا کس قدر تشویشناک ہے خدا کی قسم! جہنم کا عذاب برداشت نہیں ہو سکے گا حدیث پاک میں ہے اللہ عزوجل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا کہ عورتیں

جہنم میں زیادہ اور جنت میں کم ہیں۔

(صحیح مسلم ص ۱۴۶۴ حدیث ۲۷۳۶، ۲۷۳۷، ۲۷۳۸ من العرشین)

یہ شرح آیہ عصمت ہے جو ہے بیش نہ کم  
دل و نظر کی تباہی ہے قرب نا محرم  
حیا ہے آنکھوں میں باقی نہ دل میں خوف خدا  
بہت دنوں سے نظام حیات ہے برہم  
یہ سیر گا ہیں کہ مقتل ہیں شرم و غیرت کے  
یہ مصیبت کے مناظر ہیں زینتِ عالم  
یہ نیم باز سا برقع یہ دیدہ زیب نقاب  
جھلک رہا ہے جھلا جھل قمیص کا ریشم  
نہ دیکھ رشک سے تہذیب کی نمائش کو  
کہ سارے پھول یہ کاغذ کے ہیں خدا کی قسم  
وہی ہے راہ تیرے عزم و شوق کی منزل  
جہاں ہیں عائشہ و فاطمہ کے نقش قدم  
تری حیات ہے کردارِ رابعہ بصری  
ترے فسانے کا موضوع عصمتِ مریم

میٹھی میٹھی اسلامی بہنو:

اگر آپ رضائے الہی کو پانا چاہتی ہیں تو دعوتِ اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، اپنے حلقے میں ہونے والے اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کیجئے۔ ان شاء اللہ اس کی برکت سے آپ کا سینہ مدینہ

بن جائے گا۔

الحمد للہ! دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، خوش نصیب اسلامی بہنیں گھر گھر نیکی کی دعوت کی دھو میں مچا رہی ہیں۔ آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے میں لگ جائیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنائیے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی خاتونِ جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نورانی سیرت اپنائیے اور دونوں جہانوں میں عزت پائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت و ریاضت میں مصروف رکھے اور اخلاص کے ساتھ اعمالِ صالحہ پر کار بند رکھے۔

اٰمِیْنُ بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْنِ

صَلِّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنِ



## جنتى عورت كون هے؟

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَاغُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا حَبِیْبَ اللَّهِ  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِیَّ اللَّهِ وَعَلَىٰ اٰلِكَ وَاَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

### ﴿فضیلت درود پاک﴾

كہتے ہیں كہ ایک آدمی نے جنگل میں كوئی بد صورت چیز دیکھی تو ڈر گیا، پوچھا: تو  
كون هے؟ بد صورت چیز سے آواز آئی: میں تیرا برا عمل ہوں۔ آدمی نے پوچھا: تجھ  
سے نجات كی كوئی صورت هے؟ آواز آئی: حضور نبی کریم علیہ الصلوٰة والسلام پر درود  
پاک پڑھنا۔

(مکاشفة القلوب مترجم صفحہ نمبر ۸۰ مکتبہ نوریہ رضویہ سکر)

معلوم ہوا برے اعمال بُری بُری شکلوں میں انسان كو ڈراتے ہیں اور عاشقانِ  
رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھ کر انہیں بھگاتے ہیں۔

بد صورت چیز ڈر کر بھاگ جائے گی

صلی علی كی جس گھڑی صدا آئے گی

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْبِ: صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ مُحَمَّدٍ ﷺ

## جنتی عورت کون

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا میں تم کو جنتی عورت کے بارے میں نہ بتا دوں وہ کون ہے ہم نے کہا ضرور اے اللہ کے رسول۔ نور کے چمکے، تمام نبیوں کے سرور، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا! شوہر پر فریفتہ زیادہ بچے جننے والی جب یہ غصہ ہو جائے یا اسے کچھ برا بھلا کہہ دیا جائے۔ یا اس کا شوہر ناراض ہو جائے تو یہ عورت (شوہر کو راضی کرتے ہوئے) کہے میرا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں ہے میں اس وقت تک نہ سوؤں گی جب تک تم خوش نہ ہو جاؤ۔

(ترغیب جلد ۳ صفحہ ۳۷)

## تشریح و تفصیل

پیاری اسلامی بہنو! اس حدیث پاک میں جنتی عورت کی صفت بیان کی گئی ہے کہ جنت میں جانے والی یہ عورت ہے جس میں یہ اوصاف پائے جائیں۔

(۱) بہت زیادہ شوہر سے محبت کرنے والی شوہر پر فریفتہ، کہ ذرا سی ناراضگی سے اس کا چین و سکون ختم ہو جائے محبت و چین کا تعلق اس کا شوہر سے وابستہ ہو اسے ناراض چھوڑ کر الگ بیٹھنے والی نہ ہو فریفتہ اور محبت کا یہ فائدہ ہوگا کہ دوسرے کی جانب اس کا خیال اور دھیان نہ جائے گا اور غابت محبت کی وجہ سے شوہر کی جانب سے کوئی تکلیف دہ امور ہو تو اسے برداشت کرے گا محبت کی وجہ سے کڑوی بات بھی میٹھی ہو جاتی ہے محبوب کی تکلیف محبت کی وجہ سے محسوس نہیں ہوتی جس سے گھر کا نظام باحسن و جوہ چلتا ہے اور ہر ایک کو گھریلو سکون میسر ہوگا۔ جس کا آج فقدان ہے کہ معمولی بات بھی آپس میں محبت نہ ہونے کی وجہ سے دل میں چبھ جاتی ہے عورت جب عشق فریفتگی کا برتاؤ کرے گی تو سخت مزاج مرد بھی متاثر ہو کر دل میں اسے جگہ دے دے گا اور وہ



بھی محبت کی بنیاد پر نامناسب امور کو برداشت کرتا رہے گا اور ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے محبت کی بنیاد پر صرف نظر کرتا رہے گا اور گھریلو نظام اچھی طرح چلتا رہے گا۔

(۲) زیادہ بچے جننے والی عورت قابل تعریف اور اللہ و رسول کے نزدیک بہت پسندیدہ ہے اسی لئے حضور سراج السالکین، محبوب رب العالمین سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ زیادہ بچے جننے والی عورت سے شادی کرو شادی کا اہم ترین مقصد سلسلہ نسل باقی رکھنا ہے اور امت کے افراد کا زیادہ سے زیادہ ہونا ہے اس سے معلوم ہوا کہ جو بچہ چاہتے نہیں یا کم سے کم چاہتے ہیں تاکہ عیش و آرام ملے اور پرورش کی مشقت سے بچے رہیں یہ خدا رسول کے نزدیک ناپسندیدہ ہے ہاں مرض اور بیماری کے پیش نظر ہو تو دوسری بات ہے عموماً اہل یورپ کا مزاج ہے کہ وہ بچے بالکل نہیں چاہتی یا ایک دو سے زیادہ نہیں تاکہ ان کے عیش و آرام میں خلل نہ ہو سیر و سیاحت میں آزاد رہیں اللہ کی پناہ اولاد اور اس کی کثرت بڑی نعمت اور ثواب کی بات ہے آپ دو جہاں کے تاجور سلطان و ظرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ بچہ جننے والی عورتوں سے شادی کرو میں تمہاری کثرت پر قیامت کے دن فخر کروں گا امت کی کثرت آپ کے لئے قیامت میں فخر کی بات ہے رہی بات بچوں کی کثرت غربت کا سبب سو یہ غلط ہے بچے اچھے ہوں گے ان کی تعلیم و تربیت اچھی ہوگی لائق اور سنجیدہ ہوں گے تو یہ خوشحالی اور مالداری کا باعث میں پریشانی اور مصیبت، تو غلط تعلیم اور تربیت کے ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے خیال رہے کہ یہ بچے اور اولاد دین کے حق میں دنیا و دین کے بھلائی کا باعث اور صدقہ جاریہ ہوتے ہیں اور ہر اعتبار سے خیر کا باعث ہیں کہ حمل اور دودھ پلانے کا بڑا ثواب ہے چنانچہ حدیث پاک میں ہے۔

رسول اکرم سرورِ معصوم نے فرمایا کہ تم اس بات پر راضی نہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنے شوہر سے حاملہ ہوتی ہے اور شوہر اس سے راضی ہو تو اس کو ایسا ثواب ملتا ہے

جیسا کہ اللہ کے راستے میں روزے رکھنے والے اور شب بیدار کو ثواب ملتا ہے اور جب اس کو دروزہ رکھنے والے اور شب بیدار کو ثواب ملتا ہے اور جب اس کو دروزہ ہوتا ہے تو اس کے (جنت میں) جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہوتا ہے اسے آسمان و زمین کے فرشتے بھی نہیں جانتے اور پیدائش کے بعد جو بچہ ایک گھونٹ بھی دودھ پیتا ہے یا چوستا ہے اس پر ایک نیکی ملتی ہے گر بچہ کے سبب سے رات میں جاگنا پڑے تو راہ خدا میں ستر غلاموں کے آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔

(کنز العمال ج ۱۶)

ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت حمل سے لے کر بچہ جننے اور دودھ چھڑانے تک ایسی ہے جیسے اسلام کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرنے والی اگر اسی درمیان انتقال ہو جائے تو شہید کے برابر ثواب ملتا ہے۔

(کنز العمال ج ۱۶ ص ۴۱۱)

اس حدیث پاک میں جنتی عورت کا ایک نہایت ہی اہم وصف و علامت بیان کیا گیا ہے کہ وہ شوہر کی محبت بلکہ عشق میں سرشار ہو کر شوہر کی زرا سی بھی ناراضگی کو وہ برداشت نہ کر سکے اگر کسی بنیاد پر شوہر ناراض یا غصہ ہو جائے تو اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیکر غایت درجہ محبت و تعلق کا اظہار کرے کہ جب تک آپ راضی نہ ہوں گے خوش نہ ہوں گے میں ایک پلک بھر نہ سوؤں گی اللہ اکبر کیا شان آرام و محبت و عشق کا۔

کیا آج کل کی ماڈرن عورتیں ایسا کر سکتی ہیں اگر شوہر ناراض ہو اور اس کا ناراض ہونا حق بجانب ہو تو بیگم صاحبہ پوچھیں گی بھی نہیں مزے سے بے خبر سو جائیں گی اگر آج یہ وصف عورت میں پیدا ہو جائے تو گھر جنت نشان بن جائے شوہر کیسا ہی بد مزاج سخت کیوں نہ ہو بیوی کی غایت محبت سے اس کی محبت و قدر ذہن میں بیٹھ جائے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی اس قسم کی ایک حدیث مروی ہے

جسے امام نسائی نے بیان کیا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میں تم کو جنتی عورت نہ بتا دوں جو خوب محبت کرنے والی زیادہ بچے جننے والی شوہر کے پاس کثرت سے آنے والی کہ اگر اسے تکلیف دے دی جائے یا ہو جائے تو شوہر کا ہاتھ پکڑ کر کہے میں پلک بھر نہ سوؤں گی جب تک تم خوش نہ ہو جاؤ گے۔

(کتاب عشرت النساء صفحہ ۲۱۹)

گویا اس بات کی تعلیم ہے کہ شوہر ناراض نہ ہے اپنی جانب سے اسے ناراض رہنے یا رکھنے کی شکل نہ پیدا کی جائے کہ اس کی رضا جنت ہے۔

### نیک عورت کون ہے

حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات ہے کہ رسول پاک محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن بندے نے تقویٰ کی نعمت کے بعد کوئی ایسی بھلائی حاصل نہیں کہ جو نیک و صالح بیوی سے بڑھ کر ہو (وہ یہ ہے) اگر شوہر کوئی بات کہے تو اسے پورا کرے اگر شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کر دے اگر شوہر کسی کام کے بارے میں قسم دے دے تو اسے پوری کرے اگر وہ کہیں باہر جائے تو اپنی جان اور مال کے بارے میں خیر کا معاملہ کرے۔

(ابن ماجہ صفحہ ۱۳۳)

### تشریح و تفصیل

میری میٹھی میٹھی اسلامی بہنو!

شوہر دیکھے تو خوش کر دے نیک بیوی کی بہت ہی اہم علامت ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنا رنگ ڈھنگ صفائی ستھرائی شوہر کی مرض کے مطابق رکھے کہ دیکھے تو اس کا دل خوش ہو جائے خندہ پیشانی چہرے کی مسکراہٹ سے اسکے ساتھ پیش آئے۔

## جنت میں جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک حضور مکی و مدنی سرکار محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورت جب پانچ وقت کی نماز پڑھتی ہو اپنے ناموس و عزت کی حفاظت کرتی ہو اور شوہر کی اطاعت کرتی ہو تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ (ابن حبان، ترغیب ۳۳۳)

## تشریح و تفصیل

عورتوں کے لئے کتنی بڑی فضیلت اور مرتبہ کی بات ہے کہ جنت میں داخل ہونے کا کس قدر آسان نسخہ ہے عام طور پر عورتیں نماز میں کوتاہ ہوتی ہیں پڑھتی نہیں یا چھوڑ کر پڑھتی ہے یا سستی سے وقت گزارنے کے بعد پڑھتی ہیں سو نماز کی پابندی کر لو۔ شوہر کی خدمت کر لو مزے سے جنت میں چلی جاؤ شریعت نے عورتوں سے بہت کم اور آسان عملی پر جنت کا وعدہ کیا ہے مردوں کے مقابلہ میں ان سے کم عمل کا مطالبہ ہے عورتوں کا جنت میں جانا آسان ہے گناہوں سے بچی رہیں نماز کو نہ چھوڑیں شوہروں کی خدمت اور اطاعت سے خوش رکھیں بس جنت کا ٹکٹ پالیں جس دروازے سے چاہیں چلی جائیں۔

## دنیا کی عورتیں حور عین سے افضل ہیں

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول پاک نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول دنیا کی عورتیں افضل ہیں یا حور عین آپ نے فرمایا دنیا کی عورتیں حور عین سے افضل ہیں ایسے جیسے ابرہہ اچھا عمدہ ہوتا ہے استر (اندرونی کپڑے) سے انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا کیوں فرمایا اپنی نماز اپنے روزے اور خدائے

پاک کی عبادت کی وجہ سے۔ (مختصر ائسواء النساء صفحہ ۵۴۰ طبرانی)

## تشریح و تفصیل

مطلب یہ ہے کہ دنیا کی نیک و صالح ذاکر شامل نمازی عورتیں جنت کی حوروں سے افضل ہیں اس وجہ سے کہ وہ جنت میں پیدا ہوئیں وہاں عمل صالح نماز روزہ کہاں یہ اعمال صالحہ تو دنیا میں ہیں اس لئے وہ حور عین ان نماز روزہ صدقہ خیرات حج ذکر تلاوت کے ثواب اور اس سے جو خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے محروم ہیں دیکھ تمہاری کتنی بڑی فضیلت ہے۔

## جنت کے آٹھوں دروازے کس کے لئے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سراج السالکین، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت خدا سے (گناہ کے بارے میں ڈرے اور گناہ نہ کرے) اور اپنی عزت کی حفاظت کرے اور شوہر کی اطاعت فرمانبرداری کرے اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جاتے ہیں اور ان سے کہا جائے گا جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔

(مجمع الزوائد جلد ۲ صفحہ ۳۰۶)

## تشریح و تفصیل

میری محترم اسلامی بہنو! جنت کے آٹھ دروازے ہوں گے اپنے اپنے خصوصی اعمال کی وجہ سے جنت کے دروازے سیلوگ جائیں گے عموماً لوگ ایک دروازے سے جانے کے مستحق ہوں گے بعض مرد اور بعض عورتیں ایسی ہوں گی کہ ان کو جنت کے ہر آٹھوں دروازے سے جانے کی اجازت ہوگی اور ان کو اختیار ہوگا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہیں جنت میں چلی جائیں یہ کون عورت ہوگی جن میں یہ تین

اوصال ہوں گے۔

تقویٰ والی زندگی ہوگی یعنی تمام ناجائز اور شریعت کی منع کردہ چیزوں سے بچتی ہوں گی ہر گناہ کی بات سے بچتی ہوں گی مثلاً پانچوں نمازوں کی پابند خصوصاً صبح کی نماز کی اپنے زیور کا حساب سے اگر نصاب کے برابر زکوٰۃ نکالتی ہوگی کسی سے لڑتی جھگڑتی نہ ہوگی شوہر کے علاوہ کسی پر نظر اور نگاہ نہ رکھتی ہوگی سینما اور ٹی۔وی کے ذریعہ عفت کو برباد نہ کرتی ہوگی۔ شوہر کی ہر اس امر میں جس سے شریعت نے منع نہیں کیا اطاعت و فرمانبرداری کرتی ہوگی اس میں غفلت سستی بہانہ نہ تراشتی ہوگی۔

عورتوں کے لئے گھریلو کام کا ثواب جہاد کے برابر

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا اے اللہ کے رسول! تاجدار رسالت پیکر و عظمت و شرافت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاد کرنے سے مراد تو فضیلت لوٹ گئے ہم عورتوں کے لئے بھی کوئی عمل ہے جس سے جہاد کی فضیلت کو ہم پاسکیں آپ نے فرمایا ہاں گھریلو کام میں تمہارا لگنا یہ جہاد کی فضیلت کے برابر ہے۔

(مطلب عالیہ ج ۲ صفحہ ۳۹ بہتی جلد ۶ صفحہ ۲۲۰)

## تشریح و تفصیل

اندرون خانہ جتنے بھی امور ہیں خواہ اس کا تعلق کھانے سے ہو خواہ صفائی سے ہو یا بچوں کی تربیت و پرورش سے متعلق ہو یا سامان کے نظم و ضبط سے متعلق ہو ان سب کو نگرانی اور دیکھ بھال اس کو باحسن وجہ کرنا عورت اہل خانہ کی ذمہ داری ہے اور خدا رسول نے بڑی فضیلت بیان کی ہے اور اس پر بڑا ثواب دیا ہے مردوں کو جو جہاد اور قتال میں ثواب ہے وہی ثواب شریعت نے ان عورتوں کو گھریلو کام میں دیا ہے افسوس کہ مال دار عورتیں اور نئی تہذیب سے متاثر عورتیں اسے عیب و شرافت کے خلاف

سمجھتی ہیں وہ برتن دھونے کو جھاڑو دینے کو گھر صاف کرنے کو، گھر میں نل کنواں ہو تو پانی بھرنے کو، معیوب عزت و نشان کے خلاف سمجھتی ہیں اس لئے یہ کام خادمہ سے لیتی ہیں گرچہ خادمہ رکھنا مالی وسعت کے اعتبار سے جائز ہے مگر ان کاموں کے کرنے میں کوئی عیب نہیں یہ تو ثواب کا کام ہے عزیز ماؤں اور بہنو! آج ثواب لوٹ لو ثواب لوکل آخرت میں کام آئے گا نوابوں کے طریقے اور مغربی تہذیب پر لعنت پھینکو۔

### عورت کے لئے اس کا شوہر جنت یا جہنم

حصین بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کی پھوپھی نبی پاک رسول اکرم سرور معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں ضرورت پوری ہونے کے بعد آپ نے ان سے پوچھا کیا تم شوہر والی ہو کیا! ہاں تو نبی مکرم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم ان کے ساتھ کس طرح برتاؤ کرتی ہو۔ انہوں نے کہا ہر ممکن طریقے سے خدمت کرتی ہوں کوئی کوتاہی نہیں کرتی ہوں۔ ہاں مگر یہ کہ کوئی مجبوری ہو۔ حضور مکی مدنی سرکار محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم ان کی رعایت کرو وہ تمہارے لئے جنت یا جہنم۔

(ترغیب جلد ۳ صفحہ ۳۴، عشریۃ النساء صفحہ ۱۷۱ احکم)

### تشریح و تفصیل

میری محترم اور پیاری اسلامی بہنو! اس حدیث پاک میں رسول اکرم، سرور معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شوہر تمہارے لئے جنت یا جہنم ہے معنی اس کی خدمت اس کی رضا و خوشنودی سے تم جنت جاسکتی ہو۔

شوہر کی اطاعت ہر حال میں خواہ بیکار ہی معلوم ہو

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے

سرور نے فرمایا اگر آدمی اپنی بیوی کو حکم دے کہ وہ جبل احمر (کے چٹان کو) جبل اسود کی طرف منتقل کرے یا جبل اسود (کے چٹان کو) جبل احمر کی طرف منتقل کرے اس کا حق ہے کہ وہ ایسا کرے۔

(ابن ماجہ ۱۳۲، مشکوٰۃ صفحہ ۲۸۳، ترغیب جلد ۳ صفحہ ۵۶)

## تشریح و تفصیل

اس حدیث پاک میں محبوب ربّ العزت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبالغتہ اور تاکید فرمایا کہ اگر اسے پہاڑ یا اس چٹان کو ایک جگہ سے دوسری طرف منتقل کرنے کو کہے تو باجود یہ کہ یہ ایک بیکار عبث اور مشکل ترین کام ہے لیکن اس کی زوجیت کا تقاضا ہے وہ شروع کرے انکار نہ کرے خواہ وہ ہو یا نہ ہو۔ خواہ مشکل ہو یا آسان۔ خواہ اس میں فائدہ ہو یا نہ ہو ملا علی قاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ کوئی مشکل حقیقت آمیز کام یا عبث و بے کار کام کا حکم دے۔ تب بھی اس سے ناہی انکار نہ کرے۔

## شوہر کی اطاعت کی وجہ سے مغفرت

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک حضور السالکین محبوب ربّ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ ایک شخص گھر سے باہر جاتے ہوئے اپنی بیوی سے کہہ گیا کہ گھر سے نہ نکلنا اس کے والد گھر کے نچلے حصے میں رہتے تھے وہ گھر کے اوپر رہا کرتی تھی والد بیمار ہوتے تو اس نے نبی پاک اکرم سرور معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیج کر عرض کیا اور معلوم کیا آپ نے فرمایا اپنے شوہر کی بات مانو چنانچہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس نے حضور مکی و مدنی سرکار محبوب ربّ اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آدمی بھیج کر معلوم کیا آپ نے فرمایا شوہر کی اطاعت کرو پھر نبی مکرم، رہبر انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے



پاس یہ پیغام بھیجا کہ اللہ پاک نے تمہارے شوہر کی اطاعت کی وجہ سے تمہارے والد کی مغفرت کر دی۔ (مجمع جلد ۲ صفحہ ۳۱۶)

### تشریح و تفصیل

میری اسلامی بہنو! حدیث بالا میں عورت کا اپنے والد کے پاس نہ جانا صرف شوہر کی اطاعت کی وجہ سے تھا حضور مکی و دنی سرکار، محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی کی تاکید کی تھی جب شوہر نے اسے نکلنے کی اجازت نہیں دی ہے تو مت نکلو اور اس بات کا لحاظ رکھو۔ یہاں تک کہ والد کی وفات ہوگی اللہ پاک نے اس اطاعت کی برکت سے اس کے والد کی مغفرت فرمادی۔ جب بیوی کی اطاعت سے اس کے والد کی مغفرت ہوگئی تو خود عورت مغفرت کے لائق نہ ہوگی یقیناً ہوگی۔

### نہ نماز قبول ہوگی اور نہ نیکی چڑھے گی

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت پیکر عظمت و شرافت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تین لوگوں کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی اوپر چڑھتی ہے۔

(۱) بھاگے ہوئے غلام کی تا وقتیکہ اپنے مولیٰ کے پاس نہ آجائے اور ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہ دے دے۔

(۲) ایسی عورت کی جس سے اس کا شوہر ناراض ہو۔

(۳) اور مست شرابی کی تا وقتیکہ شراب کا اثر ختم نہ ہو جائے۔

(بیہقی فی الشعب جلد ۶ صفحہ ۳۱۷)

### تشریح و تفصیل

میری محترم اسلامی بہنو! مرد عورت پر نگراں ہے اور عورت اس کے ماتحت ہے

خدا کے بعد عورت کے لئے شوہر ہی ہے والدین کے حق پر شوہر کا حق غالب ہو گیا اگر مذہب میں کسی کو سجدہ تعظیسی کی اجازت ہوتی تو عورت کو ہوتی کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ حدیث پاک میں ہے عورت کے لئے اس کا شوہر جنت یا جہنم ہے کہ اس کے حق کو ادا کر کے جنت پاسکتی ہے جس کا اتنا بڑا حق ہو بھلا اسے ناراض کیسے چھوڑا جا سکتا ہے۔ پھر خدائے پاک نے جسے رفیق حیات ہو زندگی بھر کا ساتھی اور معاون بنایا ہو۔ دنیاوی اعتبار سے جس کے بغیر گزراہ نہیں اسے کیسے ناراض رکھا جاسکتا ہے۔ اس لئے اگر وہ کسی وجہ سے ناراض ہو جائے گو بلا معقول وجہ سے سہی تو اسے یونہی نہیں چھوڑ دیا جائے بلکہ اسے خوش کرنے کی کوشش کی جائے اسی لئے شریعت نے تاکید کی کہ جب تک اسے راضی نہ کیا ایسی عورت کی نہ نماز قبول ہوتی ہے اور نہ کوئی نیکی۔

غیر اللہ کو سجدہ جائز ہوتا تو شوہر کا حکم ہوتا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر میں کسی کو سجدہ کا حکم دیتا تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔

### تشریح و تفصیل

قیس بن سعد کی روایت میں ہے کہ جب وہ میرہ گئے تو انہوں نے (عیسائیوں کو) دیکھا کہ وہ اپنے مرزبانی (مذہبی عالم) کو سجدہ کرتی ہیں تو انہوں نے کہا کہ میں نے نبی پاک رسول اکرم سرور معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ آپ تو سجدہ کے لائق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب میری قبر پر سے گزرے تو کیا مجھے سجدہ کرو گے میں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو اگر میں سجدہ کا حکم کسی کو دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے کہ اللہ

نے ان کے لئے ان پر حق رکھا ہے (یعنی اکرام و احترام و اطاعت کا) حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہا ایک اونٹ نے آپ کو سجدہ کیا تو آپ کے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو کہا: اے اللہ کے رسول محبوب رب العزت محسن انسانیت! اشجارہ بہائم سجدہ کرتے ہیں۔ ہم تو اس سے زیادہ حق دار ہیں۔ آپ نے فرمایا عبادت اللہ کی کرو۔ اپنے بھائی کا اکرام کرو۔ اگر میں کسی کو سجدہ کا حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔

(مجمع جلد ۲ صفحہ ۲۱۳)

### ناشکر گزار کی طرف خدا کی نگاہ بھی نہیں

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی پاک محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ پاک اس عورت کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے اور اس سے بے نیاز نہیں رہ سکتی۔

(مجمع الزوائد جلد ۲ صفحہ ۳۱۲ بزار، نسائی)

### تشریح و تفصیل

میری محترم اسلامی بہنو! شکر گزاری بہترین وصف ہے اس سے تقویٰ میں اضافہ ہوتا ہے اپنے محسن کا شکر گزار ہونا نعمتوں اور نوازشوں کے اضافہ کا سبب ہوتا ہے جو عورت شوہر کا شکر ادا نہیں کرتی اور ہمیشہ زبان پر ناشکری رہتی ہے اور سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ ظلم اور حق تلفی ہو رہی ہے شوہر سے اس کا بناؤ نہیں ہوتا۔ شوہر سے اسے محبت اور مودت نہیں رہتی ہے جس سے دونوں کے درمیان تعلقات خوشگوار قائم نہیں رہتے اور اچھا خاصا گھر اور نعمتوں اور راحتوں کے اسباب کے باوجود گھر کا جہنم کا نمونہ

بن جاتا ہے اس لئے شریعت نے ہر ایسی چیز سے منع کیا ہے جس سے آپس کے تعلقات پر اثر پڑے محبت پر اثر پڑے اس لئے عورتوں کو چونکہ اسی گھر میں زندگی گزارنی ہے ناشکری کے کلمے نکالنے میں احتیاط کرے کہ یہ خدا کی نگاہوں میں گر جانے کا باعث ہے پریشانی ہے تو برداشت کی کوشش کرو۔ کل جنت میں اس برداشت کا مزہ لوٹو گی۔

### آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک کون مبضوض عورت

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور مکی و مدنی سرکار، محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے وہ عورت مبضوض ہے جو اپنے گھر سے (بلا اجازت شوہر) شوہر کی شکایت کرتے ہوئے نکلے۔ (مجمع الزوائد جلد ۲)

### تشریح و تفصیل

خیال رہے کہ ہمیشہ ہر وقت ایک ساتھ رہنے سے ضرور کچھ نہ کچھ حق تلفی ہوتی ہے مختلف عوارض اور شریعت کی رعایت و خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے ایک دوسرے کے حقوق کا ضائع ہونا ایک معمولی بات ہے۔ پھر جبکہ ہمیشہ ایک ساتھ رہنا اور ہر ایک کا فائدہ دوسرے سے وابستہ ہے تو ایسی صورت میں آپس میں شکایت کی بات ہو جائے کبھی کبھی معمولی تکلیف پہنچ جائے تو زبان پر شکایت نہیں لانی چاہئے کہ اس سے خوشگوار تعلقات جو بہت ہی ضروری ہے اور جس کے لئے بیٹھا رنوا اند و ضائع ہیں۔

### شوہر سے بھلائی کا انکار تو اعمال برباد

میری پیاری اسلامی بہنو! حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب عورت شوہر کے بارے میں یہ کہے کہ میں نے تم سے کوئی بھلائی نہیں پائی! تو اس کے اعمال کا ثواب خبط ہو جاتے ہیں یعنی برباد اور

ضائع۔ (جامع صغیر صفحہ ۵۳، کنز جلد ۱۶ نمبر ۵۷۰۷۷)

## تشریح و تفصیل

خدا کی پناہ کیسی سخت و عید، ذرا سی ناشکری کے جملے پر اعمال ہی اکارت اکثر و بیشتر عورتوں کو دیکھ گیا ہے کہ جہاں کوئی شکایت شوہر سے ہوتی کوئی لڑائی و جھگڑے کی نوبت آئی۔ اس گھر میں چین نہیں ملا، کوئی امید پوری نہیں ہوئی! کوئی تکلیف ہوگئی، فوراً کہہ دیتی ہیں اس نے مجھے کچھ نہیں دیا، میں ہمیشہ نوکر کی طرح گھسٹی رہی مگر میرا کبھی لحاظ نہیں کیا گیا کبھی اس نے میرا خیال نہیں کیا، اس قسم کے جملے بہت بُرے ہیں اس سے اعمال کا ثواب برباد ہو جاتا ہے۔ اکارت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکیاں گزشتہ کی ہیں وہ بے اثر ہو جاتی ہیں۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے کہ سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم میں عورتوں کو مردوں سے زیادہ دیکھا پوچھا تو فرمایا شوہر کی ناشکری کرنے کی وجہ سے جس شوہر نے حسب ضرورت وسعت و حیثیت ہمیشہ آرام دیا کبھی کسی وجہ سے شکایات ہوگئی کہ عموماً ایک گھر میں آپس میں ساتھ رہنے کی وجہ سے ہو جاتی ہے تو بلا جھجک کہہ دیتی ہیں اس سے ہم کو کبھی آرام نہیں ملا۔ ہرگز ایسا جملہ نہ نکالے، کوئی شکایت کی بات ہو جائے تو سنجیدگی سے حل کرے، برداشت کرے، مردوں کو بھی چاہئے کہ ایسے اسباب سے احتیاط کرے کہ عورت کی زبان سے ایسی بات نہ نکلے۔

## بلا اجازت شوہر نفل روزے کی اجازت نہیں

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم سرور معصوم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عورت کے لئے درست نہیں کہ وہ شوہر کی موجودگی میں روزہ رکھے ہاں مگر اس کی اجازت سے ایک روایت میں ہے کہ اسنے اگر روزہ رکھا

تو بھوک پیاسی رہی اور قبول نہ کیا جائے گا۔

(مشکوٰۃ صفحہ ۱۷۸، بخاری جلد ۲ صفحہ ۷۸۲، مسلم)

## تشریح و تفصیل

عورت کو شوہر کی خدمت و رعایت کے پیش نظر نفلی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہو سکتا ہے کہ شوہر کو کسی وقت ضرورت پیش آجائے یہ اس کا حق ہے البتہ وہ خود اجازت دے تو پھر درست ہے ہاں اگر شوہر گھر میں موجود نہ ہو سفر پر ہو تو اجازت ہے۔ خیال رہے کہ یہ نفلی روزے کے متعلق ہے رمضان کے روزے کے متعلق یہ بات نہیں۔ اگر شوہر رمضان کے روز منع کرے تب بھی چھوڑنا جائز نہیں چونکہ خدا کی نافرمانی ہو تو مخلوق کی اطاعت جائز نہیں اسی وجہ سے ایک حدیث میں ہے سوائے رمضان کے عورت روزہ نہ رکھے جب کہ اس کا شوہر موجود ہو۔

(کنز العمال صفحہ ۲۱۶ صفحہ ۱۲۳۸ ق)

دیکھا شریعت نے عورتوں کو کتنی تاکید کی ہے کہ وہ شوہروں کی رعایت کریں اس رعایت کی وجہ سے تو دونوں کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم رہیں گے۔

## شوہر کی خدمت پر شہادت کے قریب درجہ

حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کی اطاعت، اس کے حق کو ادا کرے، نیک باتوں کو قبول کرے، نفس اور مال کی خیانت سے پرہیز کرے (تو ایسی عورت کا) جنت میں شہیدوں سے درجہ کم ہوگا اگر شوہر بھی اس کا مومن اور بہتر اخلاق والا ہے تو یہ عورت اس ملے گی ورنہ ایسی عورت کی شادی اللہ تعالیٰ شہیدوں سے کر دے گا۔ (کنز العمال جلد ۱۶ صفحہ ۱۴۴ طبرانی)

## تشریح و تفصیل

حدیث پاک میں شوہر کی خدمت اور نیکی پر شہداء کے قریب درجہ ملنا بتایا گیا ہے، کس قدر فضیلت کی بات ہے صرف ایک ہی درجہ کا فرق رہ جاتا ہے۔

حدیث پاک میں دوسرا جزویہ بیان کیا گیا ہے کہ اگر عورت نیک اور صالح ہو اور اس کا شوہر بھی نیک ہو تو جنت میں اسی طرح شوہر بیوی بن کر رہیں گے اور اگر نیک نہ ہو تو پھر شہداء کے ساتھ ان کی شادی کرادی جائے گی نیک عورت کے لئے یہ کس قدر فضیلت کی بات ہے۔

## لعنت والی عورت کون

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عورت اپنے شوہر سے (غصہ کی وجہ سے) الگ بستر پر رات گزارے تو فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ عورت شوہر کے پاس آجائے۔

(بخاری و مسلم جلد ۲ صفحہ ۷۸۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ محبوب رب العزت، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شوہر جب بیوی کو بستر پر بلائے اور انکار کر دے تو فرشتے لعنت کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔

(بخاری جلد ۲ صفحہ ۷۸۲)

## تشریح و تفصیل

میری پیاری بہنو! اس سے معلوم ہوا کہ بیوی کو شوہر کی مرضی اور ضرورت و خواہش کی رعایت کرنی ضروری ہے اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو اور نہ کوئی بیماری وغیرہ ہو جس سے نقصان کا اندیشہ ہو تو اس کی خواہش کی رعایت واجب ہے۔ ورنہ فرشتوں کی

لعنت کی مستحق ہوگی حدیث پاک میں عورتوں کے لئے جب کہ وہ شوہر کی خواہش اور مرضی کو بلا کسی معقول عذر کے ٹھکرا دے سخت وعید و مذمت ہے چنانچہ ایک حدیث میں ہے کہ جسے امام مسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ نبی پاک نبی مکرم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنی بیوی کو بستر پر بلائے اور وہ انکار کر دے تو ملا اعلیٰ آسمان والوں کی جانب سے (یعنی فرشتوں کی طرف) سخت غضب میں گرفتار ہوتی ہے تا وقتیکہ اسے خوش نہ کر دے (خواہ کسی بھی طرح سے ہوبات چیت کے ذریعہ سے ہو یا تکمیل خواہشات کے ذریعہ سے)۔

(مسلم، یعنی جلد ۲ صفحہ ۱۸۵)

### شوہر سے طلاق مانگنے پر جنت حرام

حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت پیکر عظمت و شرافت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر سے بلا کسی ضرورت شدیدہ و پریشانی کے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔

(ابن ماجہ صفحہ ۱۲۸، ابوداؤد صفحہ ۳۰۳، ترمذی صفحہ ۳۲۶)

### تشریح و تفصیل

میری پیاری بہنو! طلاق اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہے کہ اس سے دو خاندانوں کے درمیان عناد اور مخالفت پیدا ہوتی ہے لڑائی جھگڑے کے علاوہ بہت سے گناہوں کا سبب ہے۔ تعلقات ٹوٹتے اور خراب ہوتے ہیں جوڑ اور ربط محمود ہے اور اس کی تاکید ہے توڑ مزوم ہے اور اس پر سخت وعید ہے اسی وجہ سے طلاق کے مطالبہ پر سخت وعید ہے کہ ایسی عورت جنت کی خوشبو بھی نہ پائے گی جب کہ جنت کی خوشبو چالیس سال کی دوری سے آئے گی عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بیوی میں لڑائی ہوئی گھر یلو زندگی میں ایسی باتیں پیش آ جاتی ہیں سو عورت مارے غم کے کہتے ہے کہ ہمیں



چھوڑ دیجئے ہمارا رشتہ ختم کر دیجئے بسا اوقات شوہر غم اور غیظ میں ہونے کی وجہ سے کہتا ہے جاؤ، بیوی کو ہرگز زبان سے ایسی بات نہ نکالنی چاہئے جہاں مرد کو پریشانی بھگتنی پڑتی ہے۔

### دودھ پلانے کا ثواب

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب عورت بچہ جن دے تو اس کے دودھ کا قطرہ نکلتا ہے اور جو بچہ دودھ چوستا ہے تو ہر گھونٹ اور ہر قطرہ پر اسے نیکی ملتی ہے اور جب اس کی وجہ سے رات جاگتی ہے تو اسے ستر صحیح و سالم غلام خدا کی رہ میں آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔

(مختصر مجمع جلد ۲ صفحہ ۳۰۸)

### تشریح و تفصیل

خیال رہے کہ بچوں کی پرورش اور اس کی اچھی تربیت صدقہ جاریہ اور دین و دنیا میں اچھے نتائج کا باعث ہے اسلام کی بلند پایہ امور میں سے ہے کہ پرورش جو ماں کا ایک فطری تقاضا ہے جس کے کرنے کو وہ صحبہٴ مجبور ہے اس میں بھی اسے ثواب دیا گیا ہے دودھ کے ہر قطرے پر ایک نیکی اور اس کی وجہ سے جاگنے پر غلام آزاد کرانے کا ثواب کس قدر خدا کا کرم ہے۔ نئی تہذیب سے متاثر ہو کر بعض عورتیں دودھ پلانے کو صحت کے اعتبار سے نقصان دہ سمجھتی ہیں سو یہ غلط ہے فطرت خداوندی نے اس خاصیت سے عورتوں کو نوازا ہے طبی اعتبار سے تو عورتوں کی صحت اور اچھی ہوتی ہے ادھر بچہ کی صحت بھی اچھی رہتی ہے ماں کے دودھ میں جو محبت ہے وہ مصنوعی دودھ میں نہیں نہ پلانا دودھ کے لئے نقصان دہ ہے خدا رانہ تہذیب اور آزاد عورتوں کی روش اختیار نہ کرو دودھ پلاؤ شریعت کا حکم سمجھ کر پلاؤ ثواب پاؤ گی۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی پہلے کون عورت جنت میں جائے گی

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ محبوب رب العزت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کھولوں گا ہاں مگر یہ نہ ایک کو دیکھوں گا کہ وہ مجھ سے بھی آگے جا رہی ہوگی میں اس سے پوچھوں گا کیا بات ہے تم کون ہو (کہ مجھ سے بھی پہلے جنت میں جا رہی ہو) وہ کہے گی میں وہ عورت ہوں جو شوہر کی وفات کے بعد یتیم بچہ کی پرورش کی وجہ سے شادی سے رکی رہی۔ (اتحاف السادة ۵/۴۰۷، ابو یعلیٰ، مجمع الزوائد ۸/۱۶۲)

### تشریح و تفصیل

بڑی رحم قابل رشک دولت ہے کہ ایسی عورت جس نے فرائض واجبات کی پابندی کے ساتھ عفت کا لحاظ کرتے ہوئے ایک بچے یا بچی کی پرورش کی خاطر کہ یہ بچہ ٹھیک سے پلے پھولے جوانی کو اس تربیت میں قربان کر دیا۔

### عورتوں کو ضرورت پر باہر نکلنے کی اجازت

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں مگر شدید ضرورت کی بنیاد پر۔ (طبرانی کنز العمال جلد ۱۶ صفحہ ۱۶۳)

### تشریح و تفصیل

میری محترم اسلامی بہنو! اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں کو باہر نکلنے کی عام اجازت نہیں آج کل عورتوں کا باہر نکلنا بہت عام ہو گیا ہے بلا ضرورت یا معمولی ضرورت سے باہر بازاروں میں نکلتی رہتی ہیں ضرورت کا کام مرد کر سکتے ہیں مگر پھر بھی مردوں کی بجائے خود سے انجام دیتی ہیں مردوں کے کام پر انہیں اطمینان نہیں

ہوتا بلا ضرورت بازار کا حیلہ و بہانہ بنا کر پھرتی رہتی ہے۔

یہ شرافت و عفت کے خلاف ہے دوکان پر جو مردوں سے نقاب کھولے بے حیا بہ بلا جھجک بات کرتی پھرتی ہیں پردے اور عورتوں کے متعلق خاص سامان جو انوں سے بلا شرم و حیا خریدتی رہتی ہیں شریعت نے اس سے منع کیا ہے ہاں مگر ضرورت پر اجازت دی گئی ہے مرد نہ ہو مردوں سے متعلق کام نہ ہو تو عورتیں باہر جاسکتی ہیں مثلاً ڈاکٹر کے یہاں جانا ہو خود یا بچوں کو لے کر اور کوئی مرد نہ ہو تو جاسکتی ہے یا رشتہ داری میں کوئی بیماری ہو یا شادی بیاہ میں یا موت و ولادت میں جانے کی ضرورت پڑ جائے اور مرد نہیں تو جاسکتی ہیں اسی طرح اور کوئی ضرورت پڑ جائے اور کوئی باہر جانے والا نہ ہو نہ خادم لڑکا ہو تو بازار یا ضرورت کے کام سے جاسکتی ہے ہاں مگر ان تمام موقعوں پر پردے کا خیال رکھے چہرے کا نقاب نہ کھولے کہ فتنہ اور ہوائے نفس کا دور ہے خصوصاً نئی عمر اور جوان عورتوں کے لئے نقاب کھولنا درست نہیں نقاب گرائے معاملہ کرے۔

### دوپٹہ کیسا ہو

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ان اولین مہاجر عورتوں پر خدا کی رحمتیں نازل ہوں جب یہ آیت کہ اپنے سینوں پر ڈوپٹہ ڈال لیا کرو تو ان عورتوں نے اپنی (موٹی) چادروں کو کات کر دوپٹہ بنا لیا (اور ذرا پس و پیش نہیں کیا) بخاری جلد ۲ صفحہ ۷۰۰

### تشریح و تفصیل

ایسا دوپٹہ جس سے بال بدن کی کھال نظر آئے بدن اور اس کا رنگ ظاہر ہو بہنا جائز نہیں آج کل نئی تہذیب میں دوپٹہ یا تو بالکل ختم ہو گیا ہے یا نمائش کے طور پر باریک چھوٹا سا دوپٹہ جس سے نہ ستر ہوتا نہ پردہ اس سے تو نماز بھی درست نہیں ہوتی

بعض عورتیں نماز کے وقت تو دبیز دوپٹہ استعمال کرتی باقی اوقات میں باریک، سواگر گھر میں شوہر کے قابل پردہ شخص مثلاً دیور، خسر وغیرہ ہو تو یہ طریقہ بھی جائز نہیں۔

### کسی کو آگ کا یا ماچس وغیرہ دینے کا ثواب

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ محبوب رب العزت محسن انسانیت نے فرمایا جس نے کسی کو آگ دی گویا اس نے آگ پر سے پورے کھانے کا صدقہ کیا۔ (یعنی اس کا ثواب پایا / مجمع الزوائد صفحہ ۱۳۶)

### تشریح و تفصیل

گھویلو زندگی کے اعتبار سے کبھی کبھی آگ ماچس برتن وغیرہ کی ضرورت پیش آ جاتی ہے وقت پر نہ ملنے پر بڑی پریشانی ہوتی ہے اگرچہ یہ معمولی یا کم قیمت کی ہوتی ہے مگر بنیادی ضرورتوں میں ہوتی ہے سو اس کے دینے کا اتنا بڑا ثواب ہے۔

بعض عورتیں بڑی بخیل طبع کی ہوتی ہیں معمولی چیز شدت ضرورت کی وجہ سے مانگنے جاؤ جیسے آگ، ماچس کی تیلی، نمک وغیرہ تو انکار کر دیتی ہیں اور بعض تو طعن آمیز جملہ کہہ دیتی ہیں بڑی بڑی اور ثواب عظیم سے محرومی کی بات ہے اسی طرح مہمان آ جانے پر کوئی تکیہ، بستر اور چار پائی مانگ لے یا چاقو، کلہاڑی کدال وغیرہ حسب ضرورت مانگ لینے پر انکار کرنا ممنوع ہے۔

میری پیاری اسلامی بہنو! اس طرح کی پاکیزہ سوچ کہاں سے ملے گی دعوت اسلامی کے پیارے پیارے ماحول سے ملے گی۔

الحمد للہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، آپ سے بھی اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی مدنی التجاء ہے، عاشقانِ رسول صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم کے مدنی قافلے بھی سنتوں کی تربیت کے لئے قریہ قریہ، شہر شہر، ملک بملک سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر پر آمادہ کیجئے اور انہیں تیار کر کے مدنی مرکز بھیج دیجئے۔ آپ کے شفقت فرمانے سے اگر آپ کا کوئی عزیز مدنی قافلے کا مسافر بن گیا تو اُس کے ساتھ ساتھ آپ کا سینہ بھی مدینہ بن جائے گا۔

خوش نصیب اسلامی بہنیں فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات پر عمل کرتی ہیں، آپ بھی ۶۳ مدنی انعامات کا کارڈ حاصل کیجئے اور روزانہ اُسے پُر کرنے کا معمول بنائیے اور ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنی حلقہ ذمہ دار اسلامی بہن کو جمع کرواد دیجئے۔ ان شاء اللہ عزوجل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لئے کڑھنے کا ذہن بنے گا۔

ہر اسلامی بہن اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لئے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے۔ ان شاء اللہ عزوجل اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی سر بلندی کے لئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دعوتِ اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرمائے۔

اٰمِيْنُ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنِ

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ



## قابل رشک خواتین

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَاغُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

### ﴿فضیلت دوروپاک﴾

آقائے رحمت، مالکِ کوثر و جنت، حبیبِ رب العزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ بابرکت ہے: جب تم اذان سنو تو جیسے موذن کہے تم بھی کہتے جاؤ، پھر مجھ پر درود پڑھو کیونکہ جو مجھ پر ایک بار درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے وسیلے سے دعا کرو کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک مکان ہے وہ صرف ایک ہی بندے کے لئے بنایا گیا ہے اور مجھے اُمید ہے کہ وہ اللہ کا بندہ میں ہی ہوں، پس جو میرے وسیلے سے سوال کرے گا وہ میری شفاعت کو پالے گا۔

(آبِ كُوْثَرِ صَفْحَةِ ۷۵ بحوالہ سعادت الدارین صفحہ ۵۶)

تُو ہے بے تاب تو پڑھ سید عالم ﷺ پر درود

دل کی تسکین ثنا خوانی سرکار ﷺ میں ہے

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْبِ: صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ مُحَمَّدٍ ﷺ

صبر اور نماز سے مدد چاہو:

حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہما کے بیٹے محمد بن ابو بکر مصر میں ۳۸ھ میں شہید ہوئے! بعد شہادت دشمنوں نے ان کی لاش کو ایک گدھے کی کھال میں بند کر کے جلا دیا تھا! جب حضرت اسماء رضی اللہ عنہما کو اس کی اطلاع ملی تو آپ نے نہایت صبر سے کام لیا اور مصلے پر کھڑی ہو گئیں! اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا: **وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ** اور صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ (کنز الایمان پ ۱، بقرہ ۲۵)

ہماری اکابرین اللہ تعالیٰ کے دیگر احکامات کی طرح اس نامرن عالی شان پر بھی سختی کے ساتھ عامل تھیں۔ جیسا کہ واقعہ میں ذکر کیا گیا، نیز اسماء بنت عمیس کا اپنے بیٹے کی شہادت اور پھر اس کی لاش کے بے دردی کے ساتھ جلا دیئے جانے کی خبر سن کر صبر فرمانا اور پھر نماز کے لئے مصلے پر تشریف فرما ہونا ثابت کرتا ہے کہ انہیں اپنے غم سے زیادہ احکام خداوندی پر عمل پیرا ہونے کی فکر تھی۔ پیاری اسلامی بہنو! کاش! ہماری فکروں اور عمل میں بھی اسی جیسا انقلاب برپا ہو جائے اور بڑی سے بڑی مصیبت ہمیں ہوش و حواس سے بیگانہ کر کے اطاعت رب العلیٰ سے دور نہ کر سکے۔

صبر کی پہاڑ

طواف بیت اللہ کے دوران شیخ ابوالحسن سراج کی نظر ایک عورت پر پڑی! وہ نہایت حسین و جمیل اور خوب رو تھی۔ آپ نے فوراً نگاہیں ہٹاتے ہوئے اپنے آپ سے کہا! بخدا میں نے آج تک ایسا چہرہ نہیں دیکھا، شاید یہ اس کی خوشحالی اور فکر و غم سے آزادی کا نتیجہ ہے۔

عورت نے آپ کی یہ بات سن لی۔ اس نے کہا: آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ واللہ میں غموں سے چور چور ہوں اور میرا دل رنج و آلام سے زخمی ہے۔ آپ نے دریافت

فرمایا تجھے کون سا غم لاحق ہے؟ وہ بولی ایک دن میرے شوہر نے ایک بکری کو قربان کیا، قریب ہی میرے دونوں چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ایک شیرخوار میری گود میں تھا، میں کھانا پکانے میں مصروف ہو گئی، دونوں لڑکوں میں سے بڑے نے دوسرے سے کہا، میں تجھے بتاؤں کہ ابا جان نے بکری کو کیسے ذبح کیا؟ پھوٹے نے کہا: ہاں بتاؤ! بڑے نے چھری ہاتھ میں لی بھائی کو زمین پر لٹایا اور ذبح کر دیا۔ بھائی کا خون اور تڑپنا دیکھ کر خود پہاڑ پر بھاگ گیا اس کا باپ اس کی تلاش میں گیا مگر اسے نہ پاسکا، کیونکہ بھیڑیے نے اسے پھاڑ کھایا تھا۔ میرا شوہر بھی پہاڑ سے زندہ واپس نہ آسکا۔ پیاس کی شدت اور گرمی نے اس کی بھی جان لے لی۔ ذبح شدہ لڑکے کی آواز سن کر میں اسے دیکھنے گئی اور شیرخوار بچہ چولہے کے پاس چھوڑ گئی اس نے گرم ہانڈی اپنے اوپر انڈیل لی اور جل کر ہلاک ہو گیا۔

میرے ان تمام بچوں سے بڑی ایک بیٹی بھی تھی جس کی شادی ہو چکی تھی وہ اپنے شوہر کے گھر رہتی تھی۔ ان واقعات کی خبر اس کو پہنچی تو وہ صدمہ کو برداشت نہ کر سکی اور تڑپ تڑپ کر مر گئی اب صرف تنہا میں رہ گئی ہوں۔ جو ان تمام غموں کا بوجھ لئے زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔

آپ نے اس کی داستان غم سنی تو بے حد متعجب ہوئے اور پوچھا آخر تو نے ان تمام آزمائشوں پر صبر کیسے کر لیا؟ اس نے جواب دیا، جو بھی صبر اور بے صبری پر غور کرے گا۔ تو ان کو الگ الگ پائے گا۔ پس اگر خوشحال ظاہر کر کے صبر اختیار کیا تو اس کا انجام بہتر اور پھل میٹھا ہوگا اور اگر بے صبری میں مبتلا رہا تو اس کا انجام بُرا اور اجر و ثواب سے محروم رہے گا۔ لہذا میں بھی صبر کر رہی ہوں۔ اور ان مصیبتوں کے باعث پیدا ہونے والے آنسو میرے دل پر گر رہے ہیں اتنا کہہ کر وہ عورت آپ کے پاس سے رخصت ہو گئی۔ (روض الریاضین)



پیاری اسلامی بہنو! مصیبت پر صبر کرنا یقیناً بہت اہم و عظیم و باعث برکت کام ہے، اس کی عظمت کا اندازہ اس آیت پاک سے بخوبی لگایا جاسکتا ہے کہ

إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۗ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝

مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور اچھے کام کئے ان کے لئے بخشش اور بڑا

ثواب ہے۔ (کنز الایمان پ ۱۳، جودا ۱۱)

اس میں ثواب کی کثرت اور اس میں پوشیدہ عظمت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ جس پر بے شمار احادیث گواہ ہیں۔

جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابوسیف لوہار کے ہاں گئے جو کہ ابن رسول سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کے رضاعی والد تھے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صاحب زادے کو گود میں اٹھایا۔ انہیں چوما اور سونگھا۔ کچھ عرصے بعد ہم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دوبارہ وہاں گئے اس وقت حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ جان کنی کے عالم میں تھے۔ ان اس تکلیف میں مبتلاء دیکھ کر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔

حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت اقدس میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی اشک باری فرما رہے ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا: اے ابن عوف! یہ تو رحمت ہے (یعنی یہ شفقت کی بناء پر ہے بے صبری کا رونا نہیں)۔ یہ فرما کر دوبارہ رونے لگے، پھر فرمایا! بلاشبہ آنکھیں بہ رہی ہیں اور دل غمگین ہے مگر ہم وہی کریں گے جس سے ہمارا

رب عزوجل راضی ہو (یعنی ہم صبر فرمائیں گے) اے ابراہیم! ہم تمہاری جدائی سے غمگین ہیں۔ (بخاری و مسلم)

لہذا معلوم ہوا کہ صبر کرنا ہی ہمارے لئے باعث برکت ہے۔ اس کے برعکس بے صبری نہ صرف ثواب کو ضائع کر دیتی ہے بلکہ انسان اللہ تعالیٰ کے غضب میں بھی گرفتار ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ بڑا ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ملتا ہے اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کے ساتھ محبت فرماتا ہے تو انہیں آزمائشوں میں مبتلا کر دیتا ہے جو راضی ہوتا ہے (یعنی صبر کرتا ہے) تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور جو ناراض ہوتا ہے (یعنی بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے) تو اس کے لئے ناراضگی ہے۔ (ترمذی)

اس سے ہماری وہ مسلمان بہنیں درس عبرت حاصل فرمائیں جو اس قسم کے موقوں پر شکوہ شکایت کر کے اپنے نامہ اعمال کو سیاہ بلکہ بسا اوقات کلمات کفر تک کر دائرہ اسلام ہی سے خارج ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان بہن کو صبر و تحمل کا پہاڑ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔

### جنتی عورت

حضرت عطاء ابن رباح رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے فرمایا۔ کیا میں تجھے ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کیا ضرور دکھائیے ”فرمایا“ وہ سامنے کھڑی ہوئی حبشی عورت۔ اس نے ایک مرتبہ رسول پاک، نور مجسم، کائنات کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے جس کے باعث میرا ستر ظاہر ہو جاتا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لئے دعا

فرمادیتے تھے۔ رسول اللہ محسن انسانیت عظمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اگر تو چاہے تو صبر کر، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ تجھے جنت عطا فرمائے گا اور اگر پسند کرے تو اللہ تعالیٰ سے تیرے لئے عافیت و تندرستی کی دعا کروں اس عورت نے عرض کی میں ان شاء اللہ صبر کروں گی۔ لیکن آپ یہ دعا ضرور فرمادیتے تھے کہ اس حالت میں میرا ستر ظاہر نہ ہوا کرے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لئے حفاظت ستر کی دعا فرمائی (بخاری و مسلم)

### وضاحت

پیاری اسلامی بہنو! ان صحابیہ کا نام سقرہ یا سکیرہ یا شحیرہ تھا آپ بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بال بنایا کرتی تھیں چونکہ یہ ضعیف خاتون تھیں لہذا ابن عباس رضی اللہ عنہما کا انہیں دیکھنا یا دکھانا ممنوع نہ تھا کیونکہ ہدایہ شریف میں ہے اگر عورت بہت زیادہ بوڑھی ہو کہ جسے دیکھ کر شہوت پیدا نہ ہوتی ہو تو اس سے مصافحہ کرنے میں حرج نہیں (جب مصافحہ جائز ہو تو دیکھنا تو بدرجہ اولیٰ روا ہوگا)۔

پیاری اسلامی بہنو! صحابیات کریمہ رضی اللہ عنہن صحبت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اخروی انعامات کو ہمیشہ فوقیت دی کرتی تھیں کیونکہ انہیں بخوبی معلوم تھا اخروی انعام اسی کا عطا کیا جاتا ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی و خوش ہوتے ہیں اسی یقین نے مذکورہ صحابیہ رضی اللہ عنہا کو بیماری پر صبر کرنے کا حوصلہ و ہمت عطا فرمائی ہماری اسلاف کرام رضی اللہ عنہن ہمیشہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہا کرتی تھیں شکوہ شکایت کو کبھی بھول کر بھی زبان پر جاری نہ ہوتا تھا آپ کا بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بیماری کا ذکر کرنا بھی شکایت نہ تھا بلکہ فقط ستر کی حفاظت میں ناکامی کی بناء پر تھا۔

نیز ان پاکیزہ نفوس میں حیا کا مادہ بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا یہی وجہ تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنت کی بشارت حاصل کر لینے کے باوجود آپ نے ستر کے معاملے میں دوبارہ درخواست پیش کی نیز صحابیات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح معلوم تھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر دعا ضرور بارگاہ الہی سے قبولیت کا پروانہ لیکر تشریف لاتی ہیں اسی لئے وہ خصوصی دعائیں آپ ہی سے کروایا کرتی تھیں اور اسی دعا کے بعد ان کا دل مذکورہ مقصود کے حصول کے سلسلے میں بالکل مطمئن ہو جایا کرتا تھا حضرت (قدس سرہ) فرماتے ہیں۔

اجابت کا سیرا عنایت کا جوڑا

دہن بن کر نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا

بڑھی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ہمیں بھی چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور آزمائش آنے والی بیماریوں پر صبر و تحمل سے کام لیں کیونکہ صبر کے بدلے میں جنت کا ثواب صرف ان صحابیہ تک محدود نہ تھا بلکہ یہ انعام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر ایک امتی کے لئے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ

وَالْأَنْفُسِ وَالشَّمْرِاتِ ۗ وَبَشِيرِ الصَّابِرِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ

مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ

صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ ۖ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ۝

ترجمہ کنز الایمان: اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے

اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے اور خوش خبری سنا ان صبر

والوں کو کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑے تو کہیں ہم اللہ کے مال ہیں اور ہمکو اسی طرف پھرنا یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی دردیں ہیں اور رحمت اور یہی لوگ راہ پر ہیں۔

(ترجمہ کنز الایمان، پ ۲، بقرہ ۱۵۵-۱۵۷)

اس کے علاوہ اپنی اسلاف کرام رضی اللہ عنہم کی مثال ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں کے لئے ذہنی طور پر پہلے سے ہی تیار رہنا چاہئے۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کوئی اچانک آنے والی آفت بھی ہمیں شکوہ شکایت میں مبتلا نہ کروا کر صبر و تحمل کے لئے پایاں ثواب سے محروم نہیں کروا سکے گی اور یہ طریقہ اپنانا بھی باعث برکت رہے گا کہ اپنے دینی و دنیاوی معاملات میں آسانی و سہولیت کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقبول بندوں سے دعا کروائیں کیونکہ ان کی دعا اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کرنے میں زیادہ موثر ثابت ہوتی ہے۔

پیاری اسلامی بہنو! علاج کرانا سنت ضرور ہے، لیکن فرض و واجب نہیں، حتیٰ کہ اگر کسی نے علاج نہ کرایا اور اسی مرض میں اس کا انتقال ہو گیا تو نہ اسے خودکشی قرار دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی بروز قیامت اس سے باز برس ہوگی۔ فتاویٰ عالمگیری میں ہے؟ اگر کسی مریض نے بیماری میں علاج نہ کرایا اور مر گیا تو گناہ گار نہ ہوگا۔

بیماریوں کو عموماً اور بخار کو خصوصاً برا بھلا کہا جاتا ہے، کاش! ہم درج ذیل احادیث مبارکہ کو دل کی آنکھوں سے پڑھیں اور ہمیشہ کے لئے اس نادانی سے باز آ جائیں۔

(۱) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمایا ان عالیشان ہے کہ ”اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب میں اپنے بندوں میں سے کسی مومن بندے کو بیماری میں مبتلا کر دوں اور وہ اس مبتلا کرنے پر میری حمد کرے تو وہ اپنے بستر سے گناہوں سے یوں

پاک اٹھے گا جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔ (مسند امام احمد بن حنبل)

(۲) حضرت معاذ بن حنبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بیماری میں مبتلاء کرتا ہے تو بائیں والے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس سے قلم روک لے اور دائیں ہاتھ والے فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ میرے بندے کے لئے وہ عمل لکھو جو وہ (حالت صحت میں) بہتری عمل کرتا تھا۔

(۳) شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ”بخار، اس وقت تک بندے سے جدا نہیں ہوتا، جب تک کہ اسے گناہوں سے پاک و صاف نہ کر دے۔“

(۴) مروی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو بیمار دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، ”یارب کریم! اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔“ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ”میں اس پر اپنی دوسری رحمت کیا نازل کروں کیونکہ اس بیماری کے ذریعے میں اس پر رحم ہی تو کرنا چاہتا ہوں۔“ (مکافئۃ القلوب)

(۵) شہنشاہِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”مسلمان کو بیماری، غم و رنج حتیٰ کہ کانٹا لگنے سے بھی جو تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کی خطائیں مٹا دیتا ہے۔“ (بخاری و مسلم)

(۶) سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابیہ (رضی اللہ عنہا) کے پاس تشریف لائے، فرمایا ”تمہیں کیا ہوا جو کانپ رہی ہو؟“ عرض کیا ”مجھے بخار ہے اس کا ستیاناس ہو۔“ فرمایا بخار کو برانہ کہو یہ تو انسان کی خطائیں ایسے دور کرتا ہے جیسے بھٹی لوہے کے میل کو۔ (مسلم)

(۷) مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ زمانہ مبارکہ میں ایک شخص کا انتقال ہوا۔ تو ایک شخص بولا کہ ”اسے مبارک ہو کہ بیماری میں مبتلاء ہوئے، بغیر فوت ہو گیا۔“ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ”تجھ پر افسوس

ہے، تجھے کیا خبر کہ اگر اللہ تعالیٰ اسے کسی بیماری میں مبتلا فرماتا تو اس کے گناہ مٹا دیتا۔“

(۸) پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”کوئی مسلمان ایسا نہیں جسے کوئی بیماری یا تکلیف وغیرہ پہنچے مگر اللہ تعالیٰ اسکے گناہ یوں جھاڑ دیتا ہے جیسے درخت اپنے پتوں کو۔“ (مسلم)

اللہ تعالیٰ ہمیں بھی امراض پر صبر و تحمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین

بجاء النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم

جہنم کی آگ پر صبر نہیں ہو سکتا

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں سابقہ زمانے میں جب کوئی شخص روزی کمانے کے لئے سفر پر روانہ ہوتا تو اس کے گھر کی عورتیں عرض کرتیں ”صرف رزق حلال کے لئے کوشش کرنا حرام کی طرف نظر بھی نہ کرنا، کیونکہ ہم سے جہنم کی آگ پر صبر نہیں ہو سکتا۔“ (مکاشفۃ القلوب)

پیاری اسلامی بہنو! قرآن و حدیث کا گہری نظر سے مطالعہ اور پھر اس کی تعلیمات کو ذہن میں محفوظ رکھیں اور عمل کی سعادت حاصل کریں انسان کو ہر معاملے میں انتہائی محتاط اور تقویٰ و پرہیزگاری کے قریب کر دیتا ہے نیز اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر سخت سے سخت مشقت بھی پھول کی مانند محسوس ہوتی ہے۔

چونکہ ہماری رہنما اکابرین اسلام گھر کی عمدہ تربیت کی بناء پر شروع ہی سے شرعی احکام کو سیکھنے اور اپنی عملی زندگی پر نافذ کرنے کی عادی ہوتی تھیں لہذا انہیں زندگی کے کسی بھی موڑ پر نفس و شیطان کے ہاتھوں کھلونا نہیں بننا پڑتا تھا بلکہ وہ نہ صرف خود شیطان کی راہ میں سیسہ پلائی دیوار ثابت ہوتی تھیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کا حوصلہ

فراهم كرتى تھیں۔

زیر نظر واقعہ میں ان كى بہترین تربیت كے عمدہ نتیجے اور نفس و شیطان كى راہ میں زبردست ركاوٹ بننے كا بیان ہے۔

رزقِ حلال كے بارے میں ان خواتین كى تلقین اور جہنم كى آگ پر صبر نہ كر سکنے كا اقرار درج ذیل آیات و احادیث كى بناء پر تھا۔

(۱) شاہ كونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیت المقدس میں ایک فرشتہ ہر شب یہ آواز دیتا ہے كہ جو حرام كھاتا ہے اللہ تعالیٰ نہ اس كا فرض قبول كرتا ہے نہ سنت (كیمیائے سعادت)

(۲) سركارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو گوشت حرام سے اگا ہے اس كے لئے آگ زیادہ بہتر ہے۔ (بیہقی)

(۳) سرورِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا كہ جو بندہ مالِ حرام حاصل كرتا ہے تو اگر صدقہ كرے تو مقبول نہیں اور خرچ كر دے تو اس كے لئے اس میں برکت نہیں اور چھوڑ كر مرے گا تو جہنم میں جانے كا سامان ہے اللہ تعالیٰ برائى كو نہیں مٹاتا ہاں نیكى سے برائى كو مٹا دیتا ہے بے شك كوئى خبیث كو خبیث نہیں مٹاتا۔

(مسند امام احمد بن حنبل)

اللہ تعالیٰ نے قرآنِ پاک میں ارشاد فرمایا!

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرٌ ۚ لَا تَبْقَىٰ وَ لَا تَدْرُ ۚ لَوْ أَحَآةٌ لِّلْبَشَرِ ۚ

ترجمہ: ”اور تم نے كیا جانا دوزخ كیا ہے نہ (كسى مستحق عذاب كو)

چھوڑنے نہ (كسى كے بدن پر گوشت وكھال) لگی ركھے آدمى كى كھال

اتار لیتی ہے“۔ (ترجمہ كنز الایمان پ ۲۹، الحدیث ۲۷-۲۹)

مزید ارشاد فرمایا!



إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۝ لِلطَّغِينِ مَابًا ۝ لِيُغْنِيَ فِيهَا أَحْقَابًا ۝  
لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۝ إِلَّا حَمِيمًا مُّغْتَابًا ۝ غَسَّاقًا ۝ جَزَاءً  
وَفَاقًا ۝

ترجمہ: ”بے شک جہنم تاک میں ہے، سرکشوں کا ٹھکانا اس میں قرونوں  
رہیں گے، اس میں کسی طرح ٹھنڈک کا مزہ نہ پائیں گے اور نہ کچھ پینے کو  
مگر کھولتا پانی اور روزخیوں کا پیپ جیسے کو تیسابدلہ۔

(ترجمہ کنز الایمان پ ۳۰ النبا ۲۱-۲۶)

لیکن افسوس! کہ ہمارے موجودہ دور کی مسلمان بہنوں کی صورت حال بے حد  
خراب ہے۔ کیونکہ سب سے پہلے تو ہوش سنبھالتے ہی گھر میں تنگی کا رونا سننے کو ملتا ہے  
گھر کے مردوں سے مختلف قسم کی فرمائشوں اور دنیا کے نامعقول تقاضوں کی تکمیل کی  
خاطر حلال و حرام کی تمیز بھلا کر زیادہ سے زیادہ کمانے کے ایسے مطالبے روز کا معمول  
نظر آتا ہے۔ جن کے پورا نہ ہونے کی بناء پر سرپرستِ اعلیٰ کو طعنوں کا شکار بنتے دیکھا  
جاتا ہے لہذا شروع ہی سے بچیوں کا ذہن بھی کچھ اسی قسم کا بن جاتا ہے پھر والدین عموماً  
دین کی تعلیم کو قرآن کی عبارتِ عربی پڑھا دینے تک محدود کرنے کے عادی ہوتے ہیں  
لہذا شرعی امکانات سے بھی ناواقف رہتی ہے۔

پیاری اسلامی بہنو! اب جب گھر میں میدان جنگ کے مناظر دیکھئے اور علم دین  
کی عمل تربیت اسے یہاں بھی پریکٹیکل کرنے پر مجبور کر دیتی ہے چنانچہ زبردست باطنی  
تقاضے کی بناء پر اس کی زبان سے بھی بالکل ویسے ہی مطالبات جاری ہوتے ہیں جو وہ  
اپنے گھر کی خواتین کو کرتے دیکھتی رہی ہے نتیجہ یا تو لڑائی جھگڑے روز کا معمول بن  
جاتے ہیں یا علیحدگی ہو جاتی ہے اور پھر یا شوہر حرام روزی کمانے کی جانب مائل ہو کر  
گھر بھر کو جہنم کا راستہ دکھانا شروع ہو جاتا ہے کاش! روزی کے معاملے میں ہمیں اپنے

رب کریم کے وعدوں پر کامل یقین ہوتا جس کی برکت سے ہمارے قلوب مطمئن اور زبانیں شکوہ شہایات سے ہمیشہ کے لئے رک جاتیں۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا!

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا ۖ لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكَ ۗ

ترجمہ: ”اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہ کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے ہم تجھے روزے دیں گے۔“

(ترجمہ کنز الایمان پ ۱۶ ط ۱۳۲)

لَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ اِمْلَاقٍ ۗ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ ۗ

ترجمہ: اپنی اولاد قتل نہ کرو، مفلسی کے باعث، ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے۔ (ترجمہ کنز الایمان پ ۸ الانعام ۱۵۱)

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

ترجمہ: ”اللہ تعالیٰ ہمیں حلال روزی پر قناعت نصیب فرمائے۔“ آمین

(ترجمہ کنز الایمان پ ۱۲ صود ۶)

• بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم

الحمد للہ! تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، آپ سے بھی اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی مدنی التجاء ہے، عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی قافلے بھی سنتوں کی تربیت کے لئے قریہ قریہ، شہر شہر، ملک بملک سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر پر آمادہ کیجئے اور انہیں تیار کر کے مدنی مرکز بھیج دیجئے۔ آپ کے شفقت فرمانے سے اگر

اپ کا کوئی عزیز مدنی قافلے کا مسافر بن گیا تو اُس کے ساتھ ساتھ آپ کا سینہ بھی مدینہ بن جائے گا۔

خوش نصیب اسلامی بہنیں فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات پر عمل کرتی ہیں، آپ بھی ۶۳ مدنی انعامات کا کارڈ حاصل کیجئے اور روزانہ اُسے پُر کرنے کا معمول بنائیے اور ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنی حلقہ ذمہ دار اسلامی بہن کو جمع کروا دیجئے۔ ان شاء اللہ عزوجل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لئے کڑھنے کا ذہن بنے گا۔

ہر اسلامی بہن اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کے لئے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے۔ ان شاء اللہ عزوجل اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی سر بلندی کے لئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دعوتِ اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرمائے۔

اٰمِيْنُ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنِ

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

## اولاد کی تربیت و اہمیت

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ! فَاغُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

### ﴿فضیلتِ دورد پاک﴾

سرکارِ دو عالم، نورِ مجسم، رسولِ محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ معظم ہے: جس نے دن اور رات میمیری طرف شوق اور محبت کی وجہ سے تین تین بار دُرد و سلام پڑھا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اُس کے اُس دن اور رات کے گناہ معاف فرمادے۔

(الترغیب والترہیب، جلد ۲ صفحہ ۳۲۸)

دُکھوں نے تم کو جو گھیرا ہے تو دُرد پڑھو

جو حاضری کی تمنا ہے تو دُرد پڑھو

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الحمد للہ عزوجل ہم سب سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا دم بھرتی ہیں،

دن رات اُن پر دُرد و سلام پڑھتی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ

میں نذرانہ عقیدت پیش کرتی اور بیٹھے مدینے کی حاضری کے لئے بے قرار رہتی ہیں۔

## اولاد کیسی ہونی چاہئے؟

میٹھی میٹھی اسلامی بہنو!

یقیناً وہی اولاد اخروی طور پر نفع بخش ثابت ہوگی جو نیک و صالح ہو اور یہ حقیقت بھی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں کہ اولاد نیک یا بد بنانے میں والدین کی تربیت کا بڑا دخل ہوتا ہے! ایک مرتبہ ایک مجرم کو تختہ دار پر ٹھکایا جانے والا تھا۔ جب اس سے اس کی آخری خواہش پوچھی گئی تو اس نے کہا: کہ میں اپنی ماں سے ملنا چاہتا ہوں۔ اس کی یہ خواہش پوری کر دی گئی۔ جب ماں اس کے سامنے آئی تو وہ اپنی ماں کے قریب گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کان نوچ ڈالا۔ وہاں پر موجود لوگوں نے اس سرزنش کی کہ نا معقول ابھی جبکہ تو پھانسی کی سزا پانے والا ہے تو نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ مجھے پھانسی کے تختے تک پہنچانے والی یہی میری ماں ہے۔ کیونکہ میں بچپن میں کسی کے کچھ پیسے چرا کر لایا تھا۔ تو اس نے مجھے ڈانٹنے کی بجائے میری حوصلہ افزائی کی اور یوں میں جرائم کی دنیا میں آگے بڑھتا چلا گیا۔ اور انجام کار آج مجھے پھانسی دے دی جائے گی۔

(ماحوذ از ”اولاد بگڑے کے اسباب“ بیان امیر اہلسنت مدظلہ العالی)

اس کے برعکس ماں کی بیک تربیت کی برکت پر مشتمل حکایت بھی ملاحظہ کیجئے! ایک قافلہ گیلان سے بغداد کی طرف رواں دواں تھا۔ جب یہ قافلہ ہمدان شہر سے روانہ ہوا تو جیسے ہی جنگل شروع ہوا ڈاکوؤں کا ایک گروہ نمودار ہوا اور قافلے والوں سے مال و اسباب لوٹنا شروع کر دیا۔ اس قافلے میں ایک نوجوان بھی تھا۔ جس کی عمر ۱۸ سال کے لگ بھگ تھی ایک راہزن اس نوجوان کے پاس آیا اور کہنے لگا۔ صاحب زادے! تمہارے پاس بھی کچھ ہے نوجوان بولا! میرے پاس چالیس دینار ہیں جو کپڑوں میں سلے ہوئے ہیں۔ راہزن نے کہا کہ ”صاحب زادے! مذاق نہ کرو سچ سچ

بتاؤ؟ نو جوان نے بتایا میرے پاس واقعی چالیس دینار ہیں یہ دیکھو میری بغل کے نیچے دیناروں والی تھیلی کپڑوں میں سلی ہوئی ہے۔ راہزن نے دیکھا تو حیران رہ گیا اور نو جوان کو اپنے سردار کے پاس لے گیا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ سردار نے کہا: نو جوان کیا بات ہے لوگ تو ڈاکوؤں سے اپنی دولت چھپاتے ہیں مگر تم نے سختی کئے بغیر اپنی دولت ظاہر کر دی؟ نو جوان نے کہا: میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت فرمائی تھی کہ ”بیٹا! ہر حال میں سچ بولنا۔ بس میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھارہا ہوں۔ نو جوان کا یہ بیان تاثیر کا تیر بن کر ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گیا اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا جھلکنے لگا۔ اس کا سویا ہوا مقدر جاگ اٹھا۔ وہ کہنے لگا۔ صاحبزادے تم کس قدر خوش نصیب ہو کہ دولت لٹنے کی پرواہ کئے بغیر اپنی والدہ کے ساتھ کئے ہوئے وعدے کو نبھار رہے ہو اور میں کس قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کئے ہوئے وعدے کو پامال کر رہا ہوں اور مخلوق خدا کا دل دکھا رہا ہوں۔“ یہ کہنے کے بعد ساتھیوں سمیت سچے دل سے تائب ہو گیا اور لوٹا ہوا سارا مال واپس کر دیا۔

(تاریخ مشائخ قادریہ، جلد اول، ص ۲۱ تا ۲۲، بیہنہ الاسراء، ذکر طریقہ رضی اللہ عنہ، ص ۱۶۸ ماخوذ)

### نامساعد حالات اور بگڑی ہوئی اولاد:

پیاری اسلامی بہنو! موجودہ حالات میں افلاقی قدروں کی پامالی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں۔ نیکیاں کرنا بے حد دشوار اور ارتکاب گناہ بہت آسان ہو چکا ہے۔ مسجدوں کی ویرانی اور سینما گھروں و ڈرامہ تھیٹروں کی رونق، دین کا در در کھنے والوں کو آٹھ آٹھ آنسو لاتی ہے۔ ٹی وی، وی سی آر، ڈش انٹینا، انٹرنیٹ اور کیبل کا غلط استعمال کرنے والوں نے اپنی آنکھوں سے حیا و دھو ڈالی ہے، تکمیل ضروریات و حصول سہولیات کی جدوجہد نے انسان کو فکر آخرت سے یکسر غافل کر دیا ہے، یہی وجہ ہے دنیاوی شان و

شوكت اور ظاهرى آن بان مسلمانوں كے دلوں كو اپنا گرویدہ بنا چكى ہے مگر افسوس! اپنى قبر كو گلزارِ جنت بنانے كى تمنا دلوں ميں گھر نہیں كرتى۔ ان نا مساعد حالات كا ايك بڑا سبب والدین كا اپنى اولاد كى مدنى تربيت سے غافل ہونا بھی ہے كيونكه فرد سے افراد اور افراد سے معاشرہ بنتا ہے تو جب فرد كى تربيت صحیح خطوط پر نہیں ہوگى تو اس كے مجموعے سے تشكيل پانے والا معاشرہ زبوں حالى سے كس طرح محفوظ رہ سكتا ہے۔

جب والدین كا مقصد حيات حصولِ دولت، آرامِ طلبى، وقت گزارى اور عيش كوشى بن جائے تو وہ اپنى اولاد كى كيا تربيت كريں گے اور جب تربيت اولاد سے بے اعتبارى كے اثرات سامنے آتے ہیں تو یہى والدین ہر كس و نا كس كے سامنے اپنى اولاد كے بگڑنے كا رونا روتے دکھائى ديتے ہیں ایسے والدین كو غور كرنا چاہئے كه اولاد كو اس حال تك پہنچانے ميں ان كا كتنا ہاتھ ہے كيونكه انہوں نے اپنے بچے كو ABC بولنا سكھایا مگر قرآن مجيد پڑھنا نہ سكھایا۔ مغربى تہذيب كے طور طریقے تو سمجھائے، مگر رسول عربى صلى اللہ علیہ وآلہ وسلم كى سنتیں نہ سكھائیں، جنرل نالج (معلوماتِ عامہ) كى اہميت پر اس كے سامنے گھنٹوں كلام كيا مگر فرض دینى علوم كے حصول كى رغبت نہ دلائی، اس كے دل ميں مال كى قيمت تو ڈالى مگر عشق رسول صلى اللہ علیہ وآلہ وسلم كى شمع فروزاں نہ كى اسے دنياوى ناكامیوں كا خوف تو لایا مگر امتحان قبر و حشر ميں ناكامى سے وحشت نہ دلائی، اسے ہائے ہیلو كہنا تو سكھایا مگر سلام كرنے كا طريقہ نہ بتایا۔ ارتكاب گناہ كى مادر پدر آزادى اور لہو و لعب كے طرح طرح كے آلات كا بلا روك ٹوك استعمال، كیبل، وى سى آر كى كارستانیاں، رقص و سرور كى محفلوں ميں انہماك اور بگڑا ہوا گھریلو ماحول، یہ سب كچھ بچے كى طبیعت ميں شیطانی و نفسانى كوا تفاق دور كر دیتا ہے كه اس سے پاكیزہ كردار كى توقع بھی نہیں كى جاسكتى جسے گندے نالے ميں ڈپكى لگانى والے كے جسم كى طہارت كا تصور بھی نہیں كىا جاسكتا۔

## اولاد کے بگڑنے کا ذمہ دار کون؟

پیاری اسلامی بہنو! عموماً دیکھا گیا ہے کہ بگڑی ہوئی اولاد کے والدین اس کی ذمہ داری ایک دو نرے پر عائد کر کے خود کو بری الذمہ سمجھتے ہیں مگر یاد رکھئے اولاد کی تربیت صرف ماں یا محض باپ کی نہیں بلکہ دونوں کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا  
أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ۝

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والوں اپنی جانو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں اس پر سخت کرے (طاقتور) فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کا حکم نہیں ٹالتے اور جو انہیں حکم ہو وہی کرتے ہیں۔

جب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے تلاوت کی تو وہ یوں عرض گزار ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے کس طرح بچا سکتے ہیں؟ سرکار مدینہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”تم اپنے اہل و عیال کو ان چیزوں کا حکم دو جو اللہ عز و جل کو محبوب ہیں اور ان کاموں سے روکو جو رب تعالیٰ کو ناپسند ہیں۔“

(الدار المعرفہ للسیوطی ج ۸، ص ۲۲۵)

اور حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے۔ ”تم سب نگران ہو اور تم میں سے ہر ایک سے اس کے ماتحت افراد کے بارے میں پوچھا جائے گا بادشاہ نگران ہے اس سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا



جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے گھر اور اولاد کی نگران ہے اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔“

(صحیح البخاری، کتاب العتق، باب کراہتہا الاطاول، الخ الحدیث ۲۵۵۴، ج ۲، ص ۱۵۹)

## تربیت اولاد کی اہمیت

پیاری اسلامی بہنو! اگر ہم اسلامی اقدار کے حامل ماحول کی متمنی (یعنی خواہش مند) ہیں تو ہمیں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کی مدنی تربیت بھی کرنے ہو گی کیونکہ اگر ہم تربیت اولاد کی اہم ذمہ داری کو بوجھ تصور کر کے اس سے غفلت برتتے رہے اور بچوں کو ان خطرناک حالات میں آزاد چھوڑ دیا تو نفس و شیطان انہیں اپنا آلہ کار بنا لیں گے۔ جس کا نتیجہ یہ ہو گا۔ کہ نفسانی خواہشات کی آندھیاں انہیں صحرائے عصیاں (یعنی گناہوں کے صحرا) میں سرگردان رکھیں گی اور وہ عمر عزیز کے چار دن آخرت بنانے کی بجائے دنیا جمع کرنے میں صرف کر دیں گے اور یوں گناہوں کا انبار لئے وادی موت کے کنارے پہنچ جائیں گے رحمت الہی عزوجل شامل حال ہوئی تو مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق مل جائے گی وگرنہ دنیا سے کف افسوس ملتے ہوئے نکلیں گے اور قبر کے گڑھے میں جاسوئیں گے۔ سوچئے تو سہی کہ جب بچوں کی مدنی تربیت نہیں ہوگی۔ تو وہ معاشرے کا بگاڑ دور کرنے کے لئے کیا کردار ادا کر سکیں گے۔ جو خود ڈوب رہا ہو وہ دوسروں کو کیا بچائے گا۔ جو خود خواب غفلت میں ہو وہ دوسروں کو کیا بیدار کرے گا۔ جو خود پستیوں کی طرف محوسفر ہو وہ کسی کو بلندی کا راستہ کیونکر دکھائے گا۔

سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے!

سونے والو جاگتے رہو چوروں کی رکھوالی ہے

(حدائق بخشش)

صاحب اولاد اسلامی بہنو! آپ کی اولاد، آپ کی جگر کا ٹکڑا اور اپنی ماں کی آنکھوں کا نور سہی لیکن اس سے پہلے اللہ عزوجل کا بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی اور اسلامی معاشرے کا اہم فرد ہے اگر آپ کی تربیت اسے اللہ عزوجل کی بندگی، سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اور اسلامی معاشرے میں اس کی ذمہ داری نہ سکھاسکی تو اسے اپنا فرمان بردار بنانے کا خواب دیکھنا بھی چھوڑ دیجئے کیونکہ یہ اسلام ہی ہے جو ایک مسلمان کو اپنے والدین کا مطیع و فرمان بردار بننے کی تعلیم دیتا ہے اس لئے اولاد کی ظاہری زیب و زینت، اچھی غذا اچھے لباس اور دیگر ضروریات کی کفالت کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی و روحانی تربیت کے لئے بھی کمر بستہ ہو جائے۔

کیا بیٹا بھی باپ کو مارتا ہے؟

تنبیہ الغافلین میں ہے کہ سمرقند کے ایک عالم ابو حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا۔ میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے اور تکلیف دی ہے۔ انہوں نے حیرانگی سے پوچھا۔ کیا کبھی بیٹا بھی باپ کو مارتا ہے؟ اس نے جواب دیا جی ہاں! ایسا ہوا ہے۔ ابو حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دریافت کیا: کیا تو نے اسے علم و ادب سکھایا ہے؟ اس شخص نے نفی میں جواب دیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا۔ قرآن کریم سکھایا ہے؟ اس نے پھر نفی میں جواب دیا تو آپ نے پوچھا: پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے بتایا۔ وہ کھیتی باڑی کرتا ہے ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: کیا تجھے معلوم ہے کہ اس نے تجھے کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر چوٹ کی۔ میرا خیال تو یہ ہے کہ جب صبح کے وقت وہ گدھی پر سوار ہو کر کھیت کی طرف جا رہا ہوگا۔ بیل اس کے آگے اور کتا اس کی پیچھے ہوگا۔ قرآن اسے پڑھنا آتا نہیں لہذا وہ کچھ گنگنارہا ہوگا۔ ایسے میں تم اس کے سامنے آئے ہو گے۔ اس نے سمجھا ہوگا کہ گائے ہے اور تمہارے سر پر کوئی چیز دے ماری ہوگی۔ شکر کرو کہ تمہارا سر نہیں

پھوڑ ويا۔ (تنبیہ الغافلین، باب حق الولد علی ص ۱۶۸)

## بچوں كى تربيت كب شروع كى جائے

والدین كى ايك تعداد ہے جو اس انتظار میں رہتی ہے كہ ابھی تو بچہ چھوٹا ہے جو چاہے كے تھوڑا بڑا ہو جائے تو اس كى اخلاقی تربيت شروع كریں گے ایسے والدین كو چاہئے كہ بچپن ہی سے اولاد كى تربيت پر بھرپور توجہ دیں كیونكہ اس كى زندگی كے ابتدائی سال بقیہ زندگی كے لئے بنیاد كى حیثیت ركھتے ہیں اور یہ بھی ذہن میں رہے كہ پائیدار عمارت مضبوط بنیاد پر ہی تعمیر كى جاسكتی ہے۔ جو كچھ بچہ اپنے بچپن میں سیکھتا ہے وہ ساری زندگی اس كے ذہن میں راسخ رہتا ہے كیونكہ بچے كا دماغ مثل موم ہوتا ہے اسے جس سانچے میں ڈھالنا چاہیں ڈھالا جاسكتا ہے۔

بچے كى یادداشت ايك خالی تختی كى مانند ہوتی ہے اس پر جو لكھا جائے گا ساری عمر كے لئے محفوظ ہو جائے گا بچے كا ذہن خالی كھیت كى مثل ہے اس میں جیسا بیج بوئیں گے اسی معیار كى فصل حاصل ہوگی یہی وجہ ہے كہ اگر اسے بچپن ہی سے سلام كرنے میں پہل كرنے كى عادت ڈالی جائے تو وہ عمر بھر اس عادت كو نہیں چھوڑتا اگر سچ بولنے كى عادت ڈالی جائے تو وہ ساری عمر جھوٹ سے بیزار رہتا ہے اگر اُسے سنت كے مطابق كھانے پینے، بیٹھنے جوتا پہننے۔ لباس پہننے، سر پر عمامہ باندھنے اور بالوں میں كنگھی وغیرہ كرنے كا عادى بنا دیا جائے تو وہ نہ صرف خود ان پاكیزہ عادات كو اپنائے ركھتا ہے بلكہ اس كے یہ مدنی اوصاف اس كى صحبت میں رہنے والے دیگر بچوں میں بھی منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔

تربيت كرنے والے كو كیسا ہونا چاہئے

پیارى اسلامى بہنو! اسلامى خطوط پر تربيت اولاد كا خواب اسى وقت شرمندہ تعمیر

ہو سکتا ہے جب اس کے والدین اور گھر کے دیگر افراد قدر کفایت علم دین کے حامل ہوں بلکہ اس پر عامل بھی ہوں کیونکہ جس کی اپنی نماز درست نہیں وہ کسی کو درست نماز پڑھنا کیسے سکھائے گا جو خود کھانے پینے، لباس پہننے اور دیگر کاموں کو سنت کے مطابق کرنے کا عادی نہیں وہ اپنی اولاد کو سنتوں کا عامل کس طرح بنائے گا جو خود روزے وغیرہ کے مسائل نہیں جانتا وہ اپنی اولاد کو کیا سکھائے گا۔ علیٰ ہذا القیاس

تربیت کرنے والوں کے قول و فعل میں پایا جانے والا تضاد بھی بچے کے ننھے ذہن کے لئے بے حد باعث تشویش ہوگا کہ ایک کام یہ خود تو کرتے ہیں مثلاً جھوٹ بولتے ہیں آپس میں جھگڑتے ہیں مگر مجھے منع کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اپنے بڑوں کو کوئی نصیحت اس کی دل میں گھر نہ کر سکے گی الغرض تربیت اولاد کے لئے والدین کا اپنا کردار بھی مثال ہونا چاہئے اس کے ساتھ ساتھ گھریلو ماحول کا بھی بچوں کی زندگی پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے اگر گھر والے نیک سیرت شریف اور خوش اخلاق ہوں گے تو ان کے زیر سایہ پلنے والے بچے بھی حسن اخلاق کے پیکر اور کردار کے غازی ہوں گے اس کے برعکس شرابی عیاش اور گالم گلوچ کرنے والوں کے گھر میں پرورش پانے والا بچہ ان ناپاک اثرات سے محفوظ نہیں رہ سکتا الغرض بچوں کی تربیت صرف پڑھانے پر موقوف نہیں ہوتی بلکہ مختلف رویوں باتوں اور باہمی تعلقات سے بھی بچوں کی ذہنی تربیت ہوتی ہے۔

### مثالی کردار کیسے اپنائیں

اس مدنی و مثالی کردار کے حصول کے لئے والدین کو پریشان ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں الحمد للہ عزوجل! تبلیغ قرآن و سنت کے عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی سے وابستہ ہونے کی برکت سے اعلیٰ اخلاقی اوصاف غیر محسوس طور پر ان کے کردار کا حصہ بنتے چلے جائیں گے اس کے لئے گھر کے مردوں بالخصوص بچوں کے ابو

کو چاہئے کہ وہ اپنے شہر میں ہونے والے دعوتِ اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کرنے اور راہِ خدا عزوجل میں سفر کرنے والے عاشقانِ رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کرے ان مدنی قافلوں میں سفر کی برکت سے اپنے سابقہ طرزِ زندگی پر غور و فکر کا موقع ملے گا اور دلِ حسنِ عاقبت کے لئے بے چین ہو جائے گا جس کے نتیجے میں ارتکابِ تباہ کی کثرت پر ندامت محسوس ہوگی اور توبہ کی توفیق ملے گی عاشقانِ رسول کے مدنی قافلوں میں مسلسل سفر کرنے کے نتیجے میں زبان پر فحش کلامی اور فضول گوئی کی جگہ دُرودِ پاک جاری ہو جائے گا یہ تلاوتِ قرآن، حمدِ الہی عزوجل اور نعتِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادی بن جائے گی غصے کی عادت رخصت ہو جائے گی اور اس کی جگہ نرمی لے لے گی بے صبری کی عادت ترک کر کے صابر و شاکر رہنا نصیب ہوگا تکبر سے جان چھوٹ جائے گی اور احترامِ مسلم کا جذبہ ملے گا دنیاوی مال و دولت کی لالچ سے پیچھا چھوٹے گا اور نیکیوں کی حرص ملے گی الغرض بار بار راہِ خدا عزوجل میں سفر کرنے والے کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا اور ان شاء اللہ عزوجل کی مدنی تربیت کا جذبہ بھی نصیب ہوگا۔ بطورِ ترغیب مدنی قافلے کی ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کی جاتی ہے چنانچہ شاہدِ رہ کے ایک اسلامی بھائی کا بیان کا لب لباب ہے، میں اپنے والدین کا اکابر بنا بیٹا تھا۔ زیادہ لاڈ پیار نے مجھے حد درجہ ڈھیٹ اور ماں باپ کا سخت نافرمان بنا دیا تھا۔ رات گئے تک آوارہ گردی کرتا اور صبح دیر تک سویا رہتا۔ ماں باپ سمجھاتے تو ان کو جھاڑ دیتا اور بے چارے بعض اوقات رو پڑتے، دعائیں مانگتے مانگتے ماں کی پلکیں بھیگ جاتیں۔ اُس عظیم لمحے پر لاکھوں سلام جس لمحے۔ میں مجھے دعوتِ اسلامی والے ایک عاشقِ رسول سے ملاقات کی سعادت ملی اور اُس نے محبت اور پیار سے انفرادی کوشش کرتے ہوئے مجھ پاپی و بدکار کو مدنی قافلے میں سفر کے لئے تیار کیا۔ چنانچہ میں عاشقانِ رسول کے ہمراہ تین دن کے مدنی

قافلے کا مسافر بن گیا۔ نہ جانے ان عاشقانِ رسول نے تین دن کے اندر کیا گھول کر پلا دیا کہ مجھے جیسے ڈھیٹ انسان کا پتھر نما دل جو ماں باپ کے آنسوؤں سے بھی نہ پگھلتا تھا۔ موم بن گیا۔ میرے قلب میں مدنی انقلاب برپا ہو گیا۔ اور میں مدنی قافلے سے نمازی بن کر لوٹا۔ گھر آ کر میں نے سلام کیا۔ والد صاحب کی دست بوسی کی اور امی جان کے قدم چومے۔ گھر والے حیران تھے۔ اس کو کیا ہو گیا ہے کہ کل تک جو کسی کی بات سننے کے لئے تیار نہیں تھا وہ آج اتنا باادب بن گیا ہے۔ الحمد للہ عزوجل مدنی قافلے میں عاشقانِ رسول کی محبت نے مجھے یکسر بدل کر رکھ دیا اور یہ بیان دیتے وقت مجھ سابقہ بے نمازی کو مسلمانوں کو نماز فجر کے لئے جگانے یعنی صدائے مدینہ لگانے کی ذمہ داری ملی ہوئی ہے۔

اگرچہ اعمال بد اور افعال بد نے ہے رسوا کیا قافلے میں چلو!

کر سفر آؤ گے تم سدھر جلو گے مانگو چل کر دعا قافلے میں چلو!

اپنی اولاد کی بہتر تربیت کا ذہن پانے کے لئے بچوں کی امی کو چاہئے کہ اپنے شہر میں ہونے والے اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی سے شرکت کریں۔ ان شاء اللہ عزوجل ان کی زندگی میں بھی مدنی انقلاب برپا ہو جائے گا۔ الحمد للہ عزوجل سنتوں بھری زندگی گزارنے کے لئے عبادات و اخلاقیات کے تعلق سے امیر اہل سنت، شیخ طریقت، بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اسلامی بہنوں کے لئے ۶۳ اور اسلامی بھائیوں کے لئے ۷۳ اور طلبہ علم دین کے لئے ۹۲، دینی طالبات کیلئے ۸۳ اور مدنی منوں اور منیوں کے لئے ۴۰ مدنی انعامات کو اپنا لینے کے بعد نیک بننے کی راہ میں حائل رکاوٹیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بتدریج دور ہو جاتی ہیں اور اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لئے کڑھنے کا

ذہن بنتا ہے۔ ہمیں چاہئے کہ باکردار مسلمان بننے کے لئے مکتبہ المدینہ کی کسی بھی شاخ سے مدنی انعامات کا کارڈ حاصل کریں اور روزانہ فکر مدینہ (یعنی اپنا محاسبہ) کرتے ہوئے کارڈ پُر کریں اور ہر مدنی یعنی قمری ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے مدنی انعامات کے ذمہ دار کو جمع کروانے کا معمول بنالیں۔ مدنی انعامات نے نہ جانے کتنے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا ہے۔ اس کی ایک جھلک ملاحظہ ہو۔

### نماز باجماعت کے پابند ہو گئے

نیو کراچی کے ایک اسلامی بھائی کا کچھ اس طرح کا بیان ہے علاقے کی مسجد کے امام صاحب جو کہ دعوتِ اسلامی سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے انفرادی کوشش کرتے ہوئے میرے بڑے بھائی جان کو مدنی انعامات کا ایک کارڈ تحفے میں دیا۔ وہ گھر لے آئے اور پڑھا تو حیران رہ گئے کہ اس مختصر سے کارڈ میں ایک مسلمان کو اسلامی زندگی گزارنے کا اتنا زبردست فارمولہ دے دیا گیا۔ مدنی انعامات کا کارڈ ملنے کی برکت سے الحمد للہ عزوجل اُنکو نماز کا جذبہ ملا اور نماز باجماعت کی ادائیگی کے لئے مسجد میں حاضر ہو گئے اور اب پانچ وقت کے نمازی بن چکے ہیں۔ داڑھی مبارک بھی سجالی اور مدنی انعامات کا کارڈ بھی پُر کرتے ہیں۔

مدنی انعامات کے عامل پہ ہر دم ہر گھڑی

یا الہی! خوب برسا رحمتوں کی تو جھڑی!

رب العالمین جل جلالہ کا شکر ادا کیجئے

محترم اسلامی بہنو! انسان کو چاہئے کہ جب اولاد کے حوالے سے کوئی ”اچھی خبر“ ملے تو سجدہ شکر بجالائے کیونکہ شکر نعمت سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ (پ ۱۳، ابراہیم ۷)  
اگر احسان مانو گے تو میں تمہیں اور دوں گا۔

### ماں کے لئے خوشخبری

حضرت حسن بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں سے ارشاد فرمایا۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات پر راضی نہیں کہ جب وہ اپنے شوہر سے حاملہ ہو اور وہ شوہر اس سے راضی ہو تو اس کو ایسا ثواب عطا کیا جاتا ہے جیسا اللہ عزوجل کی راہ میں رکھنے اور شب بیداری کرنے والے کو ملتا ہے، اور اسی دروزہ (یعنی وقت ولادت کی تکلیف) پہنچنے پر ایسے ایسے انعامات دئے جائیں گے کہ جن پر آسمان وزمین والوں میں سے کسی کو مطلع نہیں کیا گیا اور وہ بچے کو جتنا دودھ پلائے گی تو ہر گھونٹ کے بدلے ایک نیکی عطا کی جائے گی اور اگر اسے بچے کی وجہ سے رات کو جاگنا پڑے تو اسے راہِ خدا عزوجل میں ۷۰ غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ (الجامع الصغیر، الحدیث ۱۵۹۲ ج ۱، ص ۹۹)

### اچھی اچھی نیتیں کیجئے

والدین بالخصوص والد کو چاہئے کہ اپنی اولاد کے لئے اچھی اچھی نیتیں کرے۔  
فرما میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم!  
نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهِ  
ترجمہ: ”مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔“

(المعجم الکبیر للطبرانی، الحدیث ۵۹۴۲ ج ۶ ص ۱۸۵)

### دو مدنی پھول

(۱) بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔



- (۲) جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔
- (۳) اپنی اولاد کی سنت کے مطابق تربیت کروں گی۔
- (۴) جب بچہ پیدا ہوا تو سیدھے کان میں اذان اور بانیں میں تکبیر کہوں گا۔
- (۵) بچی پیدا ہونے پر ناخوشی نہیں کروں گی بلکہ نعمت الہیہ جان کر شکر الہی عزوجل بجلاؤں گی۔
- (۶) کسی بزرگ سے اس کی تحنیک کراؤں گی۔ (یعنی ان سے درخواست کروں گی کہ وہ چھوہا رایا کوئی میٹھی چیز چبا کر اس کے تالو پر لگا دیں۔
- (۷) اگر لڑکا ہوا تو حصول برکت کے لئے اس کا نام محمد یا احمد رکھوں گی۔
- (۸) ساتھ ہی پکارنے کے لئے بزرگوں سے نسبت والا بھی کوئی نام رکھ لوں گی۔
- (۹) حتی الامکان اس کے نام ”محمد“ یا ”احمد“ کی نسبت سے اس کی تعظیم کروں گی۔
- (۱۰) نہیں کسی جامع شرائط پیر صاحب کا مرید بناؤں گی۔
- (۱۱) ساتویں دن اس کا بعقیقہ کروں گی۔ یوم پیدائش کے بعد آنے والے ہر اگلے دن اُس کے لئے ساتواں دن ہوتا ہے۔ (مثلاً پیر شریف و بچہ پیدا ہوا تو زندگی کی ہر اتوار اس کا ساتواں دن ہے)۔
- (۱۲) سر کے بال اتروا کر ان کے برابر چاندی تول کر خیرات کروں گی۔
- (۱۳) اولاد کو حلال کمائی سے کھلاؤں گی۔
- (۱۴) حرام کمائی سے بچاؤں گی۔
- (۱۵) انہیں بہلانے کے لئے جھوٹا وعدہ (promise) کرنے سے بچوں گی۔

(۱۶) اپنے تمام بچوں سے یکساں سلوک کروں گی۔

(۱۷) انہیں علم دین سکھاؤں گی۔

(۱۸) نافرمانی کا احتمال رکھنے والا کام حکماً نہیں فقط بطور مشورہ کہہ کر انہیں

نافرمانی کی آفت سے بچاؤں گی۔

(۱۹) اگر کبھی میں نے انہیں کوئی کام حکماً کہا اور انہوں نے نہ کیا یا نافرمانی کر

کے میرا دل دکھایا تو ان کو معاف کر دوں گی۔ ماں باپ معاف کر بھی دیں تب بھی

اولاد کو توبہ کرنے ہوگی کیوں کہ والدین کی نافرمانی میں اللہ عزوجل کی بھی نافرمانی

ہے۔

(۲۰) وقتاً فوقتاً اولاد کے نیک بننے اور بے حساب بخشے جانے کی دعا کرتی رہوں

گی۔

(۲۱) بالغ ہونے پر جلد تر نشاۃ کی ترکیب کروں گی۔

### زمانہ حمل کی احتیاطیں

چونکہ زمانہ حمل کے معاملات بچے کی شخصیت پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں

اس لئے ماں کو چاہئے کہ خصوصاً زمانہ حمل میں اپنے افکار و خیالات کو پاکیزہ رکھنے کی

کوشش کرے۔ اگر وہ یہ زمانہ کیبل اور بوی۔ سی۔ آر پر فلمیں ڈرامے دیکھتے ہوئے

گزارے گی تو شکم میں پلنے والی اولاد پر جو اثرات مرتب ہوں گے وہ اولاد کے

باشعور ہونے پر باآسانی ملاحظہ کئے جاسکتے ہیں۔ جب تک ماں عبادت و ریاضت کا

شوق اور تلاوت قرآن کا ذوق رکھنے والی ہوتی تھیں۔ ان کی گود میں پلنے والی اولاد بھی

علم و عمل کا پیکر اور خوف خدا عزوجل کا مظہر ہوا کرتی تھی۔ جب ماؤں نے نمازیں

ترک کرنا اپنا معمول، فیشن کو اپنا شعار اور بے پردگی کو اپنا وقار بنا لیا تو اولاد میں بھی اسی

ڈگر پر چل نکلیں اور فحاشی و عریانی اور بے راہ روی کا سیلاب حیا کو بہا کر لے گیا۔

الاما شاء اللہ! بہر حال ماں کو چاہئے کہ!

(۱) نیک اعمال کی کثرت کرے کہ والدین کی نیکیوں کی برکتیں اولاد کو ملتی ہیں۔ (نیک اعمال کے فضائل جاننے کے لئے جنت میں لے جانے والے اعمال کا مطالعہ کیجئے)۔

(۲) نمازوں کی پابندی کرتی رہے، ہرگز ہرگز سستی نہ کرے کہ ایسی حالت میں نماز معاف نہیں ہو جاتی۔

(۳) اس مرحلے پر تلاوت قرآن کرے کہ ہماری مقدس پیماں اس حالت میں بھی نور قرآن سے اپنے قلوب کو منور کرتی تھیں۔

پس سناوئے

حضور سیدنا خواجہ قلب الحق والدین۔ خدیار کاسی رمتہ اللہ علیہ کی سر جس دن چار برس چار مہینے چار دن کی ہوئی۔ تقریب بسم اللہ مقرر ہوئی تو لوگ بلائے گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی موجود تھے۔ بسم اللہ پڑھانا چاہی مگر الہام (Revelation) ہوا کہ ٹھہرو! حمید الدین ناگوری آتا ہے وہ پڑھائے گا۔ ادھر ناگور میں قاضی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو الہام ہوا کہ جلد جا۔ میرے ایک بندے کو بسم اللہ پڑھا۔ قاضی صاحب فوراً تشریف لائے اور آپ سے فرمایا۔ صاحبزادے پڑھے بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ آپ نے پڑھا۔ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ، بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اور شروع کیلے کر پندرہ پارے حفظ سنا دیئے۔ حضرت قاضی صاحب اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ صاحبزادے آگے پڑھے۔ فرمایا: میں نے اپنی ماں کے شکم میں اتنے ہی سنے تھے اور اسی قدر انکو یاد تھے وہ مجھے بھی یاد ہو گئے۔

(المفوق، حصہ ۳ ص ۳۱۵)

مشتبہ غذا زکا لیا پڑتی

حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا فرماتی ہیں کہ ”جس وقت بایزید میرے شکم میں تھا تو اگر کوئی مشتبہ غذا میرے شکم میں چلی جاتی تو اس قدر بے چینی ہوتی کہ مجھے حلق میں انگلی ڈال کر زکا لیا پڑتی“

(تذکرۃ الاولیاء ذکر بایزید بسطامی ص ۱۲۹)

معذرت کرنا پڑی

حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیدائشی متقی تھے ایک مرتبہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ محترمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہا نے ایام حمل میں ہمسائے کی کوئی چیز بلا اجازت منہ میں رکھ لی تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پیٹ میں تڑپنا شروع کیا اور جب تک انہوں نے ہمسایہ سے سحروت حلب نہ لی آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اضطراب ختم نہ ہوا۔ (تذکرۃ الاولیاء ذکر سفیان ثوری ص ۱۷۴)

کھانے پینے، لباس، چلنے بیٹھے سونے وغیرہ کے معاملات میں سنتوں پر عمل کرے۔ زبان کی احتیاط اپناتے ہوئے جھوٹ غیبت چغلی وغیرہ گناہوں سے بچتی رہے صدقہ و خیرات کی کثرت کرے صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔

حضرت سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب، منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: صدقہ دینے میں جلدی کیا کرو کیونکہ بلاء صدقہ سے آگے نہیں بڑھ سکتی۔

(مجمع الزوائد باب فضل صدقۃ الزکاۃ، الحدیث ۲۹۵۶ ج ۳ ص ۲۸۲)

بعض اسلامی بہنیں حالت حمل میں اپنے کمرے میں کسی بچے یا بچی کی تصویر لگا لیتی ہے یا ذکر کھے کہ مکان میں ذی روح کی تصویر لگانا جائز نہیں۔

(بہار شریعت جلد ۱ ص ۲۰۸)

اور جس گھر میں جاندار کی تصاویر ہوں وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”اس گھر میں فرشتے داخل نہیں ہوتے جس میں کتاب یا تصویر ہو۔“

(صحیح البخاری کتاب المغازی باب شھود الملائکۃ بدر الحدیث ۴۰۰۲ ج ۳ ص ۱۹)

اگر دیکھنا ہی ہے تو پیارا پیارا کعبہ شریف اور سبز گنبد کے جلوے دیکھے اور گھر میں اسلامی طفرے آویزاں کیجئے۔

دیکھنا ہے تو مدینہ دیکھئے

قصر شاہی کا نظارہ کچھ نہیں

دعاؤں کی کثرت کرے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے ہے حضرت سیدتنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی والدہ نے بھی اس حالت میں دعا کی تھی چنانچہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے۔

رَبِّ اِنِّیْ وَضَعْتُهَا اُنْثٰی ۙ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ وَلَیْسَ الذَّکَرُ کَالْاُنْثٰی ۚ وَ اِنِّیْ سَمَّیْتُهَا مَرْیَمَ وَ اِنِّیْ اُعِیْذُهَا بِکَ وَ ذُرِّیَّتَہَا مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ ۝ (پ ۳ آل عمران ۳۶)

ترجمہ کنز الایمان: اے میرے رب یہ تو میں نے لڑکی جنی اور وہ لڑکا جو اس نے مانگا اس لڑکی سا نہیں اور میں نے اس کا نام مریم رکھا اور میں اسے اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں راندے ہوئے شیطان سے۔

ماں بننے والی چاہے تو اس طرح بھی دعا مانگ سکتی ہے

یا اللہ عزوجل! تیرا کروڑہا کروڑ شکر کہ تو نے مجھے عظیم نعمت عطا فرمائی۔ یا اللہ عزوجل! اس کی پیدائش میں آسانیاں نصیب فرما، یا اللہ عزوجل تو اسے اپنا اطاعت

گزار اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانبردار بنا، یا اللہ عزوجل اس کو متقی پرہیزگار اور مخلص عاشق رسول بنا۔ یا اللہ عزوجل تو اسے سنتوں کا مبلغ بنا، یا اللہ عزوجل اسے درازی عمر بالخیر عطا فرما، یا اللہ عزوجل! اسے ایمان کی حالت (Condition) میں شہادت کی موت نصیب فرما۔

(آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم)

## عظیم ماں

محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ رحمۃ اللہ علیہا کثر فرمایا کرتی تھیں۔ ان شاء اللہ عزوجل میرا اولاد لاپچہ عظیم شخصیت کا مالک ہوگا اور یہ دعا بھی کمر تیں تمہارا نام سردار ہی اللہ تعالیٰ تجھے دین و دنیا کا سردار بنائے۔ اور دنیا نے دیکھا کہ آپ کی عظیم ماں کی دعا قبول ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسم مبارک مسماٰ بنا دیا۔

(حیات محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ، ص ۳۰)

بعض ماں باپ یہ جاننے کی جستجو میں رہتے ہیں کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی؟ اس کے لئے الٹا ساؤنڈ بھی کروا ڈالتے ہیں پھر اپنی خواہش کے برعکس نتیجہ نکلنے پر معاذ اللہ عزوجل خصوصاً بیٹی ہونے کی صورت میں حمل ضائع کروانے سے بھی دریغ نہیں کرتے اور یوں اپنے بدترین جاہل ہونے کا ثبوت دیتے ہیں کیونکہ جتنی بھی سائنسی تحقیقات ہوتی ہیں ان کی بنیاد گمان پر ہوتی ہے۔ انہیں کسی بھی طرح سے یقینی قرار نہیں دیا جاسکتا۔ اس لئے ہو سکتا ہے کہ آپ کو جو بتایا گیا۔ حقیقت اس کے برعکس ہو۔

میٹھی میٹھی اسلامی بہنو!

اولاد کے سلسلے میں رضائے الہی عزوجل پر راضی رہنے میں ہی عافیت ہے، ایسا نہ ہو کہ بیٹی کی پیدائش پر اس کی ماں سے ناروا سلوک کرنے کی بنا پر رب تعالیٰ کی

ناراضگی کا سامنا کرنا پڑے اس ضمن میں ایک عبرت ناک سچا واقعہ ملاحظہ فرمائیے۔  
 کشمیر کے کسی علاقے میں ایک شخص کی ۵ بچیاں تھیں۔ چھٹی بار ولادت ہونے  
 والی تھی۔ اس نے ایک دن اپنی بیوی سے کہا۔ کہ اگر اب کی بار بھی تو نے بچی کو جنا تو  
 میں تجھے نو مولود بچی سمیت قتل کر دوں گا۔ رمضان المبارک کی تیسری شب پھر بچی ہی  
 کی ولادت ہوئی صبح کے وقت بچی کی ماں کی چیخ و پکار کی پرواہ کئے بغیر اس بے رحم باپ  
 نے معاذ اللہ عزوجل اپنی پھول جیسی زندہ بچی کو اٹھا کر پریشکر میں ڈال کر چولہے پر  
 چڑھا دیا۔ یکا یک پریشکر پھٹا اور ساتھ ہی خوفناک زلزلہ آ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ  
 ظالم شخص زمین کے اندر [ ] بچی کی ہاں کو زخمی حالت میں بچا لیا گیا اور غالباً  
 اسی کے ذریعے اس دردناک واقعے کا انکشاف ہوا۔

(الامان والحفیظ) (زلزلہ اور اس کے اسباب، از امیر اہلسنت مدظلہ العالی ص ۵۱)

اس کے برعکس نیکیوں میں مشغول ہو جانے والوں پر رحمت الہی عزوجل کی  
 چھما چھم برسات ہوتی ہے چند بہاریں ملاحظہ ہوں۔

### اولاد نرینہ مل گئی

پیاری اسلامی بہنو! ایک اسلامی بھائی کی دو بیٹیاں تھیں وہ اولاد نرینہ سے محروم  
 ہونے کی وجہ سے افسردہ رہا کرتے تھے ان کی بچیوں کی امی پھر امید سے تھیں کسی  
 اسلامی بھائی کے مشورے پر انہوں نے عاشقان رسول کے مدنی قافلے میں ۳۰ دن کے  
 لئے سفر اختیار کیا کہ اس کی برکت سے ان کے گھر بیٹا پیدا ہو۔ اللہ عزوجل کی شان  
 دیکھئے کہ ابھی تیس دن پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ انہیں سفر ہی کے دوران بیٹے کی  
 ولادت کی خوشخبری مل گئی۔ جب وہ رہ خدا عزوجل میں تیس دن کے سفر کے بعد گھر  
 لوٹے تو عجیب منظر تھا گھر میں خوشی ہی خوشی سے جھوم رہی تھی۔ ان کے ہاتھوں میں مدنی  
 منا اور ان کے چہرے پر جگمگاتی داڑھی شریف اور سر پر سبز سبز عمامے کا تاج سجا ہوا تھا۔

ان کا دیوانہ عمامہ اور زلفت وریش میں!  
واہ! دیکھو تو سہی لگتا ہے کتنا شاندار!

(دعوت اسلامی کہ بہاریں قسط اول ص ۵)

## پیدائش پر رد عمل

پیاری اسلامی بہنو! بیٹا پیدا ہو یا بیٹی، انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر بجالانا چاہئے کہ بیٹا اللہ عزوجل کی نعمت اور بیٹی رحمت ہے اور دونوں ہی ماں باپ کے پیار اور شفقت کے مستحق ہیں عموماً دیکھا گیا ہے کہ عزیز واقربا کی طرف سے جس حسرت کا اظہار لڑکے کی ولادت پر ہوتا ہے۔ محلے بھر میں میٹھا میٹھا بانٹی جا رہا ہے کہ سلامت کا شور مچ جاتا ہے لڑکی کی ولادت پر اس کا عشر عشیر بھی نہیں دیا وی طور پر لڑکیوں سے والدین اور خاندان کی بظاہر کوئی منفعت حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کے برعکس ان کی شادی کے کثیر اخراجات کا بار باپ کے کندھوں پر آن پڑتا ہے شاید اسی لئے بعض نادان بیٹیوں کی ولادت ہونے پر ناک بھوں چڑھاتے ہیں اور بچی کی امی کو طرح طرح کے طعنے دیئے جاتے ہیں، طلاق کی دھمکیاں دی جاتی ہیں بلکہ اوپر تلے بیٹیاں ہونے کی صورت میں اس دھمکی کو عملی تعبیر بھی دے دی جاتی ہے۔ ایسوں کو چاہئے کہ وہ ان روایات کو بار بار پڑھیں جن میں بیٹی کی پرورش پر مختلف بشارتوں سے نوازا گیا ہے چنانچہ حضرت نبیط بن شریط رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور پاک، صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں اے گھر والو! تم پر سلامی ہو۔ پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں۔ اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ایک ناتواں و کمزور جان ہے جو ایک ناتواں سے پیدا ہوئے ہے۔ جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک مدد



خدا عزوجل ان کے شامل خالی رہے گی۔

(مجمع الزوائد کتاب البر والصلۃ، باب ماجاء فی الاولاد الحدیث ۱۳۳۸۴، ج ۸، ص ۲۷۵)  
حضرت عبید بن شریط رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بیٹیوں کو بُرا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں، بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں نغمگسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔

(مسند الفردوس للذہبی، الحدیث ۷۵۵۶، ج ۲، ص ۲۱۵)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم رؤف و رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عظمت نشان ہے کہ جس کے ہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ اسے ایذا نہ دے اور نہ ہی بُرا جانے اور نہ بیٹے کو بیٹی پر فضیلت دے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل فرمائے گا۔

(المستدرک للحاکم، کتاب البر والصلۃ، الحدیث ۷۴۲۸، ج ۵، ص ۲۲۸)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کی تین بیٹیاں ہوں۔ وہ ان کا خیال رکھے ان کو اچھی رہائش دے، ان کی کفالت کرے تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ عرض کی گئی اور دو ہوں تو؟ فرمایا اور دو ہوں تب بھی عرض کی گئی اگر ایک ہو تو؟ فرمایا اگر ایک ہو تو بھی۔ (المعجم الاوسط الحدیث ۲۱۹۹، ج ۴، ص ۳۳۷)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ مدینے کے سلطان، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس شخص پر بیٹیوں کی پرورش کا بار پڑ جائے اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو یہ بیٹیاں اس کے لئے جہنم سے روک بن جائیں گی۔

(صحیح مسلم کتاب البر والصلۃ، باب فضل الاحسان الی البنات الحدیث ۲۶۲۹، ص ۱۴۱۴)

## مدنى آقا صلى اللہ علیہ وآلہ وسلم كك بیٹیوں پر شفقت

حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب اللہ عزوجل كك محبوب دانائے  
غیوب صلى اللہ علیہ وآلہ وسلم كك خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں تو آپ صلى اللہ علیہ  
وآلہ وسلم كھڑے ہو جاتے۔ ان كك طرف متوجہ ہو جاتے، پھر ان كا ہاتھ اپنے ہاتھ  
میں لے لیتے، اسے بوسہ دیتے پھر ان كو اپنے بیٹھنے كك جگہ پر بٹھاتے۔ اسی طرح آپ  
صلى اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا كك ہاں تشریف لے جاتے تو وہ  
آپ صلى اللہ علیہ وآلہ وسلم كو دیکھ كر كھڑی ہو جاتیں۔ آپ كا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے  
لیتیں پھر اس كو چومتیں اور آپ صلى اللہ علیہ وآلہ وسلم كو اپنی جگہ پر بٹھاتیں۔

(سنن ابی داؤد، كتاب الادب، باب ماجاء فی القیام، الحدیث ۵۲۱۷، ج ۴، ص ۴۵۴)

حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا رسول اکرم، نور مجسم صلى اللہ علیہ وآلہ  
وسلم كك سب سے بڑی شہزادی ہیں جو اعلان نبوت سے دس سال قبل مكہ مكرمہ میں پیدا  
ہوئیں، جنگ بدر كك بعد حضور پُر نور، شافع یوم النشور صلى اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان  
كو مكہ سے مدینہ بلا لیا۔ جب یہ ہجرت كك ارادہ سے اونٹ پر سوار ہو كر مكہ سے باہر  
نکلئیں تو كافروں نے ان كا راستہ روك لیا۔ ایک ظالم نے نیزہ مار كر ان كو اونٹ سے  
زمین پر گرا دیا جس كك وجہ سے ان كا حمل ساقط ہو گیا۔ نبی کریم رؤف ورحیم صلى اللہ  
علیہ وآلہ وسلم كو اس واقعے سے بہت صدمہ ہوا چنانچہ اپنے ان كك فضائل میں ارشاد  
فرمایا: ہی افضل بناتى امیت فى یعنی یہ میری بیٹیوں میں اس اعتبار سے  
فضیلت والی ہے كك میری طرف ہجرت كك کرنے میں اتنی بڑی مصیبت اٹھائی۔ جب  
آٹھ ہجری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا كا انتقال ہو گیا تو نماز جنازہ پڑھا كر  
خود اپنے مبارك ہاتھوں سے قبر میں اتارا۔

(شرح العلامتہ الزرقانی، باب فی ذكر اولادہ الكرام ج ۲، ص ۳۱۸، ماخوذاً)

حضرت سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ اپنی نو اسی امامہ بنت ابو العاص کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے۔ پھر آپ نماز پڑھانے لگے تو رکوع میں جاتے وقت انھیں اتار دیتے اور جب کھڑے ہوتے تو انھیں اٹھا لیتے۔

(صحیح البخاری کتاب الادب، باب رحمۃ الولد، الحدیث ۵۹۹۶، ج ۴، ص ۱۰۰)

### سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنی بیٹی پر شفقت

حضرت سیدنا براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی غزوہ سے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ تشریف لائے میں ان کے ساتھ ان کے گھر گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ان کی صاحبزادی حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بخار میں مبتلا ہیں اور لیٹی ہوئی ہیں چنانچہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس تشریف لائے اور پوچھا کہ اے میری بیٹی! طبیعت کیسی ہے؟ اور ازراہ شفقت ان کے

(سنن ابی داؤد کتاب الادب، باب فی قبلۃ الخد، الحدیث ۵۲۲۲ ج ۴ ص ۲۵۵)

### ایشار کرنے والی ماں

حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس ایک مسکین عورت آئی جس کے ساتھ اس کی دو بیٹیاں بھی تھیں۔ میں نے اسے تین کھجوریں دیں۔ اس نے ہر ایک کو ایک ایک کھجور دی۔ پھر جس کو وہ خود کھانا چاہتی تھی، اس کے دو ٹکڑے کر کے وہ کھجور بھی ان کو کھلا دی۔ مجھے اس واقعہ سے بہت تعجب ہوا۔ میں نے نبی مکرم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اس عورت کے ایشار کا بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس ایشار کی وجہ سے اس

عورت کے لئے جنت کو واجب کر دیا۔

(صحیح مسلم، کتاب البر والصلوٰۃ، باب فضل الاحسان الی البناث الحدیث ۲۶۳۰ ص ۱۴۱۵)

## پیدائش کے بعد کرنے والے کام

پیاری اسلامی بہنو! اولاد پیدا ہونے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ والے کاموں مثلاً ڈھول بجانے بھنگڑا ڈالنے اور میوزیکل پروگرام کرنے کی بجائے صدقہ و خیرات کیجئے اور شکرانے کے نوافل ادا کیجئے اجتماع ذکر و نعت کیجئے اور ان امور کو بھی سرانجام دیجئے۔

## کان میں اذان

جب بچہ پیدا ہو تو مستحب یہ ہے کہ اس کے کام میں اذان و اقامت کہی جائے کہ اس طرح ابتداء ہی سے بچے کے کلن میں اللہ عزوجل اور اس کے پیارے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام پہنچ جائے گا۔ اس طرح ایک مسلمان بچے کے لئے اسلام کے بنیادی عقائد سکھانے کا بھی آغاز ہو جاتا ہے اور بچے کی روح نور توحید سے منور ہوتی ہے اور اس کے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شمع فروزاں ہوتی ہے۔

ہمارے پیارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت پر ان کے کان میں خود اذان دی جیسا کہ حضرت سیدنا رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب حضرت سیدتنا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں حضرت سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی تو میں نے اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے کان میں نماز والی اذان دیتے دیکھا۔

(جامع الترمذی، کتاب الاضاحی، باب الاذان فی اذن المولود، الحدیث ۵۱۹ ج ۳ ص ۱۷۳)

بچے کے کان میں اذان کہنے سے ان شاء اللہ عزوجل بلائیں دور ہوں گی۔ چنانچہ حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب دانائے غیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس کے گھر میں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہے تو اسے بچے سے ام العبیان کی بیماری دور رہتی ہے۔

(شعب الایمان باب فی حقوق الاولاد والاهلین الحدیث ۸۶۱۹، ج ۶، ص ۳۹۰)

بہتر یہ ہے کہ داہنے کان میں چار مرتبہ اذان اور بائیں میں تین مرتبہ اقامت

کہی جائے۔ (بہار شریعت، حصہ ۱۵، ص ۱۵۳)

### تحسینک (گھٹی دلوانا)

دور رسالت سر اپا برکت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا معمول تھا کہ جب ان کے گھر کوئی بچہ پیدا ہوتا تو یہ اسے رحمت عالم، نور مجسم، شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لاتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور اپنے دہن اقدس میں چبا کر بچے کے منہ میں ڈال دیتے جسے تحسینک کہتے ہیں۔ یوں بچے کو لعاب دہن کی برکتیں بھی نصیب ہو جاتیں۔ چنانچہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں لایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لئے خیر و برکت کی دعا فرماتے اور تحسینک فرمایا کرتے تھے۔

(صحیح مسلم، کتاب الادب، باب استحباب تحسینک، الحدیث ۲۱۲۷، ص ۱۱۸۴)

حضرت سیدتنا اسماء بنت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ وہ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ آئیں تو مقام قبا میں ان کے ہاں ولادت ہوئی اور حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ فرماتی ہیں کہ میں بچہ کو لے کر

نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور میں نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گود میں رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوہارا منگوایا اور اسے چبایا، پھر اس میں اپنا لعاب دہن ڈالا۔ پس سب سے پہلے اس کے پیٹ میں جو پہنچا وہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب مبارک تھا پھر اسے کھجور کی گھٹی دی پھر اس کے لئے دعائے خیر کی اور برکت سے نوازا، یہ اسلام میں پہلا بچہ پیدا ہوا تھا۔

(صحیح بخاری، کتاب العقیقہ، باب تسمیۃ المولود، الخ ج ۳، ص ۵۴۶)

حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے ہاں لڑکا پیدا ہوا۔ میں اس کو لے کر اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیب، منزہ عن العیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام ”ابراہیم“ رکھا اور اسے کھجور سے گھٹی دی۔

(صحیح المسلم، کتاب الادب، باب استحباب تحسین المولود۔۔ الخ الحدیث ۲۱۴۵، ص ۱۱۸۴)

حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے تو اسے لے کر خاتم المرسلین رحمۃ اللعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین سراج السالکین محبوب رب العالمین، جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑھے ہوئے اپنے اونٹ کو روغن مل رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے پاس کھجوریں ہیں۔ میں نے عرض کی ”جی ہاں“ پھر میں نے کچھ کھجوریں نکال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں اپنے مبارک منہ میں ڈال کر چبائیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بچے کا منہ کھول کر اسے بچے کے منہ

ڈال دیا اور بچہ چوسنے لگا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”انصار کو کھجوروں کے ساتھ محبت ہے“ اور اس بچے کا نام عبد اللہ رکھا۔

(صحیح المسلم، کتاب الادب، باب استحباب تحنیک المولود الخ، الحدیث ۲۱۴۴، ص ۱۱۸۳)

انہی احادیث کی بناء پر مسلمانوں کا یہ معمول ہے کہ وہ اپنے بچوں کی صالح و متقی مسلمانوں سے تحنیک کرواتے ہیں اگر کھجور میسر نہ ہو تو شہد یا کسی بھی میٹھی چیز سے کی جاسکتی ہے۔

### مفتی اعظم ہند کی تحنیک

پیاری اسلامی بہنو! اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت، پروانہ شمع رسالت، مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کے گھر جب آپ کے چھوٹے شہزادے مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی تو آپ اس وقت اپنے مرشد خانے میں تھے۔ حضرت ابوالحسین نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو پیدائش فرزند کی مبارک باد دی اور فرمایا، آپ بریلی تشریف لے جائیں کچھ دن بعد حضرت نوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بریلی تشریف لائے تو شہزادہ اعلیٰ حضرت کو آغوش نوری میں ڈال لیا گیا آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی انگشت مبارک مصطفیٰ رضا خان کے منہ میں رکھ کر قادری و برکاتی برکات سے ایسا مال کر دیا کہ یہی شہزادے بڑے ہو کر مفتی اعظم ہند بنے۔

(تاریخ مشائخ قادریہ، ج ۲، ص ۲۴۷ ملخصاً)

### نام رکھنا، بال مونڈنا اور عقیقہ کرنا

پیاری اسلامی بہنو! ساتویں دن بچے کا نام رکھا جائے اور اس کا سر منڈایا جائے اور سر منڈانے کے وقت اس کا عقیقہ کیا جائے اور بالوں کا وزن کر کے چاندی یا سونا صدقہ کیا جائے۔ (المعجم الاوسط، الحدیث ۵۵۸، ج ۱، ص ۱۷۰)

## کیسے نام رکھے جائیں؟

والدین کو چاہئے کہ بچے کا اچھا نام رکھیں کہ یہ ان کی طرف سے اپنے بچے کے لئے سب سے پہلا اور بنیادی تحفہ ہے جسے وہ عمر بھر اپنے سینے سے لگائے رکھتا ہے یہاں تک کہ جب میدان حشر پھا ہوگا تو وہ اسی نام سے مالک کائنات عزوجل کے حضور بلایا جائے گا جیسا کہ حضرت سیدنا ابو داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک، صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن تم اپنے اور اپنے آباء کے ناموں سے پکارے جاؤ گے لہذا اپنے اچھے نام رکھا کرو۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الادب باب فی تفسیر الاسماء الحدیث ۴۹۲۸، ج ۴، ص ۳۷۴)

اس حدیث پاک سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو اپنے بچے کا نام کسی فلمی اداکار یا کفار کے نام پر رکھ دیتے ہیں۔ اس سے بدترین ذلت کیا ہوگی کہ مسلمان کی اولاد کو کل میدان محشر میں کفار کے ناموں سے پکارا جائے۔ والعیاذ باللہ

ہمارے معاشرے میں بچے کے نام کے انتخاب کی ذمہ داری عموماً کسی قریبی رشتہ دار مثلاً دادی، پھوپھی، چچا وغیرہ کو سونپ دی جاتی ہے اور عموماً مسائل شرعیہ سے نا بلد ہونے کی وجہ سے وہ بچوں کے ایسے نام رکھنے سے احتراز کیا جائے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کے اسمائے مبارکہ اور صحابہ کرام و تابعین عظام اور اولیائے کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے نام پر نام رکھنے چاہئیں جس کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ بچے کا اپنے اسلاف رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روحانی تعلق قائم ہو جائے گا اور دوسرا ان نیک ہستیوں سے موسوم ہونے کی برکت سے اس کی زندگی پر مدنی اثرات مرتب ہوں گے۔

حضرت سیدنا ابو وہب جشمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور، سلطان، بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:



”انبیاء علیہم السلام کے ناموں پر نام رکھو“۔

(سنن ابی داؤد کتاب الادب باب فی تفسیر الاسماء الحدیث ۴۹۵۰، ج ۴ ص ۳۷۴)

بچے کی کنیت رکھنا جائز ہے اور حصول برکت کے لئے بزرگوں کی نسبت سے کنیت رکھنا بہتر ہے۔ مثلاً ابو تراب (یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی

کنیت ہے) وغیرہ۔ (ماخوذ از بہار شریعت، ج ۳، حصہ ۱۶، ص ۲۱۳)

حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ، سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم : فرمایا : اپنے بچے کی کنیت رکھنا جلدی کرو کہیل ان (ردے) القابات نہ پڑ جائیں۔

(کنز العمال، کتاب النکاح، باب السابع، الفضل الاول، الاکمال، الحدیث ۵۲۲۲، ج ۱۶، ص ۱۷۶)

مسئلہ

ظہ، یسین نام بھی نہ رکھے جائیں کہ یہ الفاظ مقطعات قرآنیہ میں سے ہیں جن کے معانی معلوم نہیں۔ (بہار شریعت، حصہ ۱۶، ص ۲۱۳)

مسئلہ

عبد المصطفیٰ، عبد النبی اور عبد الرسول نام رکھنا بالکل جائز ہے کہ اس سے شرف نسبت مقصود ہے۔ عبد کے دو معانی ہیں بندہ اور غلام۔ اس لئے یہ نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں۔ غلام محمد، غلام صدیق، غلام فاروق، غلام علی، غلام حسین وغیرہ نام رکھنا جن میں غلام کی نسبت انبیاء و صالحین کی طرف کی گئی ہو بالکل جائز ہے۔

(بہار شریعت، حصہ ۱۶، ص ۲۱۳، ماخوذاً)

مسئلہ

محمد بخش، احمد بخش، پیر بخش اور اسی قسم کے دوسرے نام رکھنا جس میں نبی یا ولی کے نام کے ساتھ بخش کا لفظ ملایا گیا ہو، بالکل جائز ہے۔ (بہار شریعت، حصہ ۱۶، ص ۲۱۳)

مسئلہ

جو نام برے ہوں انہیں بدل کر اچھے نام رکھنے چاہئیں۔

(بہار شریعت، حصہ ۱۶، ص ۲۱۳)

حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ، قراری قلب و یصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برے ناموں کو بدل دیا کرتے تھے۔

(بمع الترمذی، الادب، باب ما جاء فی تفسیر الاسماء الحدیث ۲۸۲۸، ج ۲۳، ص ۳۸)

حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام پہلے برہ تھا۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برہ سے بدل کر جویریہ رکھ دیا۔

(صحیح مسلم، کتاب الادب، باب استحباب تفسیر الاسم القبح، الحدیث ۲۱۳۰، ص ۱۱۸۲)

### اللہ عزوجل کے پسندیدہ نام

حضرت سیدنا عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تمہارے ناموں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ نام عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں۔

(صحیح مسلم، کتاب الادب، باب استحباب تفسیر الاسم القبح، الحدیث ۲۱۳۲، ص ۱۱۷۸)

صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد انجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں عبد اللہ و عبد الرحمن بہت اچھے نام ہیں (مگر اس زمانہ میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بجائے عبد الرحمن اس شخص کو بہت سے لوگ رحمن کہتے ہیں اور غیر خدا کو رحمن کہنا حرام ہے اسی طرح عبد الخالق کو خالق اور عبد المعبود کو معبود کہتے ہیں) اس قسم کے ناموں میں ایسی ناجائز ترمیم ہرگز نہ کی جائے۔ اسی طرح بہت کثرت سے ناموں میں تغیر کا رواج ہے یعنی نام کو اس طرح بگاڑتے ہیں جس سے حقارت نکلتی ہے ایسی ناموں میں تغیر ہرگز نہ

کی جائے اور جہاں یہ گمان ہو کہ ناموں میں تغیر (Diminution) کی جائے گی یہ نام نہ رکھے جائیں دوسرے نام رکھے جائیں۔ (بہار شریعت حصہ ۱۶، ص ۲۱۱ ماخوذاً)

### نام محمد کی برکتیں

رحمت عالم، شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے نام سے برکت کی امید کرتے ہوئے میرے نام پر نام رکھا قیامت تک صبح و شام اس پر برکت نازل ہوتی رہے گی۔

(کنز العمال، کتاب النکاح، الفصل الاول فی الاسماء، الحدیث ۴۵۲۱۳، ج ۱۶، ص ۱۷۵)

حضرت سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ، فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس کے ہاں بیٹا پیدا ہو اور میری محبت اور حصول برکت کے لئے اس کا نام محمد رکھے تو وہ اور اس کا بیٹا دونوں جنت میں جائیں گے۔

(کنز العمال کتاب النکاح، الفصل الاول فی الاسماء الحدیث ۴۵۲۱۵، ج ۱۶، ص ۱۷۵)

امیر المؤمنین حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی قوم کسی مشورہ کے لئے جمع ہو اور ان میں کوئی شخص محمد نام کا ہو اور وہ اسے مشورہ میں شریک نہ کریں تو ان کے لئے مشاورت میں برکت نہ ہوگی۔

(اکامل فی ضعفاء الرجال لابن عدی، ج ۱، ص ۲۷۵)

صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں محمد بہت پیار نام ہے۔ اس نام کی بڑی تعریف حدیثوں میں آئی ہے۔ اگر تغیر کا اندیشہ نہ ہو تو یہ نام رکھا جائے اور ایک صورت یہ ہے کہ عقیقہ کا نام یہ ہو اور پکارنے کے لئے کوئی دوسرا نام تجویز کر لیا جائے۔ اس صورت میں نام کی بھی برکت ہوگی اور تغیر سے بھی بچ جائیں گے۔ (بہار شریعت حصہ ۱۵، ص ۱۵۳)

جب شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سے کسی کا نام رکھنے کی درخواست کی جاتی ہے تو آپ دامت برکاتہم العالیہ اس بچے کا نام محمد اور پکارنے کے لئے عرف رجب رضا رکھتے ہیں۔ نام کے ساتھ رضا کا اضافہ امام اہلسنت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن کی نسبت سے کرتے ہیں۔

جب کوئی شخص اپنے بیٹے کا نام محمد رکھے تو اسے چاہئے اس نام پاک کی نسبت کے سبب اس کے ساتھ حسن سلوک کرے اور اس کی عزت کرے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا! جب تم بیٹے کا نام محمد رکھو تو اس کی عزت کرو اور مجلس میں اس کے لئے جگہ کشادہ کرو اور اس کی نسبت برائی کی طرف نہ کرو۔ (تاریخ بغداد، ج ۳، ص ۳۰۵)

حضرت ابو شعیب رحمۃ اللہ علیہ، امام عطاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ اس کی عورت کے حمل میں لڑکا ہو تو اسے چاہئے کہ اپنا ہاتھ عورت کے پیٹ پر رکھ کر کہے۔

إِنْ كَانَ ذَكَرًا فَقَدْ سَمَّيْتَهُ مُحَمَّدًا

یعنی اگر یہ لڑکا ہو تو میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ ان شاء اللہ عزوجل لڑکا ہوگا۔

(فتاویٰ رضویہ، ج ۲۳، ص ۲۹۰)

## بال منڈوانا

پیارے اسلامی بہنو! بچے کے بال منڈوائے جائیں۔ حضرت سیدنا عبد اللہ بن بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کی طرف سے بکری ذبح کرتے، ذبیحہ کے بال اتارتے اور اس بچہ کے سر پر اس بکری کا خون ملتے تھے۔ لیکن جب ہم اسلام لائے تو اب ہمارے ہاں

جب بچہ پیدا ہوتا ہے ہم اس کی طرف سے بکری ذبح کرتے، اس بچے کا سر منڈواتے اور اس کے سر پر زعفران ملتے ہیں۔

(المستدرک للحاکم، کتاب الزبائح، باب عن الخلام شاتان وعن الجاریہ شاہ، الحدیث ۷۶۶۸، ج ۵، ص ۳۳۸)  
ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگوں کا دستور یہ تھا کہ جب وہ بچے کا عقیقہ کرتے تو روئی کے ایک پھائے میں عقیقے کے جانور کا خون بھر لیتے۔ پھر جب بچے کا سر منڈا دیتے تو وہ خون بھرا پھایا اس کے سر پر رکھ دیتے اور اس کے سر کو عقیقے کے خون سے رنگ دیتے، یہ ایک جاہلانہ رسم تھی۔ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: بچے کے سر پر خون نہیں بلکہ اس کی جگہ خلوق (ایک مرکب خوشبو کا نام ہے جو زعفران وغیرہ سے تیار کی جاتی ہے) لگایا کرو۔

(الاحسان، بترتیب صحیح ابن حبان، کتاب الاطعمۃ، باب العقیقہ، الحدیث ۵۲۸۳، ج ۷، ص ۳۵۵)

### عقیقہ

پیاری اسلامی بہنو! بچے کی پیدائش اس کے والدین اور خاندان بھر کے لئے مسرت و شادمانی کا پیغام لاتی ہے بارگاہ الہی عزوجل میں اس نعمت کے شکر کا اسلامی طریقہ یہ ہے کہ بطور شکرانہ جانور ذبح کیا جائے۔ اسی کو عقیقہ کہتے ہیں اور یہ مستحب ہے۔ (ماخوذ از بہار شریعت حصہ ۱۵، ص ۱۵۳)

ہمارے مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے چنانچہ حضرت سیدنا سلمان بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے تاجدار رسالت محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا! بچے کے ساتھ عقیقہ ہے، لہذا اس کی طرف سے خون بہاؤ اور اس سے اذیت کو ہٹاؤ۔

(صحیح البخاری کتاب العقیقہ، باب احاطۃ الاذی عن الصبی فی العقیقہ، الحدیث ۱۵۱۸، ج ۳، ص ۵۲۸)

اعلیٰ حضرت امام اہلسنت مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن فرماتے ہیں۔ جو بچہ قبل بلوغ مر گیا اور اس کا عقیقہ کر دیا تھا یا عقیقہ کی استطاعت نہ تھی یا ساتوں دن سے پہلے مر گیا ان سب صورتوں میں وہ ماں باپ کی شفاعت کریگا جبکہ یہ دنیا سے با ایمان گئے ہوں۔

(فتاویٰ رضویہ، ج ۲۰، ص ۵۹۶)

### عقیقہ کب کریں؟

عقیقہ کے لئے ساتواں دن بہتر ہے جیسا کہ حضرت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ سرکار والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لڑکا اپنے عقیقے کے بدلے رہن رکھا ہوا ہے ساتویں روز اس کی طرف سے جانور ذبح کیا جائے، نام رکھا جائے، اور اس کا سر منڈایا جائے۔

(جامع الترمذی، کتاب الاضاحی، باب العقیقہ، بشاۃ الحدیث ۱۵۲۷، ج ۳، ص ۱۷۷)

اگر ساتویں دن نہ کر سکیں تو جب چاہیں کر سکتے ہیں لیکن سات دن کا لحاظ رکھنا بہتر ہے اسے یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن بچہ پیدا ہوا، اس سے پہلے والا دن جب ہی آئے گا ساتواں ہوگا۔ مثلاً ہفتے کو بچہ پیدا ہوا تو جمعۃ المبارک ساتواں دن کہلائے گا۔ علیٰ هذا القیاس۔

(ماخوذ از بہار شریعت، حصہ ۱۵، ص ۱۵۴)

### عقیقہ کے جانور

حضرت سیدنا عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار رسالت محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کہ جس کے ہاں بچہ پیدا ہو اور وہ اس کی طرف سے عقیقہ کی قربانی کرنا چاہے تو لڑکے کی طرف سے ایک جیسے دو بکریاں

اور لڑکی کی طرف سے ایک بکری قربان کی جائے۔

(سنن ابی داؤد کتاب الصحابا، باب العقیقہ، الحدیث ۲۸۳۱، ج ۳، ص ۱۳۳)

حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے فرماتی ہیں رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کہ لڑکے کی طرف سے دو بکرے اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرا ذبح کیا جائے۔

(المسند للام احمد بن حنبل، مسند السیدہ عائشہ الحدیث ۲۶۱۹۴، ج ۱۰، ص ۱۰۱)

### عقیقہ چند مسائل

(۱) عقیقہ کے جانور کے لئے بھی وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کی ہیں اس کا گوشت فقراء اور رشتہ داروں میں کچا تقسیم کر دیا جائے یا پکا کر دیا یا ان کو بطور ضیافت کھلایا جائے ہر طرح سے جائز ہے۔

(۲) لڑکے کے عقیقے میں دو بکرے اور لڑکی کے عقیقہ میں ایک بکری ذبح کی جائے اگر لڑکے کے عقیقہ میں بکریاں اور لڑکی کی طرف سے بکرا کیا گیا جب بھی حرج نہیں۔

(۳) گائے ذبح کرنے کی صورت میں لڑکے کے لئے دو حصے اور لڑکی کے لئے ایک حصہ کافی ہے۔

(۴) گائے کی قربانی میں عقیقہ کرنے کے لئے حصہ ڈالا جاسکتا ہے۔

(۵) بہتر یہ ہے کہ اس کی ہڈی نہ توڑی جائے بلکہ ہڈیوں پر سے چھری وغیرہ سے

گوشت اتار لیا جائے کہ بچے کی سلامتی کی نیک فال ہے۔ اگر ہڈی توڑ کر

گوشت بنایا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔

(۶) گوشت کو جس طرح چاہیں پکا سکتے ہیں مگر میٹھا پکانا بہتر ہے کہ بچے کے اخلاق

اچھے ہونے کی فال ہے۔

(۷) گوشت کی تقسیم اس طرح بھی کی جاسکتی ہے کہ سری پائے حجام کو اور ران دائی کو دینے کے بعد بقیہ گوشت کے تین حصے کر لیں۔ ایک حصہ فقراء دوسرا عزیز رشتہ دار اور تیسرا حصہ گھروالے کھائیں۔

عقیقے کا گوشت بچے کے ماں باپ، دادا دادی، اور نانا نانی وغیرہ بھی کھا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں۔

عقیقے کے جانور کی کھال کا وہی حکم ہے جو قربانی کی کھال کا ہے کہ چاہے تو خود استعمال کرے یا مساکین کو دے دے یا کسی اور نیک کام مثلاً مسجد یا مدرسہ وغیرہ میں خرچ کرے۔ (ماخوذ از بہار شریعت حصہ ۱۵ ص ۱۵۵)

مدینہ! مزید معلومات کے لئے امیر اہلسنت مدظلہ العالی کی تالیف عقیقے کے بارے میں سوال جواب کا مطالعہ کیجئے۔

### بچے کا ختنہ

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار والا تبار، شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: فطرت پانچ چیزیں ہیں ختنہ کرنا، موئے زیر ناف صاف کرنا، بغل کے بال نوچنا، مونچھیں کترنا، ناخن کاٹنا۔ (صحیح مسلم، باب خصال الفطرت الحدیث ۲۵۷ ص ۱۵۳)

ختنہ کرنا سنت ہے اور یہ شعائر اسلام میں سے ہے کہ اس سے مسلمان اور غیر مسلم میں امتیاز ہوتا ہے اسی لئے اسے مسلمان بھی کہا جاتا ہے ولادت کے سات دن کے بعد ختنہ کرنا جائز ہے ختنہ کی مدت سات سال سے بارہ سال تک ہے۔

(کنز العمال، کتاب النکاح، الفصل الثالث فی الختان، الاکمال محدث ۲۵۳۰۴ ج ۸ ص ۱۸۱)

### مسئلہ

بچے کا ختنہ باپ خود بھی کر سکتا ہے (اگر حجام یا ڈاکٹر وغیرہ ختنہ کریں تو عورت



ان کے سامنے نہ آئے بلکہ بچے کو کوئی مرد پکڑے) (فتاویٰ رضویہ ج ۲۲، ص ۲۰۲)

## بچے کو اس کی ماں دودھ پلائے

اللہ عزوجل فرماتا ہے!

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ (ب ۲ البقرہ ۲۳۳)

اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے دو برس۔

بچے کے لئے ماں کا دودھ بہترین تحفہ ہے بوتل کا دودھ کبھی بھی اس کا نعم البدل نہیں ہو سکتا اس لئے بچے کو ماں کا دودھ پلانا چاہئے شدید مجبوری کی صورت میں اسے کسی نیک عورت کا دودھ پلایا جائے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ دودھ طبیعت کو بدل دیتا ہے۔

(الجامع الصغیر، الحدیث ۴۵۲۵، ص ۲۷۷)

## دودھ پلانے کی فضیلت

نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے تو ہر گھونٹ پلانے پر ایسا اجر ملتا ہے کہ جیسے کسی جاندار کو زندہ کر دیا ہو۔ پھر جب وہ اس کو دودھ چھڑاتی ہے تو ایک فرشتہ اسکے کاندھے پر تھپکی دیتا اور کہتا ہے اپنا عمل دوبارہ شروع کر۔ (یعنی اس کے گناہ بخش دیئے گئے اب دوبارہ اپنے اعمال کا آغاز کرے)۔

(کنز العمال، کتاب النکاح، الفصل الثانی فی ترغیبات تخص بالنساء الحدیث ۴۵۱۵۲ ج ۱۶، ص ۱۷۱)

## مسئلہ

زیادہ سے زیادہ دو سال کی مدت تک ماں یا کسی عورت کا دودھ پلایا جا سکتا ہے

جب بچہ دو سال کی عمر کو پہنچ جائے تو اسے کسی بھی عورت کا دودھ پلانا ناجائز ہے۔

(ماخوذ از بہار شریعت حصہ ۷ ص ۲۹)

### مسئلہ

بچوں کا نظر لگنا ثابت ہے جیسا کہ حضرت سیدتنا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار شفیق روز شمار، دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے گھر ایک بچی کو دیکھا جس کا چہرہ زرد تھا تو ارشاد فرمایا اسے دعا و تعویذ کر او اسے نظر بد لگی ہے۔

(صحیح مسلم کتاب السلام، استجاب الرقیۃ من العین، الخ، الحدیث ۲۱۹۷ ص ۱۲۰۶)

### مسئلہ

بچوں یا بڑوں کو تعویذ پہننا بالکل جائز ہے جبکہ وہ تعویذ آیات قرآنیہ یا اسمائے الہیہ یا دعاؤں پر مشتمل ہو بعض احادیث میں تعویذ کی جو ممانعت آئی ہے اس سے مراد وہ تعویذات ہیں جو ناجائز الفاظ پر مشتمل ہوں جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے تعویذات ہوتے تھے۔

(بہار شریعت، حصہ ۱۶ ص ۲۵۲ رد المحتار کتاب المظنر والاباحۃ فصل فی اللبس ج ۹ ص ۶۰۰)

تعویذات اسمائے الہی سے ہوتے ہیں ان میں اثر نہ ماننے کا جواب وہی بہتر ہے جو حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ العزیز نے ایک ملحد (یعنی بے دین) کو دیا جس نے تعویذات کے اثر میں کلام کیا حضرت قدس سرہ نے فرمایا۔

”تو عجب گدھا ہے“ وہ دنیوی طور پر بڑا معزز بننا تھا یہ لفظ سنتے ہی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا اور گردن کی رگیں پھول گئیں اور بدن غیظ سے کانپنے لگا اور حضرت سے اس نے فرمانے کا شاکی ہوا فرمایا میں نے تو تمہارے سوال کا جواب دیا ہے گدھے کے نام کا اثر تم مشاہدہ کر لیا کہ تمہارے اتنے بڑے جسم کی کیا حالت کر دی لیکن مولیٰ

عزوجل کے نام پاک سے منکر ہو۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

الحمد للہ عزوجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کی مجلس مکتوبات و تعویذات عطاریہ کے تحت دکھیا اے مسلمانوں کا امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطاری قادری مدظلہ العالی کے عطا کردہ تعویذات کے ذریعے فی سبیل اللہ علاج کیا جاتا ہے نیز استخارہ کرنے کا سلسلہ بھی ہے روزانہ ہزاروں مسلمان اس سے مستفیض ہوتے ہیں الحمد للہ عزوجل اس وقت مجلس کی طرف سے بلا مبالغہ لاکھوں تعویذات اور تعزیت عیادت اور تسلی نامے بھیجے جا چکے ہیں اور تا دم تحریر ۲۲ صفر المظفر ۱۴۲۸ ایک اندازے کے مطابق مجلس کی طرف سے ماہانہ سوا دو لاکھ اور سالانہ کم و بیش ۲۶ لاکھ سے زائد ”تعویذات“ و ”اولاد“ دیئے اور کم و بیش ۲۰ سے ۲۵ ہزار مکتوبات بھیجے جاتے ہیں ان میں E-mail کے جوابات بھی شامل ہیں الحمد للہ عزوجل ماہانہ ۲۵۰۰ سے زائد آن لائن استخارہ کی ترکیب بھی ہوتی ہے تعویذات عطاریہ کی متعدد بہاریں ہیں جو مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ خوفناک بلا ”پراسرار کتا“ اور ”سینگوں والی دلہن“ نامی رسائل میں ملاحظہ کی جاسکتیں ہیں تعویذات لینے والے اسلامی بھائیوں اور بہنوں کو چاہئے کہ وہ اپنے شہر میں ہونے والے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت فرمائیں اور وہاں تعویذات عطاریہ کے بستے (سٹال) سے تعویذ حاصل کریں۔

مسئلہ

بچہ چاہے چند منٹ کا ہو اس کا پیشاب بھی اسی طرح ناپاک ہے جس طرح بڑے کا یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے اس کی کوئی اصل نہیں۔

(الفتاویٰ الہندیہ کتاب الطہارۃ ج ۱ ص ۴۶)

اس لئے کارپٹ و قالین پر بچے کو لٹاتے یا بٹھاتے وقت اس کے نیچے پلاسٹک شیٹ بچھادی جائے کیونکہ ناپاک ہونے کی صورت میں ان کا پاک کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔

### مسئلہ

جن اعضاء کا چھپانا Covert ضروری ہے ان کو عورت کہتے ہیں بہت چھوٹے بچے کے لئے عورت نہیں یعنی اس کے بدن کے کسی حصہ کا چھپانا فرض نہیں پھر جب کچھ بڑا ہو گیا تو اس کے آگے پیچھے کا مقام چھپانا ضروری ہے پھر جب اور بڑا ہو جائے تو دس برس سے زیادہ کا ہو جائے تو اس کے لئے بالغ کا سا حکم ہے۔

(ردالمحتار کتاب الخطر والاباۃ فصل فی النظر والسج ۹ ص ۶۰۲)

### گھٹنے نہ کھولنے پڑیں

محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کم عمری میں جب پڑھنے کے لئے جاتے تو راستے میں ایک برساتی نالہ پڑتا تھا جو موسم برسات میں بھر جاتا اس کو عبور کرنے کے لئے دیگر طلبہ اپنے کپڑے سمیٹ لیتے جس سے ان کے گھٹنے ننگے ہو جاتے چونکہ مرد کے اعضاء ستر ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں تک ہیں لہذا آپ اپنے بڑے بھائی سے عرض کرتے ”مجھے کندھوں پر بٹھا کر نالہ پار کروادیں“ تاکہ آپ کو گھٹنے نہ کھولنے پڑیں۔

(حیات محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ص ۳۵)

### اپنے بچوں کو کسی پیر کامل کا مرید بنوادیتے

ایک مسلمان کے لئے اس کی سب سے قیمتی متاع اس کا ایمان ہے اس کی حفاظت کی فکر ہمیں دنیاوی اشیاء سے کہیں زیادہ ہونے چاہئے۔ نیک اعمال پر

استقامت كے علاوہ ايمان كى حفاظت كا ايك ذريعہ كسى پير كامل سے بيعت ہو جانا بهى ہے كسى كو اپنا پير بنانے كے لئے چار شرائط كا لحاظ انتہائى ضرورى ہے۔

(۱) صحیح العقیدہ سنى ہو۔

(۲) اتنا علم ركھتا ہو كہ اپنى ضروريات كے مسائل Proposition كتابوں

سے نكال سکے۔

(۳) فاسق معلن نہ ہو (ايك بار گناہ كبريہ كرنے والا يا گناہ صغيرہ پر اصرار

كرنے والا يعنى تين بار كرنے والا فاسق ہوتا ہے اور اگر على اعلان كرے تو فاسق معلن ہے)۔

(۴) اس كا سلسلہ بيعت نبى كريم صلى اللہ عليه وآله وسلم تك متصل (يعنى ملا ہوا)

ہو۔ (فتاوى رضويہ ج ۲۱ ص ۶۰۳)

فى زمانہ جامع شرائط پير كامل كا ملنا ناياب نہيں تو كم ياب ضرور ہے۔ جو كسى كا

مرید نہ ہو تو اسے چاہے كہ وہ اپنے بچوں سميت سلسلہ قادريہ كے عظيم بزرگ شيخ

طريقت، امير اہل سنت باني دعوت اسلامى حضرت علامہ مولانا محمد الياس عطار قادري

دامت بركا تہم عليه، قطب، مدینہ ميزبان مہمانان مدینہ، خليفہ اعلى حضرات حضرت

سيدنا ضياء الدين مدنى رحمۃ اللہ تعالى عليه كے مرید اور مفتى اعظم پاكستان حضرت علامہ

مفتى وقار الدين رضوى رحمۃ اللہ تعالى عليه شارح بخاريا حضرت علامہ مفتى شريف الحق

امجدى رحمۃ اللہ تعالى عليه جانشين قلب مدینہ حضرت علامہ فضل الرحمن قادري رحمۃ اللہ

عليه كے خليفہ مجاز ہيں ان كے علاوہ ديگر بزرگوں سے بهى خلافتيں اور اجازت اسانيد

احاديث حاصل ہيں۔ آپ دامت بركا تہم العالیه كيا كہنے كہ اس كے عظيم پيشوا حضور

سيدنا غوث الاعظم رحمۃ اللہ عليه قيامت تك كے لئے (بفضل اللہ عزوجل اپنے

مریدوں كے توبہ پر مرنے كے ضامن ہيں۔) (ہجرت الاسرار ذكر فضل اصحابہ و بشر اہم ص ۱۹۱)

مرید ہونے کے لئے اپنا اور بیوی بچوں کا نام و پتہ اس پتے پر روانہ کر دیجئے  
آپ کو مرید بنا لیا جائے گا۔ مکتب نمبر ۳ عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ نزد پرانی سبزی  
منڈی یونیورسٹی روڈ کراچی۔

### بچوں سے محبت کیجئے

بچوں کی دیر یا تعلیم و تربیت کے لئے ان سے ابتداء ہی سے شفقت و محبت کے  
ساتھ پیش آنا چاہئے۔ یوں جب ماں کی مامتا اور شفقت پداری کی شیرینی گھول کر  
تعلیمات اسلام کا مشروب ان کے حلق میں انڈیلا جانے لگا تو وہ فوراً اسے ہضم کریں  
گے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتے ہیں کہ خاتم المرسلین، رحمۃ  
اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بے شک جنت میں ایک گھر ہے جسے  
الفرح کہا جاتا ہے۔ اس میں وہی لوگ داخل ہوں گے جو بچوں کو خوش کرتے ہیں۔

(الجامع صغیر، الحدیث ۲۳۲۱، ص ۱۴۰)

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سراج السالکین  
جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کے کسی پہر نکلے نہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ  
وسلم نے کچھ فرمایا اور نہ میں نے کچھ عرض کی حتیٰ کہ بنی قدیقاع کے بازار میں پہنچے  
(وہاں سے واپس ہوئے) اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کے صحن میں  
بیٹھ گئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ (جو ابھی چھوٹے تھے) کے بارے میں  
دریافت فرمایا! سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے انہیں تھوڑی دیر روکے رکھا۔ میں  
نے سمجھا شاید انہیں ہار پہنار ہی ہیں یا نہلار ہی ہیں اتنے میں وہ یعنی حضرت حسن رضی  
اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں گلے لگا لیا  
چوما اور کہا! اے اللہ عزوجل! اسے محبت کر اور اس سے محبت کر جو اس سے محبت

کرے۔ (صحیح البخاری کتاب البیوع، باب ما ذکر فی الاسواق، الحدیث ۲۱۲۲ ج ۲ ص ۲۵)

حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اتنے میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سرخ رنگ کی دھاریوں والی قمیص پہنے ہوئے چلتے ہوئے آئے۔ چونکہ بچے تھے صحیح طریقے سے چل نہیں سکتے تھے اس لئے کبھی گرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو منبر اقدس سے اترے اور ان دونوں کو اٹھا کر اپنے سامنے بٹھالیا۔

(جامع الترمذی، کتاب المناقب الی محمد بن علی بن ابی طالب الحدیث ۳۷۹۹، ج ۵، ص ۴۲۹)

### بچے کو لوری دینا

بچے کو سلانے یا بہلانے کے لئے لوری دینے کا رواج عام ہے لیکن لوری دیتے وقت خیال رکھا جائے کہ یہ بے معانی کلمات پر مشتمل نہ ہو اور نہ ہی اس میں کوئی غیر شرعی کلمہ ہو بلکہ بہتر یہ ہے کہ حمد یا نعت یا اولیائے کرام کی منقبت بچے کو سنائے جائے تو ثواب بھی ملے گا اور بچے کو نیند بھی آ جائے گی۔ لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ کسی محتاط عالم کا ہی کلام پڑھا جائے۔ مثلاً امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ (حدائق بخشش)، مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ علیہ، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امیر اہلسنت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ وغیرہ۔

مسئلہ

بچوں کو سلانے یا رونے سے باز رکھنے کے لئے ایفون دینا حرام ہے۔

(فتاویٰ رضویہ، ج ۲۴، ص ۱۹۸)

## بچوں پر خرچ کیجئے

اپنے بچوں اور دیگر اہل خانہ پر دل کھول کر خرچ کیجئے اور بشارت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص (نا جائز اور مشتبہ چیز سے) بچنے کے لئے خود پر خرچ کرے گا۔ تو یہ صدقہ ہے اور جو کچھ اپنی بیوی، اولاد اور گھر والوں پر خرچ کرے گا صدقہ ہے۔

(مجمع الزوائد، کتاب الزکوٰۃ، باب فی نفقۃ الرجل، الحدیث ۴۶۶۰، ج ۳، ص ۳۰۲)

حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ شہنشاہ مدینہ قرار قلب و سینہ صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سیکنہ فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”سب سے پہلے جو چیز انسان کے ترازوئے اعمال میں رکھی جائے گی وہ انسان کا وہ خرچ ہوگا جو اس نے اپنے گھر والوں پر کیا ہوگا۔“

(المعجم الاوسط، الحدیث ۶۱۳۵، ج ۳، ص ۳۲۸)

حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم، نور مجسم، شاہ آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا: ”اللہ عزوجل کی رضا کے لئے تو جتنا بھی خرچ کرتا تجھے اس کا اجر دیا جائے گا حتیٰ کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتے ہو اس کا اجر ملے گا۔“

(صحیح البخاری کتاب النجائز باب ربی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحدیث ۱۲۹۵، ج ۱، ص ۲۳۸)

حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک، مختار حبیب پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خرچ کرنے کے اعتبار سے بہترین دنیا روہ ہے جسے آدمی اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے اور وہ دینار بھی جسے اپنے ساتھیوں پر راہ خدا عزوجل میں خرچ کر دیتا ہے۔

(المسند للامام احمد بن حنبل حدیث ثوبان، الحدیث ۲۲۲۳، ج ۸، ص ۳۲۳)



حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہتے ہیں کہ خاتم المرسلین، جناب صادق و امین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دینار وہ ہے جسے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو ایک دینار وہ ہے جسے تم غلام پر خرچ کرتے ہو ایک دینار وہ ہے جسے تم مسکین پر صدقہ کرتے ہو اور ایک دینار وہ ہے جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار پر ملے گا جسے تم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے ہو۔

(صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب فضل النفقۃ علی العیال الخ، الحدیث ۹۹۵، ص ۴۹۹)

حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنو عذرہ کے ایک شخص نے ایک غلام کو مدبر کیا (یعنی یہ کہا کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے) حضور پاک سے سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر پہنچی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے پوچھا کیا تیرے پاس اس کے علاوہ بھی مال ہے اس نے عرض کی ”نہیں“ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس غلام کو مجھ سے کون خریدے گا حضرت سیدنا نعیم بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو آٹھ سو درہم میں خرید لیا اور وہ درہم لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دیئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ درہم اس غلام کے مالک کو دیئے اور فرمایا پہلے اپنی ذات پر خرچ کرو۔ پھر اگر بچے تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو، پھر اگر اپنے اہل و عیال سے کچھ بچے تو قرابت داروں پر اور اگر قرابت داروں سے بھی بچ جائے ادھر ادھر اپنے سامنے، دائیں بائیں۔

(صحیح مسلم، کتاب الزکوٰۃ، باب الابتداء فی النفقۃ بالنفس، الخ، الحدیث ۹۹۷، ص ۴۹۹)

مسئلہ

آدمی پر کم از کم اتنا کمانا فرض ہے جو اس کے لئے اس کے اہل و عیال کے

لئے ادائیگی فرض کے لئے اور انہیں کفالت کر سکے جن کا نفقہ اس کے ذمے واجب ہے۔۔ ماں باپ محتاج و تنگ دست ہوں تو انہیں بقدر کفایت کما کر دینا فرض ہے۔

(الفتاویٰ الہندیہ، کتاب النکاح، باب الخامس عشر فی الکسب، ج ۵، ص ۳۲۸)

### بچوں کو رزقِ حلال کھلائیے

پیاری اسلامی بہنو! اپنے گھر والوں کو رزقِ حلال کھلانے کا التزام کیجئے۔ کہ اس کی بڑی برکتیں اور فضائل ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سے گزرا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے اس کی چستی دیکھ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاش یہ شخص جہاد میں شریک ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اگر یہ اپنے بچوں کی ضرورت پوری کرنے کے لئے نکلا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہے اور اگر اپنے آپ کو (نا جائز و شبہ والی چیز سے) بچانے سے نکلا ہے تو بھی اللہ عز و جل کی راہ میں ہے۔ اور اگر یہ ریا کاری اور تقاخر کے لئے نکلا ہے تو بعرہ سلطان کی راہ میں ہے۔ (المعجم الکبیر، الحدیث ۲۸۲، ج ۱۹، ص ۱۲۹)

امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں۔ ”جو شخص لگاتار حلال کی روزی کھاتا ہے اور حرام کے لقمہ کی آمیزش نہیں، ہونے دیتا، اللہ عز و جل اس کے دل کو اپنے نور سے روشن کر دیتا ہے۔ اور حکمت کے چشمے اس کے دل سے جاری ہو جاتے ہیں۔

(کیسائے سعادت، باب اول، فضیلت طلب حلال، ج ۱، ص ۳۲۲)

حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جو شخص اس لئے حلال کھائی کرتا ہے کہ سوال کرنے سے بچے، اہل و عیال کے لئے کچھ حاصل کرے اور پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرے تو وہ قیامت میں اس طرح آئے گا کہ اس کا چہرہ جو

دسویں کے چاند کی طرح چمکتا ہوگا۔“

(شعب الایمان، باب فی الزہد و قصر الازل، الحدیث ۱۰۳۷۵، ج ۷، ص ۳۹۸)

تکمیل ضروریات اور آسائشوں کے حصول کے لئے ہرگز ہرگز حرام کمائی کے جال میں نہ پھنسیں کہ یہ آپ کے اور آپ کے گھر والوں کے لئے دنیا و آخرت میں عظیم خسارے کا باعث ہے جیسا کہ حضرت سیدنا جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ شہنشاہ مدینہ، قرار قلب و سینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سیکڑہ، فیض گنجینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”وہ گوشت ہرگز جنت میں داخل نہ ہو گا جو حرام میں پلا بڑھا ہے۔“

(سنن الدارمی، کتاب الرقاق، باب فی آل السمیت، الحدیث ۲۷۷۶، ج ۲، ص ۳۰۹)

حضرت سیدنا عبد اللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکی نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”سود کا ایک درہم جو انسان (اس کا سود ہونا) جانتے ہوئے کھائے، چھتیس بار زنا کرنے سے سخت تر ہے۔“

(المسند للإمام احمد بن حنبل حدیث عبد اللہ بن حنظلہ الحدیث ۲۲۰۱۶، ج ۱۸، ص ۲۲۳)

## تنگ دستی کی وجہ سے حرام کمانے والا

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم، نور مجسم، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین دار کو اپنا پین بچانے کے لئے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ اور ایک غار سے دوسری غار کی طرف بھاگنا پڑے گا تو جب ایسا زمانہ آجائے تو روزی اللہ عزوجل کی ناراضگی ہی سے حاصل کی جائے گی پھر اس زمانہ میں آدمی اپنے بیوی بچوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔ اگر اس کے بیوی بچے نہ ہو تو وہ رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوگا۔“ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی: ”یا رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم وہ کیسے؟“ فرمایا: ”وہ اسے اس کی تنگ دستی پر عار دلائیں گے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے والے کاموں میں مصروف کر دے گا۔“

(الزہد الکبیر، الحدیث ۴۷۹، ص ۱۸۳)

### احتیاط نبوی

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے (جبکہ ابھی بچے ہی تھے) ایک مرتبہ صدقے کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لی جب حضور اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو فوراً فرمایا (کنغ کنغ) یعنی منہ سے نکل کر پھینک دو، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم یعنی بنو ہاشم صدقے کا مال نہیں کھاتے۔

### بچوں کو نیا پھل کھلائیے

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہلا پھل پیش کیا جاتا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے: ”یا الہی عزوجل! ہمارے مدینہ، ہمارے پھلوں اور ہمارے مد اور صاع میں برکت در برکت عطا فرما“ پھر وہ پھل وہاں موجود بچوں میں سب سے چھوٹے بچے کو دے دیتے۔“

(صحیح المسلم کتاب الحج باب فضل المدینہ ودعاء النبیؐ فیھا بالبرکت الحدیث ۱۳۷۳، ص ۷۱۳)

جب کوئی نیا پھل آئے تو اپنے بچوں کو کھلائیے کہ نئے کو نیا مناسب ہے پھل وغیرہ بانٹنے میں پہلے بیٹیوں کو دیجئے کہ ان کا دل بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی مکرم، نور مجسم رسول اکرم شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”جو بازار سے اپنے بچوں کے لئے کوئی نئی چیز

لائے تو وہ ان پر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے اور اسے چاہئے کہ بیٹیوں سے ابتداء کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ بیٹیوں پر رحم فرماتا ہے اور جو شخص اپنی بیٹیوں پر رحمت و شفقت کرے وہ خوف خدا عزوجل میں رونے والے کی مثل ہے اور جو اپنی بیٹیوں کو خوش کرے اللہ تعالیٰ بروز قیامت اسے خوش کرے گا۔“

(فردوس الاخبار، باب المیم، الحدیث، ۵۸۳، ج ۲، ص ۲۶۳)

## بچے کی صحت کا خیال رکھئے

والدین کو چاہئے کہ بچوں کی اچھی صحت کے لئے ضروری لوازمات مثلاً اچھی غذا صاف ستھرے گھر اور موسم کے مطابق آرام دہ لباس کا خیال رکھیں۔ ان کے استعمال کی اشیاء کو جراثیم سے بچا کر رکھیں۔ انہیں حفاظتی ٹیکے لگوائیں اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو کسی ماہر طبیب کی خدمت حاصل کریں۔ حصول شفاء کے لئے اللہ عزوجل کے پیاروں کی بارگاہ میں بھی حاضر ہونا چاہئے۔ جیسا کہ حضرت سیدنا سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں لے گئیں اور عرض کی ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بھانجا بیمار ہے۔“ (یہ سن کر) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ پھرا اور میرے لئے دعائے برکت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو فرمایا تو میں نے آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا۔

(صحیح المسلم کتاب الفعائل۔ باب اثبات خاتم النبوة، الحدیث ۲۳۴، ص ۱۲۷)

پیاری اسلامی بہنو! اگر کبھی آپ کی اولاد یا گھر کا کوئی اور فرد بیمار ہو جائے تو طبی علاج کے ساتھ ساتھ راہ خدا عزوجل میں سفر کرنے والے مدنی قافلوں میں شامل ہو کر اس کی صحت یابی کی دعا بھی کیجئے۔ الحمد للہ عزوجل! راہ خدا عزوجل میں عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کی برکت سے شفا یابی کے کئی واقعات ہیں۔ روسا

ریں ملاحظہ ہوں۔

## بینائی واپس آگئی

شیخ طریقت، امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطاری قادری دامت برکاتہم العالیہ کے پاس ایک صاحب اپنے منے کو گود میں اٹھا کر دم کروانے کے لئے لائے اور بتایا کہ بچے کی بینائی چلے گئی ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے دم کرنے کے بعد مشورہ دیا کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کریں اور سفر پر جا کر دعا کریں۔ ان شاء اللہ عزوجل کرم کرے گا۔ کچھ عرصے بعد وہ صاحب پھر اپنے منے کو لے کر فیضانِ مدینہ تشریف لائے اور بتایا کہ میں نے عاشقانِ رسول کے مدنی قافلے میں سفر کیا اور سفر پر جا کر دعا مانگی تھی الحمد للہ عزوجل! میرے منے کی آنکھوں کی روشنی واپس آچکی ہے۔

انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں  
کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں

(دعوت اسلامی کی بہاریں، قسط اول، ص ۳)

## علاج ہو گیا

ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ ہمارے پڑوسی کا بچہ کسی موذی مرض میں مبتلا ہو گیا۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ اس کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا۔ اگر اس کی زندگی چاہتے ہو تو اسے بیرون ملک لے جاؤ۔ وہ بے چارہ غریب شخص بیرون ملک علاج کروانے کے لئے لاکھوں روپے کہاں سے لاتا۔ الغرض وہ اپنے لختِ جگر کی زندگی سے ناامید ہو گیا۔ باب المدینہ (کراچی) میں ہونے والے تین روزہ سنتوں بھرا اجتماع قریب تھا۔ میں نے اسے اجتماع میں شرکت کر کے دعا کرنے کی ترغیب دلائی۔

چنانچہ وہ اپنے بیمار بچے کو بھی اجتماع میں لے گیا۔ اور گڑگڑا کر دعا مانگی۔ الحمد للہ عزوجل بچہ بالکل تندرست ہو گیا۔ جب ڈاکٹروں نے بچہ کا دوبارہ معائنہ کیا تو حیران رہ گئے۔

(دعوت اسلامی کی بہاریں، حصہ اول، ص ۱۵)

### زبان کھلنے کے بعد اللہ عزوجل کا نام سکھائیے

جب بچہ ذرا ہوشیار ہو جائے اور زبان کھولنے لگے تو سب سے پہلے اس کے خالق و مالک اور رازق کا اسم ذات ”اللہ“ سکھانا چاہئے اور اس بات کا التزام بھی کیا جائے کہ اس کی پاک و صاف زبان سے پہلے کلمہ طیبہ ہی جاری ہو۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک، صاحب لولاک، سیاح افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”اپنے بچوں کی زبان سے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہو“۔

(شعب الایمان، باب فی حقوق الاولاد، الحدیث ۸۶۳۹، ج ۶، ص ۳۶۷)

شیخ طریقت، امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی نواسی کے لئے سب گھر والوں کو کہہ رکھا تھا کہ اس کے سامنے ”اللہ اللہ ذکر کرتے رہیں تاکہ اس کی زبان سے پہلا لفظ ”اللہ“ نکلے اور جب وہ آپ دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں لائی جاتی تو آپ خود بھی اس کے سامنے ذکر اللہ کرتے۔ چنانچہ جب ان کی نواسی نے بولنا شروع کیا تو پہلا لفظ ”اللہ“ ہی بولا۔

تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورٰی کے مرحوم رکن الحاج الحافظ المفتی محمد فاروق العطار المدنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کی مدنی مٹی ان کی وفات کے وقت گیارہ ماہ کی تھی۔ جب مدنی مٹی سے گھر کا کوئی فرد کہتا

كه بولو بٹى ”پاپا“ تو فرماتے! ”اس كو يوں نه سكھايئے بلكه اس كے سامنے ”اللہ اللہ“ كہتے ہيں۔“ (مفتى دعوت اسلامى، ص ۳۳)

بچے جب بولنا شروع كريں تو اس سے گفتگوں كے دوران صاف اور آسان چھوٹے چھوٹے فقروں ميں بات كريں۔ بچے شروع شروع ميں تولا كر بولتے ہيں ليكن آپ ايسا نہ كريں كيونكه ايسى صورت ميں وہ اسى انداز كو اچھا سمجھنا شروع كريں اور ان كو يہ عادت بڑے ہو كر بهي باقى رہتى ہے۔

### باپ كا نام اور گھر كا پتہ ياد كرايئے

جونہى بچہ گھر سے باہر نکلنے كے قابل ہو جائے تو اسے اس كے والہ اور داد اور چچا كا نام گلى يا محلے كا نام ياد كروا دیجئے تاكه خوانخواستہ گم ہو جانے كى صورت ميں اسے آسانى سے گھر پہنچا يا جاسكے۔ اگر آپ اس كام ميں سستى كريں گے تو ہو سكتا ہے بچہ گم ہونے كى صورت ميں جلدى نہ مل سكتے كيونكه جو شخص بهي اسے گھر پہنچانا چاہے گا وہ اس سے اس كا نام و پتہ پوچھے گا اور جواب ميں بچہ اگر يہ كہے گا كه ميں اپنے باپ كا بيٹا ہوں۔ اور اپنے گھر ميں رہتا ہوں تو اس كے گھر بار كا كچھ پتہ نہ چل سكتے گا۔

### ضرورى عقائد سكھايئے۔

والدين كو چاہيے كه جب ان كى اولاد سن شعور كو پہنچ جائے تو اسے اللہتعالى فرستوں؟ آسمانى كتابوں، انبياء كرام عليهم السلام، قيامت اور جنت و دوزخ كے بارے ميں بتدرج عقائد سكھائیں بچے كو بتائیں كه ہمیں اللہ تعالى نے پيدا كيا ہے وہي ہمیں رزق (Livelihood) عطا فرماتا ہے۔ اسى نے زندگى دي ہے وہي موت دے گا۔ ہم صرف اسى كى عبادت كرتے ہيں۔ وہ جسم، جگہ اور مكان سے پاك ہے (بعض ماں باپ اللہ تعالى كا نام لينے پر اپنے بچے كو آسمان كى طرف انگلى اٹھانا سكھاتے)



ہیں ایسا نہ کیا جائے) وہ کسی کا محتاج نہیں ساری کائنات اس کی محتاج ہے وہ اولاد سے پاک ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ جو کچھ ہو چکا ہے۔ جو ہو رہا ہے یا ہو گا وہ سب جانتا ہے۔ فرشتے اس کی نوری مخلوق ہیں جو اس کے حکم سے مختلف کام سرانجام دیتے ہیں۔ مثلاً بارش برسانا، ہوا چلانا، کسی کی روح نکالنا وغیرہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لئے بہت سے صحیفے اور کتابیں نازل فرمائیں جن میں چار کتابیں بہت مشہور ہیں۔

(۱) تورت یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔

(۲) زبور یہ حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔

(۳) انجیل یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔

(۴) قرآن کریم یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی رہنمائی کے لئے اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا جن کی مکمل تعداد وہی جانتا ہے اور سب سے آخر میں ہمارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عزوجل کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلیٰ شان عطا فرمائی ہے۔ قیامت سے مراد یہ ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ آسمان و زمین سب تباہ ہو جائیں گے پھر مردے اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور میدان محشر میں اپنے رب عزوجل کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور اپنے اعمال کا حساب دیں گے۔ پھر جس کے عمل اچھے ہوں گے اسے جنت ملے گی اور جس کے اعمال بُرے ہوں گے اسے دوزخ میں جانا پڑے گا۔ بچے کے ذہن میں جنت کا شوق اور جہنم کا خوف بٹھائیے اس سلسلے میں بچے کی سمجھ بوجھ کے مطابق انعامات جنت اور عذابات جہنم کی روایات سنائیے اور اسے بتائیے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ

اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی اور اگر اللہ عزوجل کی نافرمانی میں زندگی بسر کی تو جہنم کا عذاب ہمارا منتظر ہوگا۔  
والعیاذ باللہ!

(ماخوذ از بہار شریعت، حصہ اول)

## حکایت

ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہر کے کنارے پر چل رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ کنارے پر بیٹھا وضو کر رہا ہے اور رو بھی رہا ہے۔ آپ نے پوچھا اے منے! تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے عرض کی میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا جب میں اس آیت پر پہنچا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ (ب ۲۸، التحريم ۶)

”اے ایمان والو! اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کے ایندھن آدمی اور پتھر ہیں۔“

تو میں ڈر گیا کہ اللہ تعالیٰ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ آپ نے فرمایا: منے! تم تو بہت چھوٹے ہو، تم جہنم میں نہیں جاؤ گے۔ وہ کہنے لگا۔ بابا جان آپ تو سمجھ دار ہیں کیا کیا آپ نہیں جانتے کہ جب لوگ اپنی ضرورت کے لئے آگ جلاتے ہیں تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کو رکھتے ہیں پھر بڑی لکڑیاں آگ میں ڈالتے ہیں۔ وہ بزرگ اس ننھے مدنی کے اس انداز (Behaviour) کو دیکھ کر بہت مدوئے اور فرمانے لگے، یہ بچہ ہم سے کہیں زیادہ جہنم کی آگ سے ڈرتا ہے تو ہمارا حال کیا ہونا چاہئے۔

(درۃ الناصحین، مجلس السابع، داستان ص ۲۹۳)

## بچے کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ڈالنے

والدین کو چاہئے کہ سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے مختلف واقعات و مقامات کو سنا کر بچے کو سناتے رہیں تاکہ اس کے دل میں عشقِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروان چڑھتا چلا جائے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک، صاحبِ لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم میں کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں۔ ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔

(صحیح البخاری، کتاب الایمان، باب حب الرسول من الایمان، الحدیث ۱۴، ج ۱، ص ۱۵)

حضور پاک، سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ رحمت نشان ہے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لئے مغفرت ہے۔

(الجامع الصغیر الحدیث ۱۴۰۶، ص ۸۷)

سید المبلغین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ جنت نشان ہے بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ میری قبر پر مقرر فرمایا ہے جسے تمام مخلوق کی آوازیں سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے پس قیامت تک جو کوئی مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو وہ مجھے اس کا اور اسکے باپ کا نام پیش کرتا ہے۔ کہتا ہے فلاں بن فلاں نے آپ پر اس وقت درود پاک پڑھا ہے۔

(مجمع الزوائد، کتاب الادعیۃ، باب فی الصلوٰۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی الدعاء وغیرہ، الحدیث ۱۷۲۹۱،

ج ۱۰، ص ۲۵۱)

والدین کو چاہئے کہ جب بھی نبی کریم رؤف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اقدس آئے تو اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگالیں۔ اس کا ثبوت اس روایت

میں ہے کہ

حضرت سیدنا امام حسن المجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جو شخص موزن کو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے سننے اور یہ دعا پڑھتے تھے۔

مَرَحَبًا بِحَبِيبِي وَ قُرَّةُ عَيْنِي مُحَمَّدًا بِنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

اور اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگائے تو نہ کبھی اندھا ہو اور نہ کبھی  
اس کی آنکھیں دکھیں۔ (المقاصد الحسنة تحت الحديث ۱۰۲۱ ص ۳۹۰)

سید المحبوبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر نور ایمان و سرور چنان ہے۔ اس لئے  
والدین کو چاہئے کہ اپنے بچے میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف  
پڑھنے اور سننے کا ذوق و شوق بیدار کریں۔

صحابہ کرام و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت سکھائیے

اپنے اسلاف سے عقیدت و محبت کا تعلق ایمان کی مضبوطی کا ذریعہ ہے اس لئے  
والدین کو چاہئے کہ اپنے بچوں کے دل میں صحابہ کرام و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی  
عقیدت پیدا کریں اس کے لئے بچوں کو ان نفوس قدسیہ کی سیرت کے نورانی واقعات  
سنانے۔

حضرت سیدنا عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نور کے پیکر،  
سلطان بحر و بر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میرے صحابہ کے بارے میں اللہ  
عز و جل سے ڈرو۔ میرے بعد انہیں نشانہ اعتراض نہ بنانا۔ جس نے ان سے محبت  
رکھی تو اس نے مجھ سے محبت کے سبب ان سے محبت رکھی اور جس نے ان سے بغض رکھا  
تو اس نے مجھ سے بغض کے سبب ان سے بغض رکھا اور جس نے انہیں اذیت دی اس  
نے مجھے اذیت دی اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی، قریب

ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنی گرفت میں لے لے۔

(سنن الترمذی، کتاب المناقب، باب فی من سب اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحدیث ۳۸۸۸، ج ۵، ص ۴۶۳)

حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبۃ اللہ شریف کا دروازہ پکڑے ہوئے فرمایا کہ میں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا! خبردار! تم میں میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح علیہ السلام کی طرح ہے جو اس میں سوار ہوا۔ وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہا وہ ہلاک ہو گیا۔

(المسند رک، کتاب معرفۃ الصحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم باب ومدنی ابی فی اہل بیتی الخ الحدیث ۴۷۷۲، ج ۴، ص ۱۳۲)

### اولیاء کرام رحمہم اللہ کا ادب سکھائیے

اپنی اولاد کو اللہ تعالیٰ کے ولیوں کا ادب سکھائیے اور ان کی پیروی کا ذہن بنائیے اپنے مقبول بندوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے!

أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (پ ۱۱، یونس ۶۲)

سن لو بے شک اللہ کے ولیوں یہ نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے جو اللہ عزوجل کے کسی ولی سے دشمنی رکھے تحقیق اس نے اللہ عزوجل سے اعلان جنگ کر دیا۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب من ترجی لہ اسلامۃ من الفتن الحدیث ۳۹۸۹، ج ۴، ص ۳۵۰)

لیکن یاد رکھئے! کہ کوئی بھی ولی چاہے وہ کیسا ہی عظیم ہو، احکام شرعیہ کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ واڑھی منڈانے، ایک مٹھی سے گھٹانے، گالیاں بکنے، گانے سننے، فلمیں ڈرامے دیکھنے، نامحرم عورتوں کا ہاتھ پکڑنے والا اور دیگر اعلانیہ گناہ کرنے والا شخص کبھی ولی نہیں ہو سکتا بعض جاہل یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ شریعت ایک راستہ ہے اور راستہ کی حاجت ان کو ہوتی ہے جو مقصود تک نہ پہنچے ہوں۔ ہم تو پہنچ

گئے۔ ایسوں کے بارے میں سید الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا: بے شک وہ سچ کہتے ہیں وہ پہنچ گئے مگر کہاں؟ جہنم میں۔

(الواقیت والجواہر، بحث المسادس والعشرون، الجزء الاول ص ۲۰۶)

### اپنے بچے کو قرآن پڑھائیے

قرآن ایک نور ہے اگر بچوں کا دل و دماغ قرآن کی روشنی سے آراستہ کیا جائے تو ان شاء اللہ عزوجل ان کا باطن بھی منور ہو جائے گا۔ معلم اعظم، شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اولاد کو تعلیم قرآن سے آراستہ کرنے والوں کو کئی بشارتیں عطا فرمائی چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے دینار میں اپنے بچے کو قرآن پڑھنا سکھایا تو بروز قیامت جنت میں اس شخص کو ایک تاج پہنایا جائے گا۔ جس کی بناء پر اہل جنت جان لیں گے کہ اس شخص نے دنیا میں اپنے بیٹے کو تعلیم دلوائی تھی۔

(المعجم الاوسط، الحدیث ۹۶ ج ۱، ص ۴۰)

اگر بچے کا رجحان ہو تو اسے قرآن پاک بھی حفظ کروائیے اس کی فضیلت زیادہ ہے جیسا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا! جس شخص نے اپنے بیٹے کو قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا سکھایا تو اللہ تعالیٰ اس باپ کو چودھویں رات کے چاند کی مانند اٹھائے گا اور اس کے بیٹے سے کہا جائے گا۔ پڑھ پس جب بھی وہ ایک آیت پڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے باپ کا ایک درجہ بلند فرمادے گا۔ یہاں تک کہ وہ پورا قرآن ختم کرے۔

(المعجم الاوسط، الحدیث ۱۹۳۵، ج ۱، ص ۵۲۲)

والدین کو چاہئے کہ اپنے بچے کو قرآن پاک پڑھانے کے لئے ایسے صحیح العقیدہ

قاری صاحب کا انتخاب کریں۔ جو بچے کو درست مخارج سے قرآن پاک پڑھائیں کیونکہ قرآن پاک اتنی تجوید سے پڑھنا فرض عین ہے کہ حرف دوسرے سے صحیح ممتاز ہو۔

(فتاویٰ رضویہ ج ۳، ص ۲۵۳)

اس کے ساتھ ساتھ وہ قاری صاحب بچے کی تربیت میں والدین کے معاون بھی بنیں۔

### مدرستہ المدینہ

پیاری اسلامی بہنو! الحمد للہ! تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے زیر انتظام اندرون و بیرون ملک حفظ و ناظرہ کے ہزاروں مدارس بنام مدرستہ المدینہ قائم ہیں۔ جہاں بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی اخلاقی تربیت پر بھی خصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ صرف پاکستان میں تادم تحریر کم و بیش ۴۲،۰۰۰ ہزار مدنی منے اور مدنی منیوں کو حفظ و ناظرہ کی مفت تعلیم دی جا رہی ہے والدین کو چاہئے کہ اپنے بچے کی بہتر تربیت کے لئے اسے قریبی مدرستہ المدینہ میں داخل کروائیں۔

### سات برس کی عمر سے نماز کی تاکید کیجئے

جب بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنا سکھائیں اور اسے پانچوں وقت کی نماز ادا کروائیں تاکہ بچپن ہی سے ادائیگی نماز کی عادت پختہ ہو۔ بچے کو بالخصوص صبح سویرے اٹھنے اور وضو کر کے نماز پڑھنے کی عادت ڈالئے۔ مگر سردیوں میں بچے کو وضو کے لئے نیم گرم پانی مہیا کیجئے تاکہ وہ سرد پانی کی مشقت سے گھبرا کر وضو اور نماز سے جی نہ چرائے۔ بلکہ والد صاحب کو چاہئے کہ اسے مسجد میں اپنے ساتھ لے

جائیں لیکن پہلے اسے مسجد کے آداب سے آگاہ کر دیں کہ مسجد میں شور نہیں مچانا۔ ادھر ادھر نہیں بھاگنا۔ نمازیوں کے آگے سے نہیں گزرنا وغیرہ۔ پھر اسے جماعت کی سب سے آخر صف میں دوسرے بچوں کے ساتھ کھڑا کریں۔ اس حکمت عملی کی بدولت بچے کا مسجد کے ساتھ روحانی رشتہ قائم ہو جائے گا۔ ان شاء اللہ عزوجل۔

شاہ بنی آدم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ بچوں کو سات سال کی عمر ہو جانے پر نماز سکھاؤ اور دس سال کے ہو جانے پر انہیں نماز کے معاملے پر مارو۔

(سنن ترمذی، ابواب الصلوٰۃ، باب ماجاء متی یوم الرضی بالصلوٰۃ، الحدیث ۴۰۷، ج ۱، ص ۲۱۶)

## نماز کے عادی

جب محدث اعظم حضرت علامہ مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ علیہ بچپن (Childhood) میں چلنے پھرنے کے قابل ہوئے تو اپنے والد ماجد کے ہمراہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لئے جانا شروع کر دیا۔ (حیات محدث اعظم رحمۃ اللہ علیہ ص ۳۰)

## روزہ رکھوایئے

نماز کی طرح بچے کو روزہ رکھنے کا بھی عادی بنایا جائے۔ اسے روزے کی مشق اس طرح کروائی جائے کہ پہلے اسے چند گھنٹے بھوکا رہنے کا ذہن دیا جائے۔ پھر بتدریج اس دورانے کو بڑھایا جائے اور جب بچہ روزہ رکھنے کے قابل ہو جائے تو اسے روزہ رکھوایا جائے لیکن اسے باور کروایا جائے کہ محض بھوک پیاس برداشت (Endurance) کرنے کا نام روزہ نہیں بلکہ روزے میں ہر بُرے کام سے بچنا چاہئے۔

## روزہ کشائی

اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت الشاہ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ



الرحمن كى روزہ كشافى كى قرفب كاحال بفان كرفف ءوفف مولانا سفء اوفب على علىف رحمف اللء القوف فرمافف ففں۔ كف ”رمضان مبارك كا مقءس مہفنہ فف اور اعلف ءضرف قءس سرہ العرفزف كف ففلف روزہ كشافى كى قرفب فف كاشانہ اقدس مفں جفاں افطار كا اور بفف قسم كا سامان فف افك محفوظ كمرف مفں ففرفن كى ففالف جمائف كى لئف ءفف ءوفف ءفف۔ آفتاب نصف النهار فر فف ءفك شفء كى گرمف كا وقت فف كف ءضور كى والء ماجء آف كو اسف كمرف مفں لء جائف ففں اور دروازہ كى ففء بئء كى كى افك ففالف اءفا كر ءفف ففں كف اسف كفالو۔

آف عرض كرفف ففں مفرا ءو روزہ فف كسف كفالو؟ ارشء ءوفا فف بءوں كا روزہ افسا فف ءوفا فف لو كفالو۔ مفں نء دروازہ بئء كر ءفا فف۔ كوئف ءفكفن والا بفف ففں ففں۔ آف عرض كرفف ففں۔ جس كى ءكم سف روزہ ركفا فف ءو ءو ءفك رفا فف فف سنفف فف ءضور كى والء ماجء كى ءشمان مبارك سف اشكوں كا ءار بئء كفا اور كمرہ كھول كر بافر لء آئف۔

(ءفء اعلف ءضرف ص ۸۷، مكءبف نبوفف لا ءور)

## ءفنئ ءعلفم ءلوا ففئ

ففارى اسلامف بفنو! افنئ اولاء كو كامل مسلمان بنائف كى لئف زفور علم ءفن سف آراسف كرنا بء ءضروفى فف مكر آء! آء ءفنئ ءعلفم كا رءان نء ءونف كى برابر فف افنئ ءونهار بءوں كو ءنفا ءى علوم و فنون ءو ءوب سكفالئ جائف ففں مكر سنئفن سكفالئ كى طرف ءو ءب ففں كى جائف۔ اگر بء ذرا ءفن ءو ءو اس كى والء فن كى ءل مفں اس ءاكءر، انءفنئر، فر ففسر، كمپوئر فر وكرام بنائف كى ءوا ءش انكرا اففاں لئف لگءف ففں اور اس ءوا ءش كى ءكفل كى لئف اس كى ءفنئ تربفء سف منہ موءر كر مفرئف ءبذفب كى نمائئءه اءاروں كى مءلوط ماءول مفں ءعلفم ءلوانف مفں كوئف ءار ءسوس ففں كى جائف بلكه اسف اعلف

تعلیم کی خاطر کفار کے حوالے کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا جاتا۔ اور اگر بچہ کند ذہن ہے یا شرارتی ہے یا معذور (Disable) ہے تو جان چھڑانے کے لئے اسے کسی دارالعلوم یا جامعہ میں داخلہ دلا دیا جاتا ہے۔ بظاہر اس کی وجہ یہی نظر آتی ہے کہ والدین کی اکثریت کا منظر محض دنیاوی مال و جاہ ہوتی ہے اُخروی مراتب کا حصول ان کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ والدین کو چاہئے کہ پہلے اپنی اولاد کو ضروری دینی تعلیم دلوائیں اسے کم از کم نماز و روزہ کے مسائل، دیگر فرائض و واجبات حلال و حرام، خرید و فروخت، اجارہ (یعنی اجرت پر خدمت لینے یا دینے) حقوق العباد وغیرہ کے شرعی احکام سکھا دیئے جائیں۔

اس کے بعد چاہیں تو وہ دنیاوی تعلیم جس سے احکام شرعیہ کی خلاف ورزی لازم نہ آتی ہو، بھی دلوائیں لیکن بہتر یہ ہے کہ اسے درس نظامی (یعنی عالم کورس) کروائیں تاکہ وہ عالم بننے کے بعد معاشرے میں لائق تقلید کردار کا مالک بنے اور دوسروں کو دین کا علم سکھائے۔ بطور ترغیب علم ہدین دیکھنے کے چند فضائل ملاحظہ ہوں۔

حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو علم کی تلاش میں کسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے اور بے شک فرشتے طالب العلم کے عمل سے خوش ہو کر اس کے لئے اپنے پر بچھا دیتے ہیں اور بے شک زمین و آسمان میں رہنے والے حتیٰ کہ پانی کی مچھلیاں طالب علم کے لئے استغفار کرتی ہیں اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسی چودھویں رات کے چاند کی دیگر ستاروں پر اور بے شک علماء دارث انبیاء علیہم السلام ہیں اور انبیاء علیہم السلام درہم و دینار کا وارث نہیں بناتے بلکہ یہ نفوس قدسیہ تو صرف علم کا وارث بناتے ہیں تو جس نے اسے حاصل کر لیا اس نے بڑا حصہ حاصل کر لیا۔

(سنن ابن ماجہ، کتاب السنۃ، باب فضل العلماء و احوال علی طلب العلم، الحدیث ۲۲۳، ج ۱، ص ۱۴۵)

حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو بندہ علم کی جستجو میں جوتے یا موزے یا کپڑے پہنتا ہے اپنے گھر کی چوکھٹ سے نکلتے ہی اس کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں۔

(المعجم الاوسط، باب المہم، الحدیث ۵۷۲۲ ج ۲ ص ۲۰۴)

## استاد کا انتخاب

ان شفاف آئینوں میں تقویٰ و پرہیزگاری کی نقش نگاری کرنے اور شیطان کی کاریگری سے محفوظ رکھنے کے لئے ضروری ہے۔ کہ بچوں کی تعلیم کے لئے ایسا استاد تلاش کیا جائے جو خوف خدا عزوجل اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر ہو مگر افسوس کہ فی زمانہ یہ اہم انتخاب بھی دنیاوی تقاضوں اور سہولتوں کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے۔ کہ اسلامی دنیا میں جتنے بھی لعل و جواہر پیدا ہوئے ان کی تعلیم و تربیت خدا ترس اور شریف النفس علماء و اساتذہ کے ہاتھوں ہوئی حدیث میں ہے۔

بے شک یہ علم دین ہے تم میں سے ہر شخص دیکھ لے کہ وہ کس سے دین حاصل کر

رہا ہے۔

(کنز العمال کتاب العلم، الباب الثالث فی آداب العلم الحدیث ۲۹۲۶۰ ج ۱۰ ص ۱۰۵)

## جامعۃ المدینہ

الحمد للہ عزوجل! دعوت اسلامی کے زیر انتظام کثیر جامعات بنا کر جامعۃ المدینہ قائم ہیں۔ ان کے ذریعے لا تعداد اسلامی بھائیوں کو (حسب ضرورت قیام و طعام کی سہولت کے ساتھ) درس نظامی اور اسلامی بہنوں کو عالمہ کورس کی مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جامعات میں ایسا مدنی ماحول فراہم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ یہاں سے پڑھنے والے علم و عمل کا پیکر بن کر نکلیں۔ آپ بھی اپنی اولاد کو علم و عمل

سكھانے كے لئے جامعۃ المدینہ میں تعلیم دلوائیے۔

## شوق علم

امام اہلسنت، مجدد دین و ملت الشاہ مولانا احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن كى ہمشیرہ كا بیان ہے كہ اعلیٰ حضرت نے بچپن میں كبھی پڑھنے میں نہیں كى، خود سے برابر پڑھنے كو تشریف لے جایا كرنے، جمعہ كے دن بھی چاہا كہ پڑھنے جائیں مگر والد صاحب كے منع فرمانے سے رك گئے۔

(حیات اعلیٰ حضرت ج ۱، ص ۸۹)

## آداب سكھائیے

حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت كرتے ہیں كہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ انسان كا اپنے بچے كو ادب سكھانا ایک صاع صدقہ كرنے سے بہتر ہے۔

(سنن الترمذی، كتاب ابرو العله، باب ماجاء فی ادب الولد، الحدیث ۱۹۵۸، ج ۳، ص ۳۸۲)

اللہ عزوجل كے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كا فرمان رحمت نشان ہے كسی باپ نے اپنے بیٹے كو اچھا ادب سكھانے سے بڑھ كر كوئی عطیہ نہیں دیا۔

(سنن الترمذی، كتاب ابرو الصلۃ، باب ماجاء فی ادب اولد الحدیث ۱۹۵۹، ج ۳، ص ۳۸۳)

والدین كو چاہئے كہ اپنے بچے كو مختلف آداب سكھائیں۔ محفل كے آداب سكھائیں، سونے كے آداب سكھائیں جاگنے كے آداب سكھائیں۔ گفتگو كے آداب سكھائیں۔ میری پیاری اسلامی بہنو! اس طرح كی اچھی اور پاكیزہ سوچ ہمیں کہاں سے ملے گی دعوت اسلامی كے پیارے اور مہكے مدنی ماحول سے ملے گی۔

میٹھی میٹھی اسلامی بہنو:

اگر آپ رضائے الہی كو پانا چاہتی ہیں تو دعوت اسلامی كے مدنی ماحول سے

وابستہ ہو جائیے، اپنے حلقے میں ہونے والے اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کیجئے۔ ان شاء اللہ اس کی برکت سے آپ کا سینہ مدینہ بن جائے گا۔

الحمد للہ دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، خوش نصیب اسلامی بہنیں گھر گھر نیکی کی دعوت کی دھو میں مچا رہی ہیں۔ آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے میں لگ جائیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنائیے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی خاتونِ جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نورانی سیرت اپنائیے اور دونوں جہانوں میں عزت پائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت و ریاضت میں مصروف رکھے اور اخلاص کے ساتھ اعمالِ صالحہ پر کار بند رکھے۔

اٰمِيْنُ بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنِ

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ



## غریبوں کا حج

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَاغُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

### ﴿فضیلت دوروپاک﴾

۱۹۶۵ء کا واقعہ ہے کہ پاک بھارت جنگ کے دوران ہندوستان نے ضیاء کوٹ  
یعنی سیالکوٹ کے محاذ پر بڑا حملہ کیا، جس میں ٹینک، ٹینک شکن توپیں، بکتر بند گاڑیاں  
اور دیگر خود کار ہتھیار استعمال ہو رہے تھے، پاک فوج کے جنرل ایس اے زبیری نے  
بتایا، مجھے حکم ہوا کہ اللہ کا نام لے کر دشمن پر حملہ کر دو، بس میں اور میرے ساتھ صرف  
چار ٹینک لے کر حملے کے لئے بڑھے اور ہم سب بیک زبان الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ  
عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنَانَا يَا حَبِيبَ اللَّهِ کا ورد کر رہے تھے، ہم نے اپنی  
آنکھوں سے دیکھا کہ دشمن کو کوئی پیچھے دھکیل رہا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے دشمن کے ہتھیار  
بے کار ہو گئے، اس کا غرور خاک میں مل گیا اور اللہ (عزوجل) کے حبیب پاک،

صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل کامیاب ہو گئے۔  
 میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
 مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم  
 یہ واقعہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں، اُس وقت کے اخبارات و رسائل میں شائع ہوا،

## غریبوں کا حج

### زیارتِ والدین

ہم نے یہ عنوان سب سے پہلے اس لئے قائم کیا ہے کہ دورِ حاضرہ کا نوجوان ماں  
 باپ کے نہ صرف حقوق کی ادائیگی سے محروم ہے بلکہ ان کی ایسی گت بناتا ہے کہ جسے  
 دیکھ کر بد معاش شرمائیں۔ ورنہ کم از کم ان کی تحقیر و تذلیل صراحتاً یا کنایۃً کم از کم ان  
 سے طبع ورنہ دل میں زیادہ نہ سہی معمولی سی کراہت و نفرت تو کہیں نہیں گئی۔ اس  
 موضوع پر فقیر کی مستقل تصنیف نعمۃ الدارین فی خدمۃ الوالدین کا مطالعہ کیجئے یہاں  
 صرف یہ سوچیں کہ جن کی صرف زیارت یعنی ان کی خدمت میں حاضری اور ان کے  
 صرف چہرے کے دیکھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے تو ان کی باقی دیگر خدمات میں کتنا  
 اجر و ثواب ہوگا۔

### احادیث مبارکہ

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ  
 علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کوئی نیکو کار کا بچہ یا بچی نہیں کہ وہ اپنے والدین کو شفقت کی نگاہ  
 سے دیکھے مگر اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہر نظر کے بدلے میں حج مبرور لکھ دیتا ہے۔ صحابہ  
 نے عرض کیا اگرچہ وہ ہر روز ایک سو مرتبہ مدینہ دیکھے فرمایا: ہاں اللہ سب سے بڑا اور

سب سے پاک ہے۔

(مشکوٰۃ شریف صفحہ ۱۳۴)

انہی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ کوئی شخص اپنے والدین کے چہرے کی طرف شفقت کی نظر سے نہیں دیکھتا مگر اللہ تعالیٰ اس کے لئے اس کی ہر نظر کے بدلہ میں حج مقبول لکھ دیتا ہے۔

(جامع صغیر، ج ۲، ص ۱۵۰)

## تشریح

ان میں دونوں کا بیک وقت ہونا ضروری نہیں نہ ہی دونوں کا ضروری ہے ان میں سے کسی ایک بھی زیارت کرے گا اسی طرح کا اجر و ثواب پائے گا۔  
بیہقی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کہ کسی کے ماں باپ دنوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا ان کے لئے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو نیکو کار لکھ دیتا ہے۔

نسائی و دارمی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ شفیع روز و شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منان یعنی احسان جتانے والا اور والدین کی نافرمانی کرنے والا اور شراب خواری کی مداومت کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔

## والدین کی طرف سے حج کرنا

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص اپنے والدین کی طرف سے حج کرے وہ ان پر فرض ہونے والے حج کی ادائیگی کرتا ہے اور خود اس کے لئے بھی دس حجوں کا ثواب



ہے۔

(رواہ الدارمی فی السنن و فصفہ السیوطی فی الجامع الصغیر ج ۲)

## تشریح و تفصیل

یہ اپنے حج فرض کی ادائیگی کے بعد سے اور یہ حج بدل کا حکم بھی ہے کہ اگر ان پر حج فرض تھا اور ادا نہ کیا تو ان کی طرف سے حج بدل کرے ورنہ ایصالِ ثواب کے طور پر بھی۔ اگر وہ زندہ ہیں تو ان سے نقد دعائیں لے اگر وہ انتقال کر گئے ہیں تو حج کا ثواب ان کو قبر میں خوش کرے گا۔ تو وہ قبر میں دعائیں دیں گے جیسے احادیث مبارکہ میں ہے۔ اس طرح سے والدین کے مرنے کے بعد ان کے حقوق کی ادائیگی بھی کر سکے گا۔

## طلب العلم

پیاری اسلامی بہنو! علم کی طلب اور اس کی تلاش بھی اس دور میں جوئے شیر لانے سے بھی زیادہ ناممکن نہیں تو دشوار ضرور ہو گیا ہے کہ اس کے قدر دان تو قبروں میں چلے گئے لیکن پڑھنے والے اور اس کی طلب والے بھی پہلے تو ملتے نہیں اگر کچھ ہیں تو بادل ناخواستہ حالانکہ تلم وہ جوہر ہے کہ اس کی جتنی فضیلت و شرافت بیان کی جائے کم ہے۔

## احادیث مبارکہ

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ شہنشاہِ مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم دین کی طلب اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز، روزہ، حج اور جہاد فی سبیل اللہ سے افضل ہے۔ (جامع صغیر جلد ۲ صفحہ ۵۴)

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ باعث نزولِ سکینہ، فیض

گنجینه صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص دین کی حالت میں صبح یا شام کو چلا وہ جنت میں ہے۔ (رواہ ابو نعیم فی الحلیہ جامع صغیر ص ۱۷۶ ج ۲)

اور شیخ عبید العزیز اس حدیث کو ان لفظوں میں نقل فرماتے ہیں جو شخص مسجد کی طرف صبح کے وقت چلے اور اس کا ارادہ صرف یہ ہو کہ وہ علم دین سیکھے اور سکھائے گا تو اس کے لئے پورے حج کا ثواب ہے۔ (رواہ الطبرانی)

### فضائل اسلامی علوم

پیاری اسلامی بہنو! علم سے مراد قرآن و حدیث و تفسیر اور فقہ اور وہ جو دین کے لئے مفید ہوں وہی مراد ہیں۔ کالج اسکولوں اور دوسرے دینی فنون ہر اد نہیں ہیں۔ لیکن آج کل انگریز نے ذہنوں کو الٹ دیا کہ علوم اسلامیہ کی کوئی قدر و منزلت نہیں اور کالج اور اسکول کی تعلیم کو سر پر اٹھا رکھا ہے اس لئے گزارش ہے کہ علم کی فضیلت سے اسلامی علوم مراد ہیں ان کے فضائل بھی بے شمار ہیں اس پر علمائے کرام نے ضخیم کتابیں لکھی ہیں۔

### علمائے کرام کی مالی معاونت کی فضیلت

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سلطان شیریں مقال، پیکر حسن و جمال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ جو شخص کسی عالم یا طالب علم کی امداد کرے اگرچہ کھانے کے ایک لقمہ سے یا کپڑے سے یا پانی کے ایک گھونٹ سے یا ٹوٹی پھوٹی قلم سے یا کاغذ سے تو گویا اس نے ستر مرتبہ بیت اللہ شریف کی تعمیر کی اور اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ جتنا ثواب عطا فرماتا ہے اور ستر مقبول حجوں کا ثواب عطا فرماتا ہے اور گویا اس نے ستر نبیوں کو کھانا کھلایا اور اس کی زندگی کے باقی دنوں میں اس کے گناہ نہیں لکھے جاتے اور اسے ایک ہزار نقل پڑھنے کے ثواب سے

زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ (تذکرۃ الواعظین ص ۵۶)

## تشریح و تفصیل

یہاں وہ علماء طلبہ مراد ہیں جو واقعی خدمت اسلام میں منہمک کہ وہ لمحہ بھر بھی اپنی ڈیوٹی سے فراغت نہیں پاتے۔ اگرچہ ایسے علماء و طلبہ دورِ حاضرہ میں بظاہر نایاب ہیں لیکن ہیں ضرور۔ ایسے علماء و طلبہ کی خدمت گذاری کے لئے مذکورہ بالا خدمت گذاری پر کثرتِ اجر و ثواب کو عوام بلکہ علمائے کرام سے لگاؤ نہ رکھنے والے مبالغہ آرائی پر محمول کریں گے بلکہ بہت سے خدانا ترس لوگ اس پر ہنسی مذاق، ٹھٹھا مخول کرتے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ ان کے ذہنوں میں دینی علوم کی قدر و منزلت نہیں ورنہ وہ ایسا نہ کرتے۔

## ایک مثال

انجینئر کو ہزاروں روپے اور مزدور کو چند ٹکے کیوں، یہ بظاہر نا انصافی ہے کہ مزدور بیچارہ بھوکا پیاسا سخت دھوپ میں سارا دن گارا اینٹ سر پر رکھ کر کمائے اور انجینئر صاحب تھوڑی دیر کے لئے تشریف لائے وہ بھی کار میں سوار کام سمجھا کر واپس پھر امن و چین سے آرام فرما رہے ہیں اس کا جواب یہی ملے گا۔ کہ اس کی یہ عزت افزائی اس کے فن کی وجہ سے ہے یہی ہم کہتے ہیں کہ علمائے اسلام کی اتنی بڑی فضیلتیں ان کے علمی جوہر کی وجہ سے ہیں۔

## فضائل علمائے کرام

### دنیا میں جنتی لوگ

سید المبلغین، رحمۃ اللعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو صبح و شام جائے

اس حال میں کہ وہ اپنے دین سکھانے میں مصروف ہو تو وہ جنت میں ہے۔

(ابو نعیم فی الحلیہ)

## فرشتے پر بچھائیں

حضور پاک، صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طالب علم کے لئے فرشتے اپنے پروں کو بچھاتے ہیں اس چیز کی رضا کے لئے جو وہ طلب کرتا ہے۔

(ابن عساکر)

## باجماعت نماز کے لئے مسجد کو جانا

پیاری اسلامی بہنو! یہ عمل بھی دور حاضرہ میں کالعتفاء نہیں تو خال خال ضرور ہے پہلے تو نمازی نہیں ملتے، اگر کسی کو نماز پڑھنا قسمت میں ہے تو مسجد تک جانا گراں محسوس ہوتا ہے اور نماز باجماعت کی دولت تو پھر کسی اعلیٰ نصیبوں والے کو نصیب ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو شخص فرض نماز باجماعت پڑھنے کے لئے چلے تو یہ حج کی طرح ہے اور جو نفل نماز پڑھنے کے لئے چلے تو یہ نفل عمرہ کی طرح ہے۔

## ہر نماز باجماعت

### احادیث مبارکہ

جو شخص با وضو فرض نماز کے لئے گھر سے نکلے اس کے لئے احرام باندھنے والے حاجی کے اجر جیسا اجر و ثواب ہے۔ (مشکوٰۃ صفحہ ۶۳)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جامع مسجد میں فرض نماز پڑھنا حج مبرور کے برابر ہے اور نفل نماز مقبول حج کے برابر ہے اور جامع مسجد میں ایک نماز

دوسری مسجدوں کی نماز پر پانچ سو درجہ فضیلت رکھتی ہے۔

(رواہ الطبرانی فی الاوسط، جامع الرضوی، ص ۳۲۳، صحیحہ السیوطی جامع صغیر ص ۵۱، ج ۲)

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جماعت کی نماز اکیلے کی نماز سے ستائیس درجہ زیادہ ہوتی ہے۔

### تشریح و تفصیل

جب آدمی نماز پڑھتا ہے اور ثواب ہی کی نیت سے پڑھتا ہے تو معمولی سی بات ہے کہ گھر میں نہ پڑھے مسجد میں جا کر جماعت سے پڑھ لے کہ نہ اس میں کچھ مشقت ہے اور نہ وقت اور اتنا بڑا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ کون شخص ایسا ہوگا جس کو ایک روپے کے ستائیس یا اٹھائیس روپے ملتے ہوں اور وہ ان کو چھوڑ دے مگر دین کی چیزوں میں اتنے بڑے نفع سے بھی بے توجہی کی جاتی ہے۔ اس کی وجہ اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی پرواہ نہیں۔ اس کا نفع ہم لوگوں کی نگاہ میں نفع نہیں۔ دنیا کی تجارت جس میں ایک آنہ دو آنہ فی روپیہ نفع ملتا ہے اس کے پیچھے دن بھر خاک چھانتے ہیں۔ آخرت کی تجارت جس میں ستائیس گناہ نفع ہے اس سے غافل ہیں۔ تمام اسلامی بہنیں اپنے بھائیوں اور والد صاحب کو جماعت سے نماز کی دعوت دیں۔

### نماز جمعۃ المبارک

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جمعہ کی نماز مساکین کا حج ہے اور دوسری روایت میں ہے کہ جمعہ کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ (رواہ ابن عساکر، جامع صغیر ص ۱۴۵، ج ۱)

### تشریح و تفصیل

پیاری اسلامی بہنو! نماز جمعہ صرف حج ہی نہیں بلکہ یہ دن مسلمانوں کے لئے عید

کا دن ہے لیکن افسوس ہے کہ ہم اس دن کو دوسرے دنوں کی طرح ضائع کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اس کے فضائل جب سامنے آئیں گے تو پچھتائیں گے لیکن اس دن کا پچھتاوا کام نہ آئے گا۔ اسی لئے لازم ہے کہ جمعہ کے دن ہم عبادات میں مصروف رہیں۔ چند عبادات فقیر عرض کرتی ہے۔

(۱) کثرتِ درود شریف رات کو بھی اور دن کو بھی۔

(۲) صلوٰۃ التَّسْبِيح (کتابوں میں اس کا طریقہ درج ہے ورنہ کسی عالم دین سے سمجھ لیں۔

(۳) زیارات قبور والدین اور بزرگانِ دین۔

(۴) نیک لوگوں کی ملاقات اور اپنے عزیز واقارب کی خبر گیری۔

(۵) صدقہ و خیرات فقراء و مساکین کے گھروں میں جا کر پہنچانا وغیرہ۔

### ایک مخصوص درود شریف پڑھنا

دلائل الخیرات شریف میں ایک مخصوص درود شریف ہے اس کے بارے میں صاحب دلائل الخیرات لکھتے ہیں۔

نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ درود شریف ایک دفعہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک مقبول حج کا ثواب لکھتا ہے۔

پھر آگے صاحب دلائل الخیرات لکھتے ہیں یہ ثواب اس شخص کے لئے ہے جو اس درود شریف کو ہر جمعہ کے دن پڑھے اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔

### تشریح و تفصیل

امام محمد مہدی فاسی اس کی شرح میں فرماتے ہیں۔ یعنی صاحب دلائل الخیرات کا اس درود شریف کو ہر جمعہ کے دن پڑھنے سے مقید کرنا ان کے اپنے فہم کی بناء پر ہے

ورنہ کسی بھی وقت میں اس درود شریف کو ایک مرتبہ پڑھنے سے حج مقبول کا ثواب حاصل ہو جاتا ہے۔ (مطالع المسرات، ص ۳۳۰) واللہ اعلم

کسی بھی وقت میں درود شریف پڑھنا

پیاری اسلامی بہنو! شیخ عبدالرحمن منصور رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں۔ میں نے کتاب القول البدیع میں یہ حدیث دیکھی ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص فرض حج کرے اور اس کے بعد جہاد کرے تو اس کا یہ جہاد چار سو حج کے ساتھ لکھا جاتا ہے یہ سن کر ان لوگوں کے دل ٹوٹ گئے جو جہاد نہیں کر سکتے تھے، سو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی کہ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف بھیجے میں اس کے درود شریف کو ان چار سو جہادوں کے ہمراہ لکھوں گا جن میں سے ہر ایک کے ہمراہ چار سو حج ہوں گے۔ (نزہۃ المجالس ص ۱۰۵، ج ۲)

حج کا ثواب اور مزید فضائل یسین شریف

پیارے اسلامی بہنو! سورہ یسین شریف کے فضائل بھی بکثرت ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ جو روزانہ اس کی تلاوت کرنے گا اس پر سکرات الموت آسان ہوگی۔ اور مرنے والے پر نزع کے وقت سورہ یسین پڑھی جائے تو اس پر نزع کی تکلیف آسان ہو جاتی ہے اور حج ایک نہیں بیس حجوں کا اجر و ثواب نصیب ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تورت میں سورہ یسین کا نام معمر ہے عرض کیا گیا معمر کا کیا معنی ہے؟ فرمایا یہ سورت اپنے پڑھنے والے کے لئے دنیا اور آخرت کی بھلائی عام کرتی ہے اور اس کی دنیا کی مصیبت اور آخرت کا ڈر زائل کر دیتی ہے۔ جو شخص اسے تلاوت کرے اس کے

لئے یہ بیس حجوں کے برابر ہوتی ہے۔ (نزہۃ المجالس ص ۱۵۹، ج ۲)

### زیارت مدینہ منورہ

علامہ سمہودی ”وفاء الوفا میں اور شیخ عبدالحق دہلوی“ جذب القلوب میں یہ حدیث روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص مکہ میں حج کرے پھر میری مسجد میں میرا قصد کرے تو اس کے لئے دوپا کیزہ حج ہیں۔

### رمضان میں اعتکاف کرنا

حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: رمضان میں دس دنوں کا اعتکاف دو حجوں اور دو عمروں جیسا ہے۔

(رواہ الطبرانی، الجامع الصغیر صفحہ ۲۵، ج ۱)

### رمضان میں عمرہ کرنا

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ہے۔

(رواہ البخاری و مسلم و صحیحہ السیوطی، جامع صغیر، ج ۲، ص ۶۶، مشکوٰۃ شریف، ج ۲، ص ۲۰۰)

اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث ان لفظوں کے ساتھ مروی ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کی طرح ہے۔

(رواہ سمویہ، صحیحہ السیوطی، جامع صغیر، ج ۲، ص ۶۶)

### عاشورہ کا روزہ

پیاری اسلامی بہنو! نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص محرم کی دسویں تاریخ کا روزہ رکھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک ہزار حج اور ایک ہزار عمرہ لکھ دیتا ہے۔ (نزہۃ المجالس، ص ۱۷۳، ج ۱)



اللہ کی راہ میں چلنا

حضرت ابو مضاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: البتہ اللہ کی راہ میں ایک بار سفر کرنا پچاس حجوں کے برابر ہے۔

(رواہ ابوالحسن الصیقلی فی الاربعین، الجامع الصغیر، ص ۱۲۳، ج ۲)

تشریح و تفصیل

حق کی رضائے طلبی مد نظر ہو تو ہر نیک کام کے لئے چلنے سے مذکورہ بالا ثواب ملنے کی امید ہے مثلاً گھر سے چل کر مسجد کو آنا علم کے حصول کے لئے مدارس دینہ کا رخ کرنا رشتہ داروں، عزیزوں کی ملاقات کو جانا وغیرہ وغیرہ اسی زمرہ میں ہیں۔ دعوت اسلامی کے مبلغین اور ان کے ساتھ چل کر نیکی کی باتیں سکھانے والے وغیرہ وغیرہ۔

اللہ کی راہ میں جہاد کرنا

حضرت مکحول سے مرسل مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا! اللہ کی راہ میں ایک مرتبہ لڑائی لڑنا میرے نزدیک چالیس حجوں سے زیادہ محبوب ہے۔

(رواہ عبد الجبار الخولانی فی تاریخ داریا، السیوطی فی الجامع الصغیر، ص ۱۲۴، ج ۲)

مہمان کو کھانا کھلانا

حضور پاک، صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جب مہمان مومن کے گھر میں داخل ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک ہزار برکتیں اور ایک ہزار رحمتیں داخل ہوتی ہیں اور گھر والے کے لئے ہر اس لقمہ کے عوض میں جسے مہمان کھاتا ہے ایک حج اور ایک عمرہ لکھا جاتا ہے۔ (نزہۃ المجالس، ص ۲۱۶، ج ۱)

## مسلمان کی حاجت روائی

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کی محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی حاجت پوری کرے اس کے لئے اس شخص جیسا اجر ہے جو حج و عمرہ کرے۔

(رواہ الخطیب فی تاریخ فی الجامع الصغیر ص ۱۷۹، ج ۲)

پیاری اسلامی بہنو! حسب استطاعت ہر مسلمان بھائی کی جائز حاجت پورا کرنے کے بے شمار فضائل و فوائد ہیں۔

## صبح و شام تسبیح پڑھنا

حضرت عمرو بن شعیب اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص صبح کے وقت ایک سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھے اور شام کے وقت ایک سو مرتبہ سبحان اللہ پڑھے وہ اس شخص جیسا ہے جس نے ایک سو حج کئے۔

(رواہ الترمذی و ابوداؤد و قال الترمذی ہذا حدیث غریب) (مشکوٰۃ شریف ص ۱۸۲، ج ۱)

## غروب آفتاب کے وقت آیۃ الکرسی پڑھنا

شیخ عبدالرحمن منصور رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور دوسری روایت میں آیا ہے کہ جو شخص آیت الکرسی کو غروب آفتاب کے وقت چالیس مرتبہ پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے چالیس حج کا ثواب لکھتا ہے۔ (نزہۃ المجالس ص ۳۷، ج ۱)

میری اسلامی بہنو! اس طرح کی پاکیزہ سوچ ہمیں کہاں سے ملے گی دعوت اسلامی کے پیارے پیارے اور مہکے مہکے مدنی ماحول سے ملے گی۔

میٹھی میٹھی اسلامی بہنو:

اگر آپ رضائے الہی کو پانا چاہتی ہیں تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے

وابستہ ہو جائیے، اپنے حلقے میں ہونے والے اسلامی بہنوں کے سنتوں بھرے اجتماع میں پابندی کے ساتھ شرکت کیجئے۔ ان شاء اللہ اس کی برکت سے آپ کا سینہ مدینہ بن جائے گا۔

الحمد للہ دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، خوش نصیب اسلامی بہنیں گھر گھر نیکی کی دعوت کی دھو میں مچا رہی ہیں۔ آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے میں لگ جائیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنائیے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی خاتونِ جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نورانی سیرت اپنائیے اور دونوں جہانوں میں عزت پائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت و ریاضت میں مصروف رکھے اور اخلاص کے ساتھ اعمالِ صالحہ پر کار بند رکھے۔

اٰمِيْنُ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنِ

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ



## جھوٹ کی مذمت

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَاَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

### ﴿فضیلتِ دوردِ پاک﴾

حضرت سیدنا محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک کاتب کا انتقال ہو گیا۔ میں نے (بعد وفات) اُسے خواب میں دیکھا اور پوچھا: اللہ عزوجل نے تیرے ساتھ کیسا معاملہ فرمایا؟ اُس نے کہا: مجھے بخش دیا گیا ہے، میں نے پوچھا: کس وجہ سے؟ فرمایا: میری عادت تھی کہ جب بھی حضور نبی کریم رُوف رحیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اسم گرامی لکھتا تو ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھتا تھا، اس پر اللہ عزوجل نے ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں ایسی بات کھٹکی۔

(دلائل الخیرات)

تعظیم جس نے کی ہے محمد ﷺ کے نام کی  
اللہ نے اُس پہ آتشِ دوزخ حرام کی

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

### جھوٹ کی مذمت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک پڑھا اس پر اللہ عزوجل دس رحمتیں نازل فرماتا ہے۔

(مشکوٰۃ شریف جلد نمبر باب الصلوٰۃ علی النبی)

میری پیاری اسلامی بہنو! حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبیرہ گناہوں کے بارے میں فرمایا! (۱) اللہ عزوجل کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، (۲) ماں باپ کی نافرمانی کرنا، (۳) کسی کو ناحق قتل کرنا، (۴) اور جھوٹ بولنا ہیں۔

(جامع ترمذی جلد ۱، ص ۶۱۹)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے کہ جس شخص میں یہ چار باتیں ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا اور جس شخص میں ان چاروں باتوں میں سے ایک بات ہوگی۔ اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی یہاں تک کہ وہ اس کو چھوڑ دے۔

(۱) جب امام بنایا جائے تو خیانت کرے، (۲) جب بات کرے جھوٹ بولے، (۳) جب کسی سے کوئی عہد کرے تو عہد شکنی کرے، (۴) اور جب جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے۔

(صحیح البخاری شریف ج ۱، باب علامت المنافق)

میری پیاری بہنو! اس حدیث مبارکہ میں اور اس سے پہلی حدیث مبارکہ میں بھی دونوں حدیثوں میں جھوٹ کی مذمت بیان ہوئی ہے پہلی حدیث مبارکہ جو کہ حضرت

انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کو کبیرہ گناہ کہا ہے اور دوسری حدیث مبارکہ جو کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس میں جھوٹ کو منافق کی علامت میں شمار کیا ہے اور نفاق کی خصلت کہا بلاشبہ یہ خصلت یعنی جھوٹ بولنا ہرگز ہرگز مومن کی خصلت نہیں ہے تو نفاق کی خصلت ہے اگر یہ بھی نہیں تو کم از کم کبیرہ گناہ تو حدیث کی رو سے ہے۔ لہذا جس طرح ایک مسلمان کفر و شرک اور تمام گناہ کبیرہ سے بچنا ضروری ہے اسی طرح ایک مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ جھوٹ جیسی برائی سے بچے اور دل سے برا جانے اور روزانہ ہونے والی گفتگو میں جھوٹ کو زبان پر نہ لائے یعنی جھوٹی بات نہ کہے اور نہ سنے کیونکہ ہمیں اپنی اور دنیا بھر کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اس لئے اس سے بچنا چاہئے چنانچہ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھ میں چار خصلتیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون سی وہ شخص عرض گزار ہوا۔ بدکار ہوں زنا کرتا ہوں، چوری کرتا ہوں، شراب پیتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، ان میں سے جس ایک کو آپ فرمادیں میں آپ کی خاطر چھوڑ دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جھوٹ نہ بولا کرو چنانچہ اس نے وعدہ کیا کہ جھوٹ نہ بولوں گا۔ جب رات ہوئی تو اس کا دل شراب پینے کو کہہ رہا تھا پھر بدکاری کے لئے آمادہ ہوا تو اس کو خیال گزرا کہ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوچھیں گے کہ تم نے رات کو شراب پی بدکاری کی ہے۔ اگر اقرار کروں گا تو شراب پینے اور زنا کرنے کی سزا ملے گی اگر انکار کروں گا تو وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ سوچ کر دونوں بری خصلتوں سے باز آ گیا جب رات گزری تو چوری کے لئے گھر سے نکلنا چاہا۔ تو پھر اسی خیال سے کہ وعدہ ٹوٹ جائے گا۔ چوری سے باز رہا کہ صبح پوچھا گیا تو کیا کہوں گا اگر اقرار کر لیا تو ہاتھ کٹے گا اور اگر نہ کروں گا تو وعدہ خلافی

هوكى۔ جب صبح هوكى تو بارگاهِ نبوت نبى صلى الله عليه وآله وسلم كى بارگاه ميں حاضر هوا اور  
كهنے لگا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جھوٹ نه بولنے سے اور سچاى اختيار نه كرنے  
سے ميرى دوسرى خصلتیں جھوٹ گئى يه سن كر آپ صلى الله عليه وآله وسلم مسكرائے۔

(تفسير عزيزى تفسير سورة نون)

ميرى پياري اسلامى بهنو! اس واقعہ سے ہمیں سبق ملتا ہے كه جھوٹ تمام بُرے  
كاموں كى بنياد ہے اس لئے جھوٹ سے بچنا چاہئے اسى لئے شيخ سعدى فرماتے هیں  
كه

كسے راكه نا داستى گنثت كار!  
كجا روز محشر شود رست كار!  
زنا راستى نيست كارے البتر!  
از وگم شود نام نيك نام اے پسر!

جس كا جھوٹ هى مشغله هو وه قيامت ميں كب فلاح پانے والا هوگا جھوٹ سے  
كوئى بُرا كام نهیں ہے اس سے نيك نامى گم هو جاتى ہے اے دوست!  
حضرت صفوان ابن سليم سے روايت ہے كه رسول كريم صلى الله عليه وآله وسلم  
سے عرض كيا كيا كه مومن بز دل هو سكتا ہے فرمايا: هاں پھر عرض كيا كيا مومن كنجوس هو سكتا  
ہے فرمايا: هاں پھر عرض كيا كيا مومن جھوٹا هو سكتا ہے فرمايا: نهیں اللہ عزوجل ہمیں جھوٹ  
جيسى برائى سے بچائے۔ (آمين)

ميٹھی ميٹھی اسلامى بهنو:

اگر آپ رضائے الہى كو پانا چاہتى هیں تو دعوتِ اسلامى كے مدنى ماحول سے  
وابستہ هو جائیے، اپنے حلقے ميں هونے والے اسلامى بهنوں كے لمونتوں بھرے اجتماع  
ميں پابندى كے ساتھ شركت كيجهئے۔ ان شاء اللہ اس كى بركت سے آپ كا سينہ مدینہ

بن جائے گا۔

الحمد للہ دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، خوش نصیب اسلامی بہنیں گھر گھر نیکی کی دعوت کی دھو میں مچا رہی ہیں۔ آپ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے میں لگ جائیے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنائیے۔ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی خاتونِ جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نورانی سیرت اپنائیے اور دونوں جہانوں میں عزت پائیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت و ریاضت میں مصروف رکھے اور اخلاص کے ساتھ اعمالِ صالحہ پر کاربند رکھے۔

اٰمِيْنُ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنِ

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَرَعْلَى اِلَيْهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ





## سات مهلك گناه

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ! فَاَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

### ﴿فضیلت دوروپاك﴾

انبیاء کے سالار، ہم غریبوں کے غمگسار، شفیع روز شمار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان خوشبودار ہے: جمعہ کے روز مجھ پر درود شریف کی کثرت کرو کیونکہ یہ یوم مشہود ہے، اس روز فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور بے شک تم میں سے جب بھی کوئی درود شریف پڑھتا ہے اُس کے فارغ ہونے سے پہلے پہلے وہ درود میرے دربار میں پہنچ جاتا ہے۔ (فیضانِ سنت قدیم صفحہ ۲۰۶، بحوالہ جامع صغیر)

مومن پڑھتے رہو تم اپنے آقا ﷺ پر درود

ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلوة والسلام

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٍ ﷺ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: سات ہلاک کر دیں والے کاموں سے بچو۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ! وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو، ایسی جان کو قتل کرنا جسے اللہ نے حرام کیا سوائے حق کے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی کے روز پیٹھ پھیر جانا اور پاکدامن ایماندارو بے خبر عورتوں پر زنا کا الزام لگانا۔

(صحیح بخاری، صحیح مسلم)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حدیث بالا میں مذکور سات کام گناہ کبیرہ ہیں۔ شیخ ابوطالب مکی رحمۃ علیہ فرماتے ہیں۔ میں نے ان اجادیت کو جمع کیا جن میں کبیرہ گناہوں کا ذکر ہے تو میں نے یہ سترہ کام گناہ کبیرہ پائے۔

- (۱) شرک، (۲) گناہ کا پختہ ارادہ، (۳) اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جانا، (۴) اللہ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف ہو جانا، (۵) جھوٹی گواہی، (۶) پاکدامن پر زنا کا الزام، (۷) جھوٹی قسم اٹھانا، (۸) جادو، (۹) زنا، (۱۰) شراب نوشی، (۱۱) یتیم کا مال کھانا، (۱۲) سود کھانا، (۱۳) لواطت، (۱۴) بغیر حق کے قتل کرنا، (۱۵) چوری، (۱۶) کفار سے لڑائی کے روز بھاگنا، (۱۷) والذین کی نافرمانی۔

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کبیرہ گناہوں کی تعداد ستر کے قریب ہے۔

حدیث بالا میں مذکور سات مہلکات (ہلاک کر دینے والے گناہوں) کی مختصر وضاحت۔

شرک

اے میری اسلامی بہنو! لفظ شرک کا لغوی معنی حصہ داری ہے اور حصہ دار کو شریک

كهته هين۔ شرح شريف ميں شرک تو حيد كى ضد هے تو حيد كا شرعى معنى هے۔ اللہ تعالى كو ذات وصفات اور عبادت كے مستحق هونے ميں يكتا ماننا اور شرک كا معنى شرعى هے كسى كو اللہ تعالى كى ذات يا صفات ميں يا عبادت كے حقدار هونے ميں حصہ دار بنانا۔ ياد ر هے كه اللہ تعالى كى صفات حقيقى آٹھ هين۔

(١) زنده يعنى موجود هونا، (٢) علم، (٣) سننا، (٤) ديكھنا، (٥) اراده، (٦) كلام نفس، يعنى وه كلام جو ارادے ميں هوتى هے كيوں كه اللہ تعالى زبان اور الفاظ سے پاڪ هے، (٧) قدرت، (٨) تكوين يعنى عدم سے وجود ميں لانا، جس طرح اللہ تعالى كى ذات غير مخلوق هے اور كسى كى محتاج نهين اسي طرح اللہ تعالى كى صفات بهي غير مخلوق هين۔ جبكه اللہ تعالى كے سوا هر چيز مخلوق هے اور تمام مخلوقات حتى كه انبياء و رسل و ملائكه، كى صفات، اللہ تعالى كى طرف سے عطا كر ده هين۔ لهنذا كوئى مخلوق ذات اور صفات ميں اللہ تعالى كى حصہ دار نهين هوسكتى۔

عقيدہ توحيد و شكر كے بارے ميں ايك ضرورى وضاحت

اے ميرى اسلامى بهنو! عقيدہ توحيد و شرک كا معنى يه نهين كه اللہ تعالى كى صفات كو مانا جائے اور اللہ تعالى كى طرف سے مخلوقات كو عطا كر ده صفات اور اختيارات كى نفى كى جائے بلكه عقيدہ توحيد و شرک كى اصل يه هے كه اللہ تعالى اور مخلوقات كى صفات ميں فرق واضح كيا جائے۔ كه اللہ تعالى كى صفات غير مخلوق مستقل اور ذاتى هين۔ جبكه مخلوق كى صفات اللہ تعالى كى پيدا كر ده هين غير مستقل هين اور مجازى و عطائى هين۔

عقيدہ توحيد و شرک كے بارے ميں ايك مغالطه اور اس كا ازالہ

كها جاتا هے كه اللہ تعالى هى مشكل كشا، حاجت روا، داتا (دينے والا) اور غوث (مددگار) هے، لهنذا كسى نبى ولى كو مشكل كشا، حاجت روا، داتا اور غوث ماننا درست

نہیں، بلکہ شرک و کفر ہے۔ اس مغالطہ کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے اختیار پیدا نہیں کیا، بلکہ درجہ بدرجہ اختیارات عطا فرمائے ہیں اور انبیاء و اولیاء اور ملائکہ کو تو بہت زیادہ کمالات و اختیارات عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں کو زندہ کرنا، نابیناؤں کو بینا کرنا اور ایسے ہی کئی ایک اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے اختیارات و کمالات قرآن پاک سے ثابت ہیں۔ احادیث مبارکہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمالات و اختیارات کے واقعات عجیبہ سے بھری پڑی ہیں۔

اے میری پیاری اسلامی بہنو! ان دلائل شرعیہ کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کے پیاروں کو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث جیسے صفاتی اسماء سے پکارا جاتا ہے اور یہ قطعاً شرک نہیں بلکہ عطیات خداوندی پر ایمان کا اظہار ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا سننا اور دیکھا اس کی ذاتی صفتیں ہیں، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سننے اور دیکھنے کی صفت ماننا شرک نہیں اسی طرح مشکل کشا، حاجت روا، داتا اور غوث ہونا اللہ تعالیٰ کی ذات صفت ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ان صفات کا اس کے پیارے بندوں میں پایا جانا قطعاً شرک نہیں بلکہ عین توحید ہے اور یہی عقیدہ صحابہ کرام اور صوفیاء اسلام سے ثابت ہے۔

کیا شیخ جیلانی کو غوث اعظم کہنا شرک ہے

کچھ لوگ عقیدہ توحید کی غلط تشریح کرتے ہوئے کہتے ہیں غوث اعظم صرف اللہ تعالیٰ ہے، لہذا حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کہنا شرک و کفر ہے وغیرہ وغیرہ

## الْعِيَاذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ

اس مغالطہ کا جواب یہ ہے کہ غوث کا معنی مدد یا مددگار لہذا غوث اعظم کا معنی سب سے بڑا ولی اللہ ہے اور تمام سلاسل روحانیہ کے اولیاء کا اتفاق ہے کہ امت مصطفیٰ کے سب سے بڑے ولی اللہ حضرت غوث اعظم سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اے میری معزز بہنو! اس وضاحت کے بعد واضح ہو گیا کہ حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کہنے کا معنی یہ ہے کہ آپ اولیا کرام میں سے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فارق اعظم کہا جاتا ہے، یا جیسا کہ ائمہ مجتہدین میں سے امام ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ کو امام اعظم کہا گیا ہے۔ اور تحریک پاکستان کے قائدین میں سے مسٹر محمد علی جناح کو قائد اعظم کہا جاتا ہے، تو کیا اگر کوئی کہے کہ صدیق اکبر، فاروق اعظم، امام اعظم اور قائد اعظم تو اللہ ہے؟ تو ایسے قائل کو جو جواب دیا جائے گا۔ وہی جواب غوث اعظم کے لفظ پر اعتراض کرنے والے کو دیا جائے گا۔ بلکہ میں کہوں گی! کہ جو الفاظ عرف میں بندگان خدا کے لئے بولے جاتے ہیں ان الفاظ کو خدا تعالیٰ کے لئے بولنا اللہ تعالیٰ کی شان الوہیت سے نیچے لا کر بندوں کی صف میں لانے کے مترادف ہوگا جیسا کہ کوئی بیوقوف کہے۔ گورنر پنجاب فلاں نہیں بلکہ اللہ ہے، شاہ یمن فلاں نہیں بلکہ اللہ ہے صدر پاکستان فلاں نہیں بلکہ اللہ ہے وغیرہ وغیرہ۔

## الْعِيَاذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ

دوسرا موبقہ (ہلاک کر دینے والا گناہ)

سحر (جادو) سے مراد ایسا ٹونا ہے۔ جس کے ذریعے کسی کو نقصان پہنچانا یا کوئی نا جائز مقصد حاصل کرنا مقصد ہو۔ جادو اگر کسی کلمہ کفریہ کفریہ فعل پر مشتمل ہو تو بالا جماع کفر ہے اور ایسا جادو گر اور علم کے باوجود ایسے جادو گر سے ایسا جادو کروانے والا کفر کرتا

ہے بلکہ کافر ہے جادو سیکھنا بھی جائز نہیں البتہ کسی موذی جادوگر کے توڑ کے لئے ایسا جادو سیکھنا جو خلاف شرح کلمات و افعال پر مشتمل نہ ہو جائز ہے۔ جادو کے ذریعے کسی مسلمان کی جان، مال، اولاد اور عزت و آبرو کو نقصان پہنچانا سخت حرام ہے، بلکہ اسلامی ممالک کے اندر شہریت رکھنے والے یہود و نصاریٰ کے خلاف جادو کرنا بھی جائز نہیں۔ کیونکہ کہ ذمیوں کی جان و مال کی حفاظت اہل اسلام پر لازم ہے۔

### تیسرا موبقہ قتل نفس

میری اسلامی بہنو! کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھ کر اسے ناحق قتل کر دینا کفر ہے جس کی سزا دائمی عذاب جہنم ہے۔ کسی مسلمان کے قتل کو گناہ کبیرہ سمجھتے ہوئے اسے قتل کرنا یا کسی ذمی (اہل کتاب جو دارالسلام کے شہری ہوں) کو جان بوجھ کر قتل کر دینا سخت حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ البتہ حدود و قصاص میں قاضی اسلام کے فیصلے کے مطابق کسی مجرم کو قتل کرنا یا پھر اہل حرب اور باغیوں کے خلاف قتال میں کفار اور باغیوں کو قتل کرنا جائز ہے۔ قرآن و حدیث میں کفار اور باغیوں کو قتل کرنا جائز ہے۔ قرآن و حدیث میں ناحق قتل کو بہت بڑا فساد قرار دیا گیا ہے اور اس پر سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ حدیث پاک میں ہے! جو قاتل کی آدھے لفظ کے ساتھ امداد کرے اسے بھی جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اے میری بہنو! اس حدیث مبارکہ کی رو سے وکلاء کے لئے قاتل کا مقدمہ لڑنا جائز نہیں اور برادری اور دوست و احباب کو بھی قاتل کا ساتھ دینا جائز نہیں۔ کاش کہ لوگ اس حدیث پاک پر عمل کریں تا کہ قاتلوں کی حوصلہ شکنی ہو اور قتل و غارت کا خاتمہ ہو سکے۔

### چوتھا موبقہ ربا (سود)

کسی کو پیسہ دے کر اس کی عوض اصل رقم سے زائد رقم مقرر کر کے وصول کرنا۔ یا

دو ایسی چیزیں جو ہم جنس ہو اور وزن یا کیل کی جاتا ہوں کے لین دین میں زیادتی کرنا یا ادھار کرنا ”ربا“ یعنی سود ہے۔ قرآن و حدیث میں سود کو بہت بڑا گناہ قرار دے کر سخت حرام قرار دیا گیا ہے۔ بلکہ قرآن مجید میں سود خوروں کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کا چیلنج کیا گیا ہے۔

اے میری بہنو! حضور اکرم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود کا حساب و کتاب لکھنے والے اور سودی کاروبار میں گواہ بننے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ اس وقت دنیا میں افراط زر، مہنگائی اور تجارتی خساروں کی بڑی وجہ سود ہی ہے۔ یہ تو دنیاوی نقصان ہے اور آخرت میں جو دردناک عذاب ہے اللہ کی پناہ حدیث پاک میں ہے کہ شب معراج حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سود خوروں کو جہنم میں اس حال میں دیکھا کہ ان کے پیٹ بڑی بڑی کوٹھریوں کی طرح ہیں یہ لوگ جہنم میں پتھر اور تھوہر کے کانٹے کھا رہے ہیں۔ اَلْعِيَاذُ بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ

### پانچواں موبقہ یتیم کا مال کھانا

یتیم سے مراد وہ نابالغ ہے جس کا والد فوت ہو جائے۔ یتیم کا مال کھانے سے مراد کسی بھی ناجائز طریقہ سے یتیم کی مال سے فائدہ اٹھانا ہے، ویسے تو شریعت اسلامیہ میں ہر خیانت حرام ہے۔ لیکن یتیم کے مال میں خیانت پر نہایت سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ جب کوئی یتیم پر ظلم کرتا ہے تو اس گناہ کی وجہ سے عرش معلیٰ کانپ جاتا ہے۔ اسلام میں یتیموں کے ساتھ انتہائی حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے۔ جو شخص کسی یتیم کے سر پر دست شفقت رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں کے نیچے آنے والے بالوں کی تعداد کے مطابق اس کے گناہ معاف فرمادیتے ہیں ایک حدیث پاک میں ہے بہترین گھروہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ حسن سلوک کیا جاتا ہے اور بدترین گھروہ ہے جس میں یتیم کے ساتھ

بدسلوکی کی جاتی ہے۔

## چھٹا موبقہ قتال کے روز بھاگ جانا

اللہ تعالیٰ کے دین کی سربلندی اور کفار و فساد یوں کے فتنہ و فساد کو کچلنے کے لئے مسلمانوں پر تاروز قیامت قتال فرض کر دیا گیا ہے جب مسلمانوں کا امام قتال کا اعلان کر دے اور لڑائی کا وقت آ جائے تو مسلمانوں کو ڈٹ کر لڑنے کا حکم ہے۔ ایسی جنگ میں جان دینے والا شہید کا اعلیٰ درجہ پاتا ہے اور شہادت کی موت طبعی موت سے بدرجہ بہتر ہے اور شہید کے لاتعداد فضائل قرآن و حدیث میں بیان کئے گئے ہیں۔ میدان جنگ میں راہ عزیمت یہ ہے کہ مسلمان کو کسی صورت میں بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہئے۔ لیکن اگر کفار کی تعداد دو گناہ سے زائد ہو اور فتح کو کوئی صورت نظر نہ آ رہی ہو تو دوبارہ تیاری کر کے قتال کرنے کی نیت سے پیچھے ہٹنے کی رخصت ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے۔ کہ صحابہ کرام کے ایک (سریہ چھوٹا شکر) نے جب دیکھا کہ دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے تو واپس لوٹ آئے، اہل مدینہ اس لشکر کو فراروں (یعنی بھاگ آنے والے) کہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ فراروں نہیں کراروں (یعنی پلٹ کر حملہ کرنے والے) ہیں لیکن کفار کے تعداد دو گناہ یا کم ہونے کی صورت میں پیچھے ہٹنے کی قطعاً اجازت نہیں جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

و ان یکن منکم یاۃ صابرة یقلبوا مائتین!

(القرآن، الانفال، آیہ نمبر ۶۶)

اگر تم میں سے ایک سو صبر کرنے والے ہوں گے تو دو سو پر ضرور غالب آئیں گے۔

## ساتواں موبقہ زنا کا جھوٹا الزام

حدیث میں پاکدامن عورتوں پر زنا کا جھوٹا الزام لگانے کو ہلاک کرنے دینے



والا گناہ قرار دیا گیا ہے۔ لیکن دیگر دلائل شرعیہ کی روشنی میں عورت کی طرح پاکدامن مرد پر زنا کا الزام لگانا بھی سخت حرام ہے اور اس کی سزا بھی حد قذف ہے۔ حد قذف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان مرد یا عورت پر زنا کا الزام لگائے اور چار عادل یعنی گواہ پیش نہ کر سکے تو زنا کا الزام لگانے والے کو ۸۰ کوڑے لگائے جائیں گے اور نازندگی وہ کسی عدالت میں گواہی کے قابل نہیں رہے گا۔ مذکورہ بالا سزا مسلمان پر زنا کا جھوٹا الزام لگانے والے کی ہے۔ لیکن اگر کسی کافر مرد یا عورت پر جھوٹا زنا کا الزام لگایا تو اگرچہ یہ ناجائز اور گناہ ہے لیکن ایسے شخص پر حد قذف نہیں لگائی جائے گی اور نہ ہی وہ مرد وداشہادۃ قرار پائے گا۔ اگر شوہر اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے تو حکم مختلف ہے اس صورت میں حکم شرع یہ ہے کہ اگر شوہر چار عادل یعنی گواہ پیش کر دے تو عورت کو سنگسار کیا جائے گا کیوں کہ شادی شدہ، افراد، مسلمان، زانی کی سزا ایسی ہے اور اگر شوہر چار گواہ پیش نہ کر سکے تو شوہر پر حد قذف نہیں لگائی جائے گی بلکہ لعان کرایا جائے گا۔

### لعان کیا ہے

اے میری اسلامی بہنو! لعان یہ ہے کہ قاضی اسلام کی عدالت میں شوہر چار بار اپنی بیوی کے زانیہ ہونے کی گواہی دے گا اور پانچویں بار کہے گا اگر وہ جھوٹ کہہ رہا ہے تو اس پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہو اس کے بعد قاضی ان دونوں میں تفریق (علیحدہ) کرا دے گا۔ اگر تفریق کے بعد عورت اقرار کرے کہ الزام درست تھا تو اسے سنگسار کیا جائے گا اور اگر مرد اقرار کرے کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا تو اس پر حد قذف لگائی جائے گی۔ حد قذف کے بعد دونوں پھر سے نکاح کرنے کے مجاز ہوں گے۔

میری پیاری اسلامی بہنو! اس طرح کی پاکیزہ سوچ ہمیں کہاں سے ملے گی دعوت اسلامی کے پیارے مدنی ماحول سے ملے گی۔

الحمد للہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہلکے مہلکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، آپ سے بھی اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی مدنی التجاء ہے، عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی قافلے بھی سنتوں کی تربیت کے لئے قریہ قریہ، شہر شہر، ملک بملک سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر پر آمادہ کیجئے اور انہیں تیار کر کے مدنی مرکز بھیج دیجئے۔ آپ کے شفقت فرمانے سے اگر آپ کا کوئی عزیز مدنی قافلے کا مسافر بن گیا تو اُس کے ساتھ ساتھ آپ کا سینہ بھی مدینہ بن جائے گا۔

خوش نصیب اسلامی بہنیں فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات پر عمل کرتی ہیں۔ آپ بھی ۶۳ مدنی انعامات کا کارڈ حاصل کیجئے اور روزانہ اُسے پُر کرنے کا معمول بنائیے اور ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنی حلقہ ذمہ دار اسلامی بہن کو جمع کروا دیجئے۔ ان شاء اللہ عزوجل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لئے کڑھنے کا ذہن بنے گا۔

ہر اسلامی بہن اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے ہے۔ ان شاء اللہ عزوجل

اپنی اصلاح کے لئے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے۔ ان شاء اللہ عزوجل اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی سر بلندی کے لئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دعوتِ اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرمائے۔

اٰمِيْنُ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنِ

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ

## دل كى سختى كا علاج

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَاغُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى الْإِلِكِ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى الْإِلِكِ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

### ﴿فضیلت درود پاک﴾

#### فضیلت درود پاک

شمس العارفين، راحة العاشقين، مراد المشائقين، محبوب رب العالمين، حضور  
رحمة اللعالمين صلى الله تعالى عليه واله وسلم كافرمان خوشبودار ہے: جس نے قرآن پڑھا  
اور اپنے پروردگار كى حمد كى اور مجھ پر درود پاک پڑھا تو اُس نے خير كواپنى جگہوں سے  
تلاش كر لیا۔ (فیضان سنت قدیم صفحہ ۲۰۵ بحوالہ القول البدیع)

ثنا تیری كرتا ہے قرآن كے اندر خدائے دو عالم سلام علیكم  
قیامت كے دن ساری مخلوق ہوگی تیرے زیر پرچم سلام علیكم  
صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ: صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ  
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے كہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنے دل کی سختی کی شکایت کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو اور مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ (رواہ احمد)

اے میری پیاری اسلامی بہنو! قسوة کے معنی دل کی سختی کے ہیں دل کی سختی ایک روحانی بیماری ہے۔ جب دل میں سختی پیدا ہو جاتی ہے تو دل سے رحم و شفقت کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے اور آدمی بالکل بے رحم ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان کا دل رحم و مہربانی کے جذبہ سے خالی ہو جاتا ہے۔ تو آدمی بالکل ہی بدخلق، بلکہ انتہائی ظالم، و خون خوار اور درندوں کے مثل ہو جاتا ہے۔ اس کو نہ کسی پر رحم آتا ہے۔ نہ وہ کسی کے ساتھ مہربانی و شفقت کرتا ہے نہ کسی پر اس کو پیارا آتا ہے۔ نہ کسی سے محبت و مروت کا برتاؤ کرتا ہے بلکہ ہر وقت ظلم و ستم پر کمر بستہ رہتا ہے یہاں تک کہ لوگوں پر ظلم و ستم ڈھانے میں اس کو خاص قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے اور انسانوں اور جانوروں کے دکھ درد اور ان کی مصیبتوں کو دیکھ کہ اس کو مسرت و خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ قسوة (سخت دلی) کتنی خطرناک اور کس قدر مہلک بیماری ہے کہ اس کی نحوست سے انسان حسن اخلاق مروت، صلہ رحمی، نیک سلوک، کریمانہ برتاؤ، رحم و شفقت وغیرہ سینکڑوں بہترین خصلتوں کے محاسن و فضائل سے محروم ہو جاتا ہے اور تمام انسان بلکہ جانوروں تک کہ نگاہوں میں مردود و مبغوض اور قابل نفرت بن جاتا ہے اور خداوند قدوس کے دربار میں ظالم و جابر اور جفا کار اور ستم پیشہ قرار پا کر قابل لعنت بن جاتا ہے اور دنیا و آخرت کی تمام بھلائیوں سے محروم ہو کر گناہوں کا مجسمہ اور پاپ کا پتلا بن جاتا ہے اور وہ اس کے سوا اور کسی لائق نہیں رہتا کہ اس پر مخلوق خدا کی لعنتوں اور نفرتوں کی بے شمار پھٹکار پڑتی ہے اور قبر الہی کی بجلیاں اس کے خرمن وجود کو سوخت کر کے اس کو تہس نہس کرتی رہیں اور وہ دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو کر خرمان و خسران کے ایسے عمیق غار میں گر پڑے جہاں صلاح و فلاح کی روشنی بھی نہ پہنچ سکتی ہو اس لئے صحابہ کرام میں

سے ایک خیر پسند شخص نے جو اس قسوة (سخت دلی) کی بیماری میں گرفتار تھا دونوں عالم کے حکیم و سول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ شفاء میں حاضر ہو کر اس بیماری کا علاج پوچھا اور اپنی سخت دلی کی شکایت عرض کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیماری کے دو علاج بنائے (۱) تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرو، (۲) مسکن کو کھانا کھلاؤ، ان سے تمہاری سخت دل کی بیماری دور ہو جائے گی۔

### مرض و علاج میں مناسبت

اے میری پیاری بہنو! اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے اور مسکین کو کھانا کھلانے سے انسانوں کے دل کی سختی کیوں کر اور کیسے دور ہو جائے گی آخر ان دونوں کاموں کا دل کی سختی سے کیا تعلق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا عالم اسباب ہے اور اس دنیا کی ہر چیز میں ایک خاص تاثیر ہے اور ہر چیز کی تاثیرات دوسری چیزوں میں اثر انداز ہوتی ہیں اور ہر چیز کسی نہ کسی چیز کا سبب بنتی ہے۔ کیونکہ خلاق عالم نے ایک چیز کو دوسری چیز کا سبب بنا دیا ہے۔ اور ایک چیز کی تاثیر سے دوسری چیز عالم وجود میں آجایا کرتی ہے۔ مثلاً کسی کو کھانا لہو کھاتے دیکھ کر سب کے منہ میں پانی آجاتا ہے پیاز کاٹنے سے سب کی آنکھوں میں آنسو آجاتے ہیں کسی آشوب چشم والے کی آنکھوں کی سرخی کو دیکھ کر سب کی آنکھوں میں سرخی آجاتی ہے۔ کسی کو مکا دکھانے سے ”غضب ناک ہو جاتا ہے کسی کے آگے ہاتھ جوڑے سے وہ رحم دل ہو جاتا ہے یہ سب کچھ کیوں اور کیسے ہوتا ہے اس کے سوا اور کیا کہا جاسکتا ہے کہ یہ سب اسباب و جہات اور تاثیرات و اثرات خدا کے پیدا کئے ہوئے ہیں جس کی علتوں اور حکمتوں کو بندہ کما حقہ نہیں سمجھ سکتا۔ پس یہی حال یہاں بھی ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی تاثیر ہے کہ انسان کے قلب میں نرمی پیدا ہو کر اس کے دل کی سختی کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ یا یوں کہہ لو کہ یتیم کے سر پر ہاتھ

پھیرنا اور مسکین کو کھانا کھلانا یہ دل کو نرم کرنے اور قلب کی سختی دور کرنے کا سبب ہیں کہ جب یتیم کے سر پر پھیرو گے اور مسکین کو کھانا کھلاؤ گی تو دل ضرور نرم ہوگا اور سخت دلی دور ہو جائے گی اس لئے یتیم کے سر پر پھیرنا اور مسکین کو کھلونا کھلاتا سخت دلی کی بیماری کا شافی علاج ہے۔

### سر پر ہاتھ پھیرنے سے کیا مراد ہے؟

میری پیاری اسلامی بہنو! یاد رکھو کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے اور مسکین کو کھانا کھلانے سے مراد ان دونوں پر ہر معاملہ جس رحم و شفقت کرنا ہے ورنہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی یتیم کے سر پر جوتا بھی مارتا رہے اور ہاتھ بھی پھیرتا ہے اسی طرح مسکین کا گلا بھی گھونٹتا رہے اور کھانا بھی دکھلاتا رہے، تو اس کے ہرگز ہرگز اس کے دل کی سختی دور نہیں ہو سکتی۔ تو ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے جو رحم و شفقت کا ایک نشان ہے اور مسکین کو کھانا کھلائے جو حسن سلوک اور رحیمانہ برتاؤ کی ایک علامت ہے، خلاصہ کلام یہ ہے کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے اور مسکین کو کھانا کھلائے یعنی ہمیشہ یتیم اور مسکین پر محبت و شفقت کرتا رہے اور ان دونوں کے ساتھ انتہائی مشفقانہ و کریمانہ سلوک و برتاؤ کرے۔ تو اس کا یہ اثر ہوگا کہ اس کے دل کی سختی کا مرض دور ہو جائے گا اور رحم دلی پیدا ہو جائے گی۔

### یتیم کے ساتھ حسن سلوک

اے میری اسلامی بہنو! یتیم کے ساتھ اچھا برتاؤ اور مشفقانہ سلوک کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ ایک حدیث شریف میں ہے مسلمانوں میں سب سے اچھا اور بہترین وہ گھر ہے جس گھر میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ بہترین سلوک کیا جاتا ہو اور مسلمانوں کے گھروں میں سب سے بُرا اور بدترین وہ گھر ہے کہ جس میں کوئی

یتیم ہو اور اس کے ساتھ بدترین برتاؤ کیا جاتا ہو۔

(مشکوٰۃ شریف ج ۲، ص ۲۲۳)

اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کا ذکر کرتے ہوئے یوں اور ارشاد فرمایا: کسی یتیم بچی یا یتیم بچے کے ساتھ سلوک کرنے والا جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔

(مشکوٰۃ شریف ج ۲، ص ۲۲۳)

### مسکینوں کے ساتھ نیک برتاؤ

میرے اسلامی بہنو! مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ اور ان کو کھانا کھلانے اور کپڑا پہنانے کا کتنا بڑا اجر اور کتنا عظیم ثواب ہے؟ اس سلسلے میں بھی ایک حدیث پڑھ لو۔  
حضور اکرم، نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ننگے کو کپڑا پہنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بہشت کا سبز لباس پہنائے گا اور جو کسی کو کھلائے گا۔ اور جو کسی پیاسے مسلمان کو سیراب کر دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا وہ شربت پلائے گا جس پر مہر لگی ہوگی۔

(مشکوٰۃ شریف ج ۱، ص ۱۹۹)

بہر حال ملت اسلامیہ کے یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ مشفقانہ سلوک اور کریمانہ برتاؤ یہ دل کی سختی کا ایک شافی علاج ہونے کے ساتھ ساتھ بہترین عمل صاع بھی ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید اور حدیثوں میں یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاص طور فرمایا!

فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ

یتیم کو مت جھڑکے اور مسلمان کو بھی مخاطب کر کے ارشاد فرمایا!

ان الذین یا کلون اموال الیتامی ظلماً انما یا کلون فی بطونہم ناراً  
جو لوگ یتیموں کا مال کھا ڈالتے ہیں اور درحقیقت اپنے پیٹوں میں آگ  
کھا رہے ہیں۔

دوسری جگہ یتیموں کے ساتھ بدسلوکی کرنے والوں کے بارے میں مذامت  
کرتے ہوئے قرآن نے اعلان فرمایا:

فَذٰلِكَ الَّذِیْ یَدْعُ الْیَتِیْمَ وَلَا یَحْضُ عَلٰی طَعَامِ الْمِسْکِیْنِ  
جو شخص یتیموں کو دھکا دے اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی رغبت نہ دلائے وہ ان  
لوگوں کے طریقے پر ہے جو قیامت کے منکر ہیں۔

یعنی یتیموں کو دھکا دینا اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا، یہ مسلمان کا  
طریقہ نہیں ہے بلکہ کافروں کا طریقہ ہے (نعوذ باللہ منہ)

اے میری میٹھی میٹھی اسلامی بہنو!

خلاصہ کام یہ ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے کہ ملت اسلامیہ کے  
یتیموں اور مسکینوں پر ہمیشہ نظر رحمت رکھے اور نہایت شفقت و محبت کے ساتھ ان  
لوگوں سے اچھے سے اچھا برتاؤ کرے۔ کاش! دور حاضر کے مسلمان اور ارشاد نبوی کو  
اپنا نمونہ عمل بنا کر اسلامی معاشرہ میں بہترین انقلاب پیدا کریں اور تعلیمات نبوت  
سے اقوام عالم کو متاثر کر کے ان کو دامن اسلام میں لا کر اسلام کا بول بالا کریں۔

الحمد للہ! تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے  
مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، آپ سے بھی اسلامی  
بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی مدنی التجاء ہے، عاشقانِ رسول  
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی قافلے بھی سنتوں کی تربیت کے لئے قریہ قریہ، شہر شہر،  
ملک بملک سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں



سفر پر آمادہ کیجئے اور انہیں تیار کر کے مدنی مرکز بھیج دیجئے۔ آپ کے شفقت فرمانے سے اگر آپ کا کوئی عزیز مدنی قافلے کا مسافر بن گیا تو اُس کے ساتھ ساتھ آپ کی سینہ بھی مدینہ بن جائے گا۔

خوش نصیب اسلامی بہنیں فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات پر عمل کرتی ہیں۔ آپ بھی ۶۳ مدنی انعامات کا کارڈ حاصل کیجئے اور روزانہ اُسے پُر کرنے کا معمول بنائیے اور ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنی حلقہ ذمہ دار اسلامی بہن کو جمع کروا دیجئے۔ ان شاء اللہ عزوجل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لئے کڑھنے کا ذہن بنے گا۔

ہر اسلامی بہن اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے ہے۔ ان شاء اللہ عزوجل

اپنی اصلاح کے لئے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے۔ ان شاء اللہ عزوجل اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی سر بلندی کے لئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دعوتِ اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرمائے۔

اٰمِيْنُ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنِ

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ



## قرب الہی کا انمول نسخہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ! فَاغُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

### ﴿فضیلتِ درودِ پاک﴾

آقائے رحمت، حبیب رب العزت، مالک کوثر و جنت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ بابرکت ہے: سب دنوں سے افضل جمعہ کا دن ہے، اسی دن سیدنا آدم (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کو پیدا کیا گیا، اسی دن قیامت قائم ہوگی اور اسی دن صور پھونکا جائے گا، لہذا اس دن مجھ پر درودِ پاک کی کثرت کیا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ تک پہنچا دیا جاتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے وصال کے بعد درودِ پاک آپ تک کیسے پہنچے گا؟ ارشاد فرمایا: اللہ (عزوجل) نے انبیاء کرام (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کے اجسام کو کھانا زمین پر حرام فرما دیا ہے۔

(سنن ابی داؤد، کتاب الصلوٰۃ، باب فضل الجمعہ، جلد ۱، صفحہ ۳۹۱، رقم الحدیث ۱۰۴۷)

معلوم ہوا کہ مکئی مدنی سلطان، رحمت دو جہان، رسول ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ

وسلم اپنے مزار پر انوار میں بہ نفس نفیس زندہ و تابندہ ہیں، انبیاء کرام (علیہم الصلوٰۃ والسلام) کے اجسام کوزمین کوئی نقصان نہیں پہنچاتی۔

اے میری پیاری اسلامی بہنو! کنز العمال کی یہ تفصیلی حدیث مبارکہ تقریب الہی کا انمول نسخہ اور دینیوی و آخروی فوز و فلاح کے لئے کامل ترین تحفہ کی حیثیت رکھتی ہے۔

اس حدیث مبارکہ کے بارے میں حضرت شیخ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۹۱۱ھ) فرماتے ہیں کہ شیخ ابوالعباس المستغفری فرماتے ہیں کہ میں نے امام ابو

حامد مصری سے طلب علم کی غرض سے مصر کا قصد کیا۔ اور ان سے حضرت خالد بن ولید صحابی رضی اللہ عنہ کی حدیث سنانے کی درخواست کی، تو موصوف نے مجھے (ایام منہیہ

کو چھوڑ کر) ایک سال تک روزے رکھنے کی فرمائش کی۔ چنانچہ ان کے حکم پر میں نے ایک سال کے روزے رکھے جس کا مقصد ایک حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو

پڑھنے کی غرض سے استاد محترم کے حکم پر عمل کرنا تھا۔ اور استاد صاحب کا یہ حکم دینے سے مقصد ان کا تڑکیہ اور تطہیر تھا، تاکہ یہ شاگرد اس ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم!

کو لینے کے قابل ہو سکے۔ کیونکہ جس نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں دو دو مہینے تک آگ نہیں جلی، ان کے ارشادات کو حاصل کرنا کوئی آسان کام تھوڑا ہی ہے

اللہ اکبر! پھر ایک سال روزے رکھنے کے بعد میں دوبارہ ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے وہ حدیث پاک اپنی سند کے ساتھ جو ان کو یکے بعد

دیگرے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تک مشائخ حدیث سے حاصل ہوئی تھی، پڑھائی فرمایا! کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو

کر عرض کیا۔ میں آپ سے دنیا و آخرت سے متعلق کچھ مسائل کے بارے میں دریافت کرنا چاہتا ہوں۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوچھ جو

تیرا جی چاہے۔ اس نے عرض کیا۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چاہتا

ہوں کہ تمام لوگوں سے زیادہ علم والا بن جاؤں۔ (یعنی اپنے مقام یا اپنی جگہ کی نسبت سے) سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہ سے ڈرا کر۔ تو سب لوگوں سے زیادہ علم والا ہو جائے گا۔ اس نے پھر عرض کیا۔ چاہتا ہوں کہ میں تمام لوگوں سے زیادہ غنی ہو جاؤں۔ ارشاد فرمایا: قناعت اختیار کر تو سب سے بڑھ کر غنی ہو جائے گا۔ اس نے عرض کیا چاہتا ہوں کہ تمام لوگوں سے (یعنی اپنے ماحول کے تمام لوگوں سے) بہتر ہو جاؤں فرمایا: سب لوگوں میں بہتر وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے (یعنی بہتر آدمی کی تعریف یہ ہے) لہذا لوگوں کو نفع پہنچایا کر (تو خود بخود بہتر آدمی قرار پا جائے گا) عرض کیا چاہتا یہ ہوں کہ سب لوگوں سے زیادہ عدل و انصاف والا بن جاؤں فرمایا: لوگوں کے لئے وہی کچھ پسند کیا کر جو خود اپنے لئے پسند کرتا ہے، تو اس طرح تم دوسرے لوگوں کی نسبت سے زیادہ عدل والے ہو جاؤ گے۔ اس نے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ بارگاہ الہی میں دوسرے لوگوں کی نسبت سے زیادہ خاص فرد قرار پا جاؤں فرمایا: اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کر۔ (اس کی وجہ سے) بارگاہ الہی میں دوسرے بندوں کی نسبت سے تو زیادہ خصوصیت والا قرار پا جائے گا اس نے پھر عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ نیکو کاروں میں سے ہو جاؤں فرمایا: اللہ کی عبادت اس صرح کیا کر کہ گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے، پھر اگر تصور کا یہ مقام تجھے حاصل نہ ہو جائے تو یقین رکھا کہ وہ ضرور تجھے دیکھ رہا ہے عرض کیا چاہتا ہوں کہ میرا ایمان کامل ہو جائے، فرمایا: اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ تمہارا ایمان کامل ہو جائے گا۔ اس آنے والے بندہ خدا نے پھر عرض کیا۔ چاہتا یہ ہوں کہ خدا تعالیٰ کے اطاعت گزار بندوں میں سے ہو جاؤں، فرمایا! اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ فرائض کو ادا کیا کر تو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار بندوں کی صف میں شامل ہو جائے گا۔ اس نے پھر عرض کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ گناہوں سے پاک و صاف ہو کر اللہ سے ملاقات آروں ارشاد فرمایا کہ! جنابت کا

غسل (اس طرح بڑی احتیاط سے کیا کر توفی الواقع صحیح طور پر) پاک صاف ہو جائے تو (اس احتیاطی عمل کی وجہ سے) قیامت کے دن تو اس حال میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریگا کہ تجھ پر کوئی گناہ نہ ہوگا اس نے عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن نور (روشنی) میں میرا حشر ہو! (اٹھایا جاؤں) فرمایا! کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا تو قیامت کے دن نور میں تمہارا حشر ہوگا۔ (اٹھائے جاؤ گے اور تمہارا یہ مقصد نور بھی یوں حاصل ہو جائے گا) عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ پر رحم فرمائے۔ ارشاد فرمایا: اپنے آپ پر اور اللہ کی دوسری مخلوق پر رحم کیا کر اللہ تجھ پر رحم فرمائے گا عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ کم ہوں فرمایا: اللہ سے استغفار کیا کریں تیرے گناہ کم ہو جائیں گے۔ اس نے عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگوں سے بزرگ قرار پاؤں فرمایا۔ اللہ کا کوئی شکوہ مخلوق سے نہ کیا کر تو لوگوں سے زیادہ بزرگ قرار پائے گا۔ اس نے پھر عرض کیا چاہتا ہوں کہ میری رزق و روزی میں وسعت ہو فرمایا (اس کا گریہ ہے) کہ ہمیشہ با وضو رہا کر تو تیرے رزق میں وسعت ہو جائے گی۔ عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوستوں میں سے ہو جاؤں فرمایا: (اس کا طریقہ یہ ہے کہ) اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسندیدہ چیزوں (مرضیات الہی ورسولی) کو پسند کیا کر اور جس چیز سے اللہ اور اللہ کا رسول بعض رکھتے ہیں اس سے تو بھی بغض رکھا کر عرض کیا چاہتا ہوں کہ اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں فرمایا کسی پر بھی غصہ نہ کیا کر (تو یوں تم بھی) اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی سے بچ جاؤ گے عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ میری دعا مستجاب (مقبول) ہو فرمایا: (اس کا گریہ ہے کہ) حرام سے اجتناب کیا کر تیری دعا مستجاب ہو کرے گی۔ اس نے عرض کیا میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے سامنے (یعنی میدان قیامت میں یا دنیا میں) اللہ مجھے رسوا نہ کرے فرمایا: اپنی شرمگاہ کی حفاظت کیا کرتا کہ تو لوگوں کی موجودگی میں رسوا نہ

ہو۔ عرض کیا میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ میرے عیبوں کو چھپائے۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اپنے مسلمان بھائیوں کی پردہ پوشی کیا کر اللہ تیری پردہ پوشی فرمائے گا۔ اس نے عرض کیا وہ کیا چیز ہے جو میرے گناہوں کو مٹا ڈالے؟ فرمایا: اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے خوف سے آنسو بہانا اور جھکنا، عاجزی کرنا اور بیماریاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اس نے عرض کیا۔ کون سی نیکی اللہ کے نزدیک افضل ہے؟ فرمایا: اچھا اخلاق، تواضع، بلا و آزمائش پر صبر کرنا اور قضا پر راضی ہونا، اللہ کے فیصلے اور تقدیر پر راضی رہنا اس نے عرض کیا کون سی برائی اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے؟ فرمایا: بد خلقی اور وہ حرص جس کے پیچھے آدمی چل پڑے اس نے عرض کیا! وہ کیا چیز ہے جو رحمن کے غضب کو ٹھہرا دے؟ نبی مکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: چھپ کر صدقہ دینا اور صلہ رحمی کھپنا، اس نے عرض کیا وہ کیا شے ہے جو جہنم کی آگ کو بجھا دیتی ہے؟ حضور کرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزہ یعنی فرضی روزوں کے علاوہ نقلی روزوں سے بھی آتش جہنم بجھ جایا کرتی ہے سبحان اللہ! حدیث مبارکہ کیا ہے؟ دین دنیا، اولو آخر کی کامیابی کا راز ہے خدا تعالیٰ توفیق مرحمت فرمائے اور اس پر عمل کو ہمارے لئے آسان سے آسان تر فرمائے۔ آمین

میری پیاری اسلامی بہنو! اس طرح کی اچھی سوچ ہمیں کہاں سے ملے گی دعوتِ اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول سے ملے گی۔

الحمد للہ! تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوتِ اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، آپ سے بھی اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی مدنی التجاء ہے، عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی قافلے بھی سنتوں کی تربیت کے لئے قریہ قریہ، شہر شہر،

ملک بملک سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر پر آمادہ کیجئے اور انہیں تیار کر کے مدنی مرکز بھیج دیجئے۔ آپ کے شفقت فرمانے سے اگر آپ کا کوئی عزیز مدنی قافلے کا مسافر بن گیا تو اُس کے ساتھ ساتھ آپ کی سینہ بھی مدینہ بن جائے گا۔

خوش نصیب اسلامی بہنیں فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات پر عمل کرتی ہیں۔ آپ بھی ۶۳ مدنی انعامات کا کارڈ حاصل کیجئے اور روزانہ اُسے پُر کرنے کا معمول بنائیے اور ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنی حلقہ ذمہ دار اسلامی بہن کو جمع کروا دیجئے۔ ان شاء اللہ عزوجل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لئے کڑھنے کا ذہن بنے گا۔

ہر اسلامی بہن اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے ہے۔ ان شاء اللہ عزوجل اپنی اصلاح کے لئے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے۔ ان شاء اللہ عزوجل اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی سر بلندی کے لئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دعوتِ اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرمائے۔

اٰمِيْنُ بِجَاہِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنِ

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ



## نام مصطفیٰ ﷺ کا مقام و مرتبہ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَاَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

### ﴿فضیلت وورد پاک﴾

حضرت سید محمد کر دی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب باقیات الصالحات میں لکھا ہے۔ میری والدہ ماجدہ نے بتایا کہ اُن کے والد محترم (یعنی میرے نانا جان) جن کا نام محمد عالم (رحمۃ اللہ علیہ) تھا، انہوں نے مجھے وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے اور مجھے غسل دے دیا جائے تو چھت سے ایک سبز رنگ کا رقعہ گرے گا اُس رقعے کو میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ بعد وفات غسل دے کر فارغ ہوئے تو رقعہ گرا، جس پر لکھا تھا۔

هذه براءة محمد بن العالم بعلمه من النار

(یہ نجات کی چٹھی ہے محمد عالم کے لئے جنہیں اُن کے علم کے سبب بخش دیا

گیا ہے)



اُس رقعے كى خاص بات یہ تھی كہ جس طرف سے بھی پڑھتے سیدھا ہی لكھا ہوا نظر آتا۔ میں نے والدہ ماجدہ سے پوچھا۔ كہ میرے نانا جان كا عمل كیا تھا؟ انہوں نے فرمایا: درود پاك كثر ت سے پڑھا كرتے تھے۔

(سعادة الدارين ماخوذ من فيضان سنت صفحه نمبر ۱۲۸)

میری اسلامی بہنو! اللہ تعالیٰ كے پیارے نبی حضرت خاتم الانبياء المرسلين صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم كا ارشاد گرامی ہے كہ انسان كو جس سے محبت ہوتی ہے اس كا ذكر كثر ت سے كرتا ہے چونكہ محبت كے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ اس لئے یاد كے انداز بھی مختلف ہوں گے بلكہ انوكھے اور نرالے ہوں گے۔ كبھی تو محبت اپنے محبوب با كى یار ہی كى مالا كو چپتار ہتا ہے اور باقی ہر ماسوا كو بھول جاتا ہے بس ایک دعا ہر وقت اس كے لبوں پر مچلتی رہتی ہے۔

دل سے مرے ہر چیز كى ہو جائے فنا یاد

یارب نہ رہے كچھ بھی مجھے اس كے سوا یاد

دن اس كے خیالات میں بسر ہوتا ہے اور رات كو اس كے سنے بلكہ اس كى یاد اُسے اكيلا پا كر اس كے دروازے پر آ دستك دیتی ہے دن تیرے خیالاں وچ لنگدا راتیں سونواں تے تیرے سنے نے تیری یاد بناں میرے چن، سجاں جہڑا ساہ آیا اوہ حرام آیا اس كیفیت میں كوئی اُسے دیوانہ كہے یا پاگل كہتا رہے اُس كو اس سے كیا غرض؟ بلكہ اُس كا عندیہ یہ ہوتا ہے كہ

ایك ہمیں آوارہ كہنا كوئی بڑا الزام نہیں

دنیا والے دل والوں كو اور بہت كچھ كہتے ہیں

اس كى جو خوابوں كى دنیا بھی اسی سے بسی رہتی ہے تصورات كے تانے بانے بھی

اس كى یاد سے بنے جاتے ہیں۔ اس كے باوصف وہ اپنی زبان كو اس قابل نہیں سمجھتا۔

اے میری اسلامی بہنو! اس محبت کی بات رہی اپنی جگہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ بتا؟ وہ کون سی؟ ستی ہے جس کے لئے تیرا دل دھڑکتا ہے؟ وہ کون ہے جو تیرے سینوں کا راجا ہے؟ تیری پلکوں پہ اشکوں کے موتی کس کے ذکر سے مزید چمکنے لگتے ہیں؟ اس کا نام کیا ہے؟ میں کہوں گا میرا محبوب وہ ہے جس کی خاطر کائنات تخلیق کی گئی؟ تاروں کی جھلملاہٹ، چاند کی ہائے، سورج، سوج کی کرنیں، قوس و قزح کی رنگینیاں، پتوں کی تالیاں، شاخوں کا وجد کناں رہنا، صبحوں کا مسکانا، شاموں کا سنوالا، راتوں کا کجلانا، کرنوں کا بل کھانا ہر لمحہ چڑیوں کی چچاہٹ، اوس کے موتیوں کی ڈھلک، غرض ہر چیز، چرخ نیلی فام کا فیلاخم، جس کا حجر ابدالاتا ہے موزن کی اذانوں میں اسی کا نام، مکبر کی تکبیر میں اسی کے مقدس نام کی جھلک، نمازیوں کی نماز میں اس پر سلام، کائنات ارضی و سماوی کا ہر ذرہ جس کا مہون منت، اور خالق کائنات جل و علی اس پر درود پڑھتا ہے، نعت گویان و نعت خوانان کی تخیلات و عقیدت کا مرکز اسی کی ذات، مقررین کی تقریریں و اعظین کے وعظ اسی کے پیارے نام سے شیریں بنتے ہیں۔

دھی اسی کے نام کا واسطہ دے کر دکھوں سے نجات حاصل کرتے ہیں اگر کوئی پوچھے کہ اُس کا نام تو بتاؤ؟ تو میں کہتی ہوں کچھ لوگوں کا کہنا ہے چھوڑو جی! نام میں کیا رکھا ہے؟ تم شخصیت کی بات کرو۔ تم سیرت و کردار پر بات کرو۔ تو میں کہتا ہوں نہیں، ایسا نہیں، بلکہ جو میرا محبوب ہے، جس کا نام پوچھ رہے ہو اس کے تو نام ہی میں بھی بہت کچھ ہے، بلکہ سب کچھ ہے دونوں جہاں کی دولتیں، ثروتیں اور رعنائیاں صرف اسی محبوب کے نام سے عبارت ہیں، جو کچھ اس نام میں ہے اگر ساری کائنات کو سمیٹ کر رکھ دیا جائے تو اس کی قیمت اس کے ناک کا برابر پرکاش کی بھی حیثیت نہ رکھے۔ آسمان کا کوئی ستارہ نہیں جو اس نام جیسا روشن ہو سمندروں کدی پہنائیوں میں ایسا کوئی گوہر نہیں جو اس نام سے زیادہ قیمتی ہو منجم حضرات نے تقدیر کائنات کو عوم و سیا

رگال سے وابستہ کر رکھا ہے، لیکن دنیا میں کوئی ایسا ستارہ یا سیارہ نہیں جس کی اپنی تقدیر خود اس کے نام سے وابستہ نہ ہو۔

اے میری اسلامی بہنو! اللہ کے بے حد نعمتیں ہیں اور ان میں سے ہر نعمت ایسی کہ اس کے بغیر زندگی کی رعنائیاں دم توڑنے لگیں، لیکن ابھی ایسا پھل حضرت انسان کے علم میں نہیں اور نہ ہی ابدالاآباد تک آنے کا امکان ہے جو پھل اُس نام نامی اسم گرامی سے زیادہ شیریں ہو، بیٹھا ہو، ارض و سماء میں جو چیز بھی حضرت انسان کی تخلیق کے لئے تخلیق ہوئی اس کی دو حیثیتیں ہیں وہ ہر چیز بیک وقت رحمت بھی ہے اور زحمت بھی مثلاً۔

## پانی

پانی اللہ تعالیٰ کی ایسی نعمت ہے کہ دنیا کی ہر چیز اسی سے نشوونما پاتی ہے وَجَعَلْنَا مِنْ أَسْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ . ہر زندہ چیز کی زندگی اسی سے وابستہ ہے لیکن اگر یہی پانی سیلاب بلاخیز کی صورت میں اٹد آئے تو اس سے بڑھ کر کوئی زحمت نہیں عالی شان مکانات اور محلات چشم زدن میں زمین بوس کر دے فصلیں غرق ہو جائیں، باغات تباہ و برباد ہو جائیں زندگی معطل ہو جائے اور نظام مواسلات درہم برہم ہو جائے۔

## ہوا

ہوا ایک ایسی نعمت جس کے بغیر ایک لمحہ زندہ رہنا محال، انسان، حیوان، چرند، پرند، نباتات، جمادات کی زندگی کے لئے اس کا وجود سراسر رحمت ہی رحمت لیکن اگر یہی ہوا طوفان، آندھی اور بگولے کی صورت اختیار کر لے تو ہر شخص الامان والحفیظ پکاراٹھے۔ پھر اس سے بڑھ کر اور زحمت کیا ہوگی۔

## بجلی

بجلی نے دور حاضر میں بود و باش کو ایک نیا رنگ و روپ بخشا ہے، ٹیوبوں، بلبوں

اور قہقہوں کی صورت میں اندھیروں کو اجالوں میں بدل دیا پنکھوں، موٹروں اور انجنوں کی صورت میں حرکت میں مزید برکت پیدا کی۔ اب اس کے بغیر زندگی اندھیر ہو جائے۔ لیکن یہی بجلی آسمان سے گرے تو ہر چیز نیست و نابود کر دے اس کے ننگے تار پہ ہاتھ لگ جائے تو سانس کی کچی ڈوری و فعتہ ٹوٹ جائے۔

### اولاد

اولاد ایک ایسی نعمت ہے جس کی طلب اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندوں انبیاء کرام علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام نے بھی کی ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں جا بجا موجود ہے ابوالانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور دیگر جلیل القدر انبیاء کرام علیہم السلام نے اسی اولاد کے لئے خصوصی دعائیں مانگی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس نعمت کے عطا کرنے کو بھی بڑے پیارے انداز میں بیان کیا ہے اگر یہ نعمت اتنی بڑی اور عظیم نہ ہوتی تو خدا رسیدہ شخصیات اس کے حصول کے لئے خصوصی التجائیں نہ کرتیں۔ میری پیاری بہنو! حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے کتنے بیٹے دیئے تھے؟ ان میں صرف ایک بیٹا حضرت یوسف علیہ السلام کچھ عرصہ کے لئے جدا ہوتے ہیں تو رور و کران کی آنکھوں کی بینائی جاتی رہتی ہے آخر وہ کیا بات ہے جو اس نعمت کے حصول پر بے چینی و بے قراری بڑھا جاتی ہے۔ اس سوال کا جواب خود اس سوال کے اندر موجود ہے کہ یہ نعمت ہی ایسی ہے کہ دنیا میں اس کا کوئی متبادل نہیں۔ پنجاب کی ثقافت کا قول ہے

دنیا وچ اک میوہ ڈٹھا

جناں کچا اونا مٹھا

اور وہ میوہ سوائے اولاد اور کوئی نہیں، لیکن یہ اولاد جتنی بڑی نعمت ہے اتنی ہی بڑی زحمت بھی ہے اولاد صالح ہو۔ نیک ہو فرمانبردار ہو، محبت اور خدمت کرنے

والے ہو تو اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نعمت نہیں اگر خدا نخواستہ یہی اولاد بد طینت ہو، بد سرشت ہو، ناکارہ فلائق ہو، نافرمان اور گستاخ ہو تو دنیا میں اس سے بڑی کر کوئی زحمت نہیں۔

اے میری اسلامی بہنو! اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کا تذکرہ کروں؟ جس نعمت پر بھی ہاتھ رکھو وہ جتنی بڑی نعمت ہوگی بصورت دیگر وہ اتنی بڑی ہی زحمت بھی ہوگی۔ لیکن رب کعبہ کی قسم، میرا محبوب، میرا مطلوب، میرا مقصود، میری کائنات، میرا دین، میری آخرت، میرا ایمان، میری دنیا، میرے خواب، میری زندگی، جو اللہ تعالیٰ کی سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت ہے، جس کے نام کی مالا جینا میرا پسندیدہ مشغلہ ہے، جس کے نام کے بغیر مجھے کوئی وظیفہ بھاتا ہی نہیں، کوئی اس کا نام لے لے تو فرط جذبات سے آگے بڑھ کر ان کا منہ چوم لوں، جس کے نام سے میری جان اور ایمان تازہ ہے، اس کا نام اور اس کی ذات صرف رحمت ہی رحمت ہے اور ہر اعتبار سے رحمت ہے، اپنوں کے لئے غیروں کے لئے، اچھوں کے لئے، بروں کے لئے، کسی بھی دور کا کوئی بھی انسان، کوئی حیوان، اس کی رحمت سے محروم نہ رہا، نہ ہے اور نہ ہوگا، اسی کا نام میرا اور، میرا وظیفہ، میری تسبیح کا ہر دانہ اسی کے نام۔

ٹھہرو ٹھہرو! پوچھتی ہو اس کا نام کیا ہے؟ سنو سنو! دل کے دریچے کھول لو، جذبات کی بھٹی تیز کر لو، ہمہ تن گوش ہو جاؤ، سر نیاز جھکا لو، میں نام لینے لگی ہوں ان کا نیاز مدنی سے سر جھکا لو درود پڑھ لو۔ سلام پڑھ لو۔ وہ رحمتوں کی پھوار آئی تم نے اپنی آنکھوں کے کٹورے پاکیزہ موتیوں سے بھر لیے ہیں؟ لبوں کو پاک کر لیا ہے؟ کیا اپنا سارا ماحول پاکیزہ تر کر لیا ہے؟ لو بان چھڑک لیا ہے؟ عطر و گلاب سے معطر کر لیا ہے؟ تو پھر سنو؟ وہ حامد ہیں، وہ محمود ہیں وہ محبوب ہیں، مطہر ہیں، رحمت ہیں، راحت ہیں، مراد المشائقین ہی، شفیع المدنبین ہیں، سراج السالکین ہیں، وہ دافع البلاء ہیں، وہ

دافع القحط والمرض ہیں، وہ شفیع ہیں وہ شرف آدمیت ہیں، وہ نسیم ہیں، جسم ہیں، وہ معراج انسانیت ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ واصحابہ وبارک وسلم ہاں ہاں! مجھے ان کا نام لینے سے پہلے صفاتی نام لینے کی حاجت ہے میری مجبوری ہے، میری ضرورت ہے اصل یہ سارے نام اور اس جیسے ہزاروں خوبصورت نام جو آثار و کتب مسرت میں محفوظ ہیں، وہ سارے کے سارے اسی ایک ذات کے نام ہیں، میری اسلامی بہنو! گلاب کو جس نام سے یاد کرو، وہ گلاب ہے، گلاب ہی رہے گا، کوئی کہے خوشبو ہے، سبحان اللہ! کوئی کہے مہک ہے، واہ کیا کہنا، کوئی کہے نزاکت ہے الحمد للہ! ان تمام رعنائیوں کے باوصف نام تو پھر نام ہے۔ کہتے ہیں شہنشاہ عربی سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک غلام اور وزیر حضرت ایاز رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کا نام اسی مقدس اور عظیم نام پر تھا جس نام کے حسین و جمیل ذکر کے لئے میرے قلم کی زبان ہزار بار بوسے لینے کو بے چین و بے قرار ہے، محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اس غلام زادے کو اسی پیارے نام سے بلایا کرتے تھے اور بڑی محبت سے بلایا کرتے تھے، ایک دن نہ جانے کیا ہوا؟ انہوں نے اسے اسی پیارے نام سے بلانا چاہا، لیکن نہ بلا سکے، سوچنے لگے کیسے پکاروں؟ دل میں آئی، ایاز کا بیٹھا، کہہ کر پکار لیتے ہیں، اس سے بھی تو وہی مراد ہوگا، آخر انہوں نے اسے ایاز کا بیٹھا کہہ کر پکار ہی لیا۔ اے میری پیاری اسلامی بہنو! لیکن وہ بھی بڑے حساس تھے آتو گئے لیکن سلطان معظم کے بلانے کا انداز پسند نہ آیا میرا نام اتنا خوبصورت، اتنا پیارا اتنا اجلا اور پھر میرا نام لینا پسند نہ کیا اور ایاز کا بیٹھا کہہ کر بلایا اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ میں ایاز ہی کا بیٹھا ہوں اور مجھے ان کا بیٹھا ہونے پر فخر ہے۔ لیکن میرے نام سے بلانا تو مجھے ان کے بیٹے ہونے سے زیادہ عزیز ہے، سوچا کوئی خطا ایسی ضرور ہوگئی ہے جو وجہ ناگواری ہو اور اسی نا کردہ لغزش پر نادام ہونے لگے، سوچتے سوچتے تھک گئے آخر کیا غلطی ہوئی جس کی جا کر معذرت

کروں؟ ادھر سلطان معظم کو بھی ان کی غیر حاضری کھٹکی، وہ تو انہیں جان سے بھی زیادہ عزیز تھا وہ جان جان کی غیر حاضری کیسے برداشت کرتے؟ ایاز سے پوچھا ایاز بیٹا کہاں ہے؟ وہ آبدیدہ ہوئے، عرض کیا آقا! جانے غلام سے کیا خطا ہوئی؟ آپ نے اسے اس کے نام سے نہیں بلایا بلکہ ایاز کا بیٹا کہہ کر یاد فرمایا تھا، حالانکہ اس کا نام آپ کو بھی بہت پسند تھا، سلطان معظم، محمود غزنوی رحمتہ نے کہا ایاز اس سے غلطی کوئی نہیں ہوئی دراصل وہ نام ہی اتنی عظمت والا ہے شان والا ہے اور اتنی قدر و منزلت والا ہے کہ اس نام کو میں نے کبھی بے وضو نہیں لیا۔ چونکہ اس وقت میں بے وضو تھا اس لئے اس مقدس، مطہر نام لینے سے محروم ہوا، اب میں با وضو ہوں اسے بلاؤ اب میں اس کو اسی پیارے نام سے بلاؤں گا۔

تمام عمر کے سجدوں کو غسل کرا دوں

چند قطرے جو پاؤں آب وضوئے رسول ﷺ

چلئے آئیے! میں بتاتی ہوں ان کا نام لینے سے پہلے اتنا اہتمام کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اے میری اسلامی بہنو! آپ کا نام نامی اسم گرامی کلمہ طیبہ کا حصہ ہے اسی نام کا کلمہ پڑھ کر جہنمی جنتی بنتا ہے، غیر اپنے ہو جائے ہیں، معتبوب محبوب بن جاتے ہیں، لیکن عشاق کا کہنا ہے کہ ان کا نام کلمہ طیبہ میں رکھنے میں بھی ایک خاص اہتمام کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ جس جس نے بھی ان کا نام لینا ہو پہلے ان کے خالق و مالک اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اپنی زبان کو پاک کرے پھر ان کا مقدس نام لے، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے نا، اسے کس کی پرواہ؟ اللہ الصمد جو ٹھہرا وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ قادر مطلق ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے، کس میں اتنی جرات؟ اسے کہے کہ اے پروردگار عالم! تو نے ایسا کیوں کیا؟

لیکن سوچو! اس بے نیاز و غیر محتاج خالق و مالک یکتا و بے ہمتا پروردگار کائنات

جل و علی نے نسل انسانی میں معراج انسانیت کا درجہ پانے والے انبیاء کرام کے جتنے بھی نام ہیں ان سب کو ان کے مالک نے ان کے اسی نام سے پکارا ہے جو نام ان کے والدین نے رکھا ہے، یا جو نام مبارک مصروف و مقبول عام ہوا۔ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بلانا چاہا تو یا آدم کہہ دیا، آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام کو بلایا تو یا نوح سے خطاب سے فرمایا، جد الا نبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اس بے نیاز نے یا ابراہیم کہہ کر پکارا پتھروں سے پانی کے چشمے جاری کرنے والے، بلا واسطہ اپنے خالق و مالک سے ہمکلامی کا شرف پانے والے بھی یا موسیٰ سے خطاب کئے گئے، حسن کی دولت کو عام کرنے والے جنہیں دیکھ دیکھ کر زنان مصر اپنے ہاتھ کاٹ لیں، بھوک و افلاس کے مارے شرف دیدار پائیں تو تین تین ماہ تک دیکھنے والوں کے پیٹ کی بھوک ختم ہو جائے، انہیں بھی یا یوسف کہہ کر بلایا،، بلکہ یہ کہا جائے تو بہتر ہے کلمہ دنیا میں ہر وہ حسن جس سے کسی کو عروج ملا اس کو ان سراپا اقدس ہستیوں کے طفیل ملا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان عزت مآب ہستیوں کو ان کے اسی نام سے ان کو یاد فرمایا، جس نام سے ان کے والدین ان کو بلاتے تھے یا عام زمانہ انہیں جس نام سے یاد کرتا تھا ہاں ہاں! جب میرے آقا کریم آقا، میرے مولا، میرے ہادی اور میرے محبوب جن کا نام ہی میرے لئے راحت جان ہے، سکون ہے، آرام ہے، ایمان ہے، جب ان کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس نام سے اس انداز میں نہیں بلایا جس طرح اللہ تعالیٰ نے دوسرے نفوس قدسیہ کو بلایا۔ بلکہ جب بھی پکارا آواز دی، بلایا تو بڑے خوبصورت اور حسین لقابات سے نواز کر بلایا قرآن پاک کے تیس پاروں اور تیس پاروں کی چھ ہزار چھ سو چھیاسٹھ آیات مبارکہ میں سے کسی ایک آیت مبارکہ میں بھی آپ کو نام لے کر نہیں بلایا بلکہ جو ان کی قربت پانے والے ہیں، جو ان پر جان نچھاور کرنے والے ہیں، ان سب کو بھی خصوصاً منع فرما دیا کہ اے میرے محبوب سے محبت کرنے والو! یہ



تمہارے ہی محبوب نہیں میرے بھی محبوب ہیں بے دھیانی میں بے تکلفی یا عدم توجہ سے یا آداب محفل کا خیال رکھے بغیر نہ بلانا، بلکہ جب بھی ان کو بلانا مقصود ہو تو میری سنت ادا کرو، ان کو حسین و جمیل القابات سے پکارو، کبھی یا الرسول کہہ کر بلا لو۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ بِمِثْلِهَا الْمُدَّثِّرُ بِمِثْلِهَا جَا سَلْتَا هِيَ يَا أَيُّهَا الْمُرْقَلُ بھی خوبصورت لقب ہے، اور سنو! ذرا ادھر دھیان دو اور کان کھول کر سنو اگر تم نے ان آداب کا خیال نہ رکھا، بلکہ جیسے منہ میں آ یا نام لے لیا تو تم اپنی نمازوں، اپنے روزوں، زکوٰتوں، عبادتوں، ریاضتوں کے زعم میں نہ رہنا، ایک لمحہ بھی نہ گزرے گا، کہ تمہارے سارے نیک اعمال کی تختی یوں دھو دی جائے گی جیسے اس پر کچھ لکھا ہی نہ تھا۔ اے میری بہن! جب تم نے اپنے دل کو، محفل جان کو، خیالات و تصورات کو ان کی یاد سے آباد کر لیا ہے، ان کے ذکر سے پاک کر لیا ہے، اپنے ذہن اور فکر کی رسائی کی حد، ان کو مقرر کر لیا ہے، تصورات کی دنیا میں ان کو بسا لیا ہے دل کی دھڑکنیں ان کے نام سے منسوب کر لی ہی، کج کلاہی کے تمام کروفر کے بت توڑ کر سر عقیدت ان کے حضور جھکا لیا ہے زبان ان کی نعت پڑھنے میں لذت لینے لگی ہے، آپ نے ان پر درود پڑھ لیا ہے سلام عرض کر لیا ہے تو اگر چہ ادب کا تقاضا تو یہ ہے کہ میں بھی اور آپ بھی ابھی اس قابل نہیں ہوئے کہ ان کا نام لے سکیں، لیکن چونکہ ان کے نام کے سوا ہمارے پاس ہے بھی کیا؟ ہم جیسے بھی ہیں انہی کے ہیں ہم نالائق سہی، ناکارہ خلاق سہی، آخر نام تو انہیں کالے لے کر جی رہے ہیں اس لئے میں ان کا نامی اسم گرامی لیتی ہوں، میں نام لینے لگی ان کا نیاز مندی سے سر جھکا لو، درود پڑھ لو! وہ رحمتوں کی پھوڑا آئی قسیم بھی وہ جسیم بھی وسیم بھی، وہ نسیم بھی، وہ شفیع اعظم مطاع مطلق کرم سے سے جھولی بھری ہوئی ہے محمد ان کا ہے نام نامی، امین عظمت بڑا گرامی ہے کتنا شیرین یہ نام پیارا، مٹھاس کتنی بھری ہوئی ہے، میرا ایک حبیب ہے جس کے تصور

میں گم رہنا میری زندگی کا نصب العین ہے اور اس کا اسم گرامی میرے دل کی گہرائیوں میں محفوظ ہے جب اس کی یاد آتی ہے تو دل بے قرار ہو جاتا ہے اور اگر اس کے بارے میں غور و فکر کرتی ہوں تو آنکھیں بے چین ہو جاتی ہیں۔

حضرت ملا علی قاری رحمۃ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم پر کبھی مکھی نہ بیٹھی تھی، آپ کا اسم گرام لفظ اللہ جل شانہ کی طرح غیر منقوٹ رکھا گیا کہ لفظ پر نقطہ مکھی کے مشابہ ہوتا ہے بدیں وجہ جسم و لباس دونوں پر کبھی مکھی نہ بیٹھی تھی۔

قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی  
دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا ہے  
مشکل جو آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی  
تیرا نام ہے ہر مرض کی دوا صل علی محمد

اے ہمارے اللہ عزوجل! ہمیں حضور پر نور، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ  
وآلہ وسلم کی تعظیم و تکریم عطا فرما آمین۔

الحمد للہ! تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے  
مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، آپ سے بھی اسلامی  
بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی مدنی التجاء ہے، عاشقان رسول  
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی قافلے بھی سنتوں کی تربیت کے لئے قریہ قریہ، شہر شہر،  
ملک بملک سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں  
سفر پر آمادہ کیجئے اور انہیں تیار کر کے مدنی مرکز بھیج دیجئے۔ آپ کے شفقت فرمانے  
سے اگر آپ کا کوئی عزیز مدنی قافلے کا مسافر بن گیا تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی  
سینہ بھی مدینہ بن جائے گا۔

خوش نصیب اسلامی بہنیں فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات پر عمل کرتی ہیں۔

آپ بھی ۶۳ مدنی انعامات کا کارڈ حاصل کیجئے اور روزانہ اُسے پُر کرنے کا معمول بنائیے اور ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنی حلقہ ذمہ دار اسلامی بہن کو جمع کروادیتجئے۔ ان شاء اللہ عزوجل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لئے کڑھنے کا ذہن بنے گا۔

ہر اسلامی بہن اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے ہے۔ ان شاء اللہ عزوجل

اپنی اصلاح کے لئے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے۔ ان شاء اللہ عزوجل اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی سر بلندی کے لئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دعوتِ اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرمائے۔

اٰمِيْنُ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنِ

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ



## استاد کے حقوق اور آداب و احترام

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَاغُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

### ﴿فضیلت و درود پاک﴾

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، سرکارِ دو عالم، نورِ مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: مجھ پر درود بھیجا کرو کہ تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو، تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔

(مرآة المناجیح شرح مشکوٰۃ المصابیح جلد دوم، صفحہ ۹۷ بحوالہ نسائی)

سبحان اللہ! رحمتِ مصطفیٰ علیہ التحیۃ و الثناء کی عظمتوں پہ قربان! ہم جہاں بھی ہوں، بارگاہِ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں درود و سلام پیش کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمالتے ہیں۔

میٹھی میٹھی اسلامی بہنو!

قرآن پاک گواہ ہے کہ حضرت سیدنا یعقوب علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے سینکڑوں میل سے اپنے پیارے بیٹے حضرت سیدنا یوسف علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے لباس کی خوشبو پالی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے تین میل

کی مسافت سے چیونٹی کی آواز سن لی۔ اسی طرح امام الانبیاء محبوب کبریاء علیہ التحیۃ و الثناء بھی دنیا بھر سے اپنے عاشقوں کے درود کو سماعت فرما لیتے ہیں۔

پیاری اسلامی بہنو! علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے کیونکہ علم بڑی دولت اور عظیم نعمت ہے علم دل کی زندگی اور آنکھوں کا نور ہے۔ علم ذریعہ معرفت الہی اور وصف الوہیت ہے علم اگر دنیاوی ہو تو انسان کائنات کو تسخیر کرتا ہے اور علم اگر دین کا ہو تو انسان معرفت ربانی اور عشق رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خزانے سمیٹتا ہے۔ پیاری بہنو! ملت اسلامیہ کو پہلا درس معلم کائنات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے آپ نے پڑھایا بھی سکھایا بھی اور سمجھایا بھی اور دلوں کو علم و معرفت اور حکمت و دانائی کے نور سے منور و روشن کر دیا۔ پھر درس و تدریس اور تعلم و تعلیم کا ایسا عظیم اور مبارک سلسلہ شروع ہوا کہ چودہ صدیاں گزر گئیں مگر یہ سلسلہ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے، قرآن مجید ہمارے علم و حکمت اور عقل و دانائی کی بنیاد اور مرکز و مربع ہے علم و حکمت کی ساری بہاریں اور ساری رعنائیاں اسی کے دم سے ہیں مگر افسوس کہ قرآن مجید پڑھانے والا، علم دین سکھانے والا، ہمارے بچوں کی نظروں میں کچھ وقعت اور قدر و منزلت نہیں رکھتا، حالانکہ معلم کامل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالیشان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ (صحیح البخاری جلد ۲، ص ۷۵۲)

میری پیاری بہنو! ایک وہ زمانہ تھا کہ صرف قرآن مجید ہی ہمارے تعلیمی نصاب میں تھا اور صرف قرآن پڑھانے والا ہی ہمارا استاد ہوتا تھا۔ دو تین صدیوں تک یہی صورت حال برقرار رہی اور قرآن مجید کی برکت سے ہم کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے اور اب تو قرآن حکیم کی تعلیم ہماری تعلیم کی فہرست میں ایک ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ اسلام میں دینی علوم پڑھانے والے کی بڑی عظمت و فضیلت ہے بلکہ ہر استاد کی

بڑی قدر و منزلت ہے ہمیں تو یہ تصور بلکہ یہ سبق دیا گیا ہے کہ ایک آیت پڑھانے والا بھی نہ صرف ہمارا استاد ہے بلکہ ہمارا آقا و مولا ہے مگر افسوس! کہ آج کل ہم ابتدائی تعلیم دینے والے استاد کو کسی فہرست میں شامل نہیں کرتے، جب اللہ تعالیٰ بڑا بنا دیتا ہے تو سب استادوں کو بھول جاتے ہیں۔ استاد کی ناقدری کرنا ناشکری اور احسان فراموشی ہے، علم سیکھنے تو ادب و احترام بھی سیکھنے عجز و انکساری بھی سیکھنے۔ عہد و منصب اور جاہ و جلال کا غرور بالآخر خاک میں ملا دیتا ہے یہ قول استادی المحترم حضرت علامہ جمیل احمد نعیمی صاحب دامت فیوفہم کہ آدمی کچھ بن جاتا ہے مثلاً ڈاکٹر، انجینئر، وکیل، کمشنر، وزیر وغیرہ بن جانا تو بہت آسان کام ہے لیکن کامل انسان بننا بہت مشکل کام ہے کیونکہ انسانیت کا کمال تو عبدیت میں ہے اور عاجزی و انکساری اور تواضع میں ہے، ایک اچھے انسان کا طرہ امتیاز اور وصف کمال یہی ہوتا ہے جبکہ تکبر اور غرور تو شیطان کا کام ہے اور یہ کسی انسان کو نچے بنا نہیں ہے یہ تکبر و غرور اور کبریائی تو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور یہ صرف اسی کو ہی زیبا ہے پیاری اسلامی بہنو! حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: کہ علم دین دیکھو اور علم کے لئے وقار و رنجیدگی سیکھو اور جس استاد نے تمہیں دین کا علم سکھایا ہے اس کے سامنے ہمیشہ عاجزی و انکساری اختیار کرو۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کہ جس شخص نے کسی بندہ کو کتاب اللہ کی ایک آیت کی تعلیم دی ہے وہ اس کا مولیٰ ہے وہ اس کو نامراد نہ کرے اور نہ ہی اس پر اپنے آپ کو ترجیح دے۔ (مجمع الزوائد، طبرانی)

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کی عزت کیا کرو۔ کیونکہ وہ انبیاء کرام علیہم السلام کے وارث ہیں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم کا تم

پر یہ حق ہے کہ تم مجلس میں لوگوں کو بالعموم سلام کرو اور عالم کو خصوصیت کے ساتھ علیحدہ سلام کرو اور تم ان کے سامنے بیٹھو تو ہاتھوں اور آنکھوں سے اشارے بازے نہ کرو۔ پیارے اسلامی بہنو! مشہور عالم دین ابو معاویہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے خلیفہ بغداد ہارون الرشید کے ساتھ کھانا کھایا، ایک آدمی نے میرے ہاتھ دھلوائے مگر میں اسے نہ پہچان سکا، کیونکہ ابو معاویہ نابینا تھے، ہارون الرشید نے مجھ سے پوچھا جانتے ہیں آپ کے ہاتھ کس نے دھلوائے تھے؟ میں نے کہا میں اسے نہیں جان سکتا ہارون الرشید نے بتایا کہ آپ کی علمی و فقہی عظمت کے پیش نظر میں نے ہی آپ کے ہاتھ دھلوائے ہیں۔

علماء کرام فرماتے ہیں کہ نیک آدمی نے اپنے بیٹے کو ایک استاد کے سپرد کیا کہ وہ اسے قرآن مجید پڑھا دے۔ ابھی اس کے بیٹے نے صرف سورہ فاتحہ ہی پڑھی تھی کہ باپ نے چار ہزار دینار شکر یہ کے طور پر بھیجے۔ استاد نے کہا کہ ابھی آپ نے دیکھا کیا ہے کہ اتنی مہربانی فرمائی ہے اس پر اس لڑکے کے والد نے کہا آج کے بعد میرے لڑکے کو ہرگز نہ پڑھانا کیونکہ کہ تمہارے دل میں قرآن پاک کی عزت و عظمت نہیں ہے۔

اسی طرح ایک اور روایت ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے حماد نے جب اپنے استاد سے سورہ فاتحہ پڑھ لی تو امام اعظم نے معلم کو ایک ہزار درہم عطا کئے معلم نے امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ سے کہا میں نے ایسا کون سا بڑا کام کیا ہے کہ اتنی بڑی رقم عطا فرمائی ہے امام اعظم نے فرمایا کہ آپ نے میرے بچے کو جو پڑھایا ہے وہ بہت بڑی دولت ہے خدا کی قسم اگر میرے پاس اس سے بھی زیادہ رقم ہوتی تو میں وہ بھی بے تامل آپ کی نذر کر دیتا۔

میری محترم اسلامی بہنو! اساتھ کی تعظیم و تکریم اور اطاعت کرنا ہر شاگرد پر واجب ہے، ادب کے بغیر علم تو شاید حاصل ہو جائے لیکن فیضان علم انوار علم اور برکات

علم اور استاد کی پر خلوص دعاؤں سے انسان یقیناً محروم رہتا ہے۔ جس نے بھی اپنے استاد کو کسی قسم کی بھی اذیت و تکلیف پہنچائی وہ علم کی برکت اور رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ باب مدینہ العلم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں! کہ جس نے مجھے علم کا ایک حرف بھی سکھایا، میں اس کا غلام ہوں اگر وہ چاہے تو مجھے بیچ دے، اگر چاہے تو مجھے آزاد کر دے اور اگر چاہے تو مجھے غلام بنائے رکھے۔

پیاری اسلامی بہنو! درس و تدریس اور تعلیم و تربیت تعمیر انسانیت کا ایک پاکیزہ عمل ہے اس لئے تمام طلباء پر لازم ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کرام کے درس و سبق اور تمام باتوں کو نہایت غور سے سنیں اور ان پر فوراً عمل کریں اور استاد کے سامنے ہمیشہ خاموشی اور ادب و احترام کے ساتھ بیٹھیں، جہاں بھی استاد کا ذکر آئے تو ان کا نام عزت و احترام کے ساتھ لیں اور ان کا ذکر ہمیشہ اچھے الفاظ میں کریں اور ان کے حق میں دعائے خیر کرتے رہیں۔ استاد کو سلام کرنے میں پہل کریں ساتھ چل رہے ہوں تو ان کے آگے نہ چلیں اور اگر استاد کی خدمت کرنے کا موقع ملے تو بالکل انکار اور کوتاہی نہ کریں بلکہ استاد کی خدمت کرنا اپنے لئے ایک اعزاز اور سعادت سمجھیں۔

علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص کے تین والد ہوتے ہیں ایک حقیقی والد، دوسرا استاد اور تیسرا سر ہوتا ہے اور ان تینوں میں استاد کا درجہ سب سے بلند ہوتا ہے سر اپنی لخت جگر کو پالتا ہے اس کی پرورش کرتا اور پھر اپنے داماد کے سپرد کر دیتا ہے اور والد حقیقی اپنے بچے کو آسمان سے زمین پر لانے کا موجب ہوتا ہے یعنی اس کی پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے اور استاد اپنی تعلیم و تربیت سے اسے زمین سے آسمان تک پہنچا دیتا ہے اور علم و عمل کا زیور اسے عطا کرتا اور دین و دنیا میں اسے ایک کامیاب انسان بنا دیتا ہے اس لئے استاد کا درجہ سے سے بلند تر ہے۔

علامہ منادی فرماتے ہیں کہ جو شخص لوگوں کو علم سکھائے وہ بہترین باپ ہے



کیونکہ وہ بدن کا نہیں روح کا باپ ہے۔ شیخ ابراہیم بن اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ طالب علم کو استاد کی مسند پر نہیں بیٹھنا چاہئے۔ طالب علم کو استاد کے بہت قریب نہیں بیٹھنا چاہئے۔ طالب علم مکان کا دروازہ نہ کھٹکھٹائے بلکہ صبر کرے یہاں تک کہ استاد خود باہر نکل آئیں۔

معلم کی تعظیم و تکریم کے لئے اس کے آگے نہیں چلنا چاہئے۔ طالب علم کو چاہئے کہ استاد کی ناراضگی سے خود کو بچائے۔ جس نے بھی اپنے استاد کو کسی قسم کی اذیت پہنچائی وہ علم کی برکات سے محروم رہ جاتا ہے۔

میری پیاری اسلامی بہنو! ایک خاص بات یہ ہے کہ جس استاد نے آپ کو ایک دن بھی پڑھایا بلکہ ایک حرف بھی پڑھایا تو وہ عمر بھر آپ کا استاد رہے گا۔ اگرچہ بعد میں اس استاد سے آپ کا سلسلہ تعلیم منقطع بھی ہو جائے لیکن سلسلہ نسبت یعنی تلمذ ساری زندگی قائم و دائم رہے گا خلاصۃ الکلام یہ ہے کہ طالب علم پر لازم ہے کہ وہ استاد کا ادب واحترام کرے اور استاد کے حقوق کی محافظت کرے اور حتیٰ الوسع استاد کی خدمت و اعانت کرے، کیونکہ استاد کا رتبہ بہت عظیم اور بلند ہے اور علماء کرام کی تصریحات کے مطابق استاد کا حق اور مقام و مرتبہ تو والدین سے بھی بڑھ کر ہے جو طالب علم صدق دل اور خلوص نیت سے اپنے اساتذہ کرام کی خدمت اور عزت و احترام کرتا ہے تو اسے دوسرے طالب علموں پر سبقت و فوقیت حاصل ہوتی ہے اور دین و دنیا میں برکتیں اور سعادتیں ملتی ہیں۔

میری پیاری اسلامی بہنو! دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اساتذہ کرام کا ادب واحترام اور ان کے حقوق و فرائض پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

(آمین ثم آمین)

الحمد للہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، آپ سے بھی اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی مدنی التجاء ہے، عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی قافلے بھی سنتوں کی تربیت کے لئے قریہ قریہ، شہر شہر، ملک بملک سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر پر آمادہ کیجئے اور انہیں تیار کر کے مدنی مرکز بھیج دیجئے۔ آپ کے شفقت فرمانے سے اگر آپ کا کوئی عزیز مدنی قافلے کا مسافر بن گیا تو اُس کے ساتھ ساتھ آپ کی سینہ بھی مدینہ بن جائے گا۔

خوش نصیب اسلامی بہنیں فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات پر عمل کرتی ہیں۔ آپ بھی ۶۳ مدنی انعامات کا کارڈ حاصل کیجئے اور روزانہ اُسے پُر کرنے کا معمول بنائیے اور ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنی حلقہ ذمہ دار اسلامی بہن کو جمع کروا دیجئے۔ ان شاء اللہ عزوجل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لئے کڑھنے کا ذہن بنے گا۔

ہر اسلامی بہن اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے ہے۔ ان شاء اللہ عزوجل

اپنی اصلاح کے لئے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے۔ ان شاء اللہ عزوجل اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی سر بلندی کے لئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دعوتِ اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرمائے۔

اٰمِیْنُ بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْنِ

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَعَلٰی اٰلِہٖ وَاَصْحَابِہٖ اَجْمَعِیْنِ

## بدعت کا صحیح معنی و مفہوم

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ  
أَمَّا بَعْدُ فَاَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ  
الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ

### ﴿فضیلت دوروپاک﴾

حجۃ الاسلام حضرت امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب مکاشفۃ القلوب میں ایک حدیث پاک نقل کی ہے کہ آقائے نامدار، دو عالم کے مالک و مختار باذن پروردگار (عزوجل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم) کا فرمان خوشبودار ہے: اللہ عزوجل نے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرمایا ہے جس کا ایک باز و مشرق میں اور دوسرا مغرب میں اُس کا سر عرش الہی کے نیچے اور پاؤں ساتویں زمین تلے ہیں، ساری مخلوق کی تعداد کے برابر اُس کے پر ہیں میرا کوئی بھی اُمتی (مرد یا عورت) جب مجھ پر درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اُس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ عرش تلے واقع، بحر نور میں غوطہ لگائے پھر وہ فرشتہ نور کے سمندر میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر نکل کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اُس کے پروں سے گرنے والے ہر قطرے کے بدلے اللہ تعالیٰ ایک ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت تک درود بھیجنے والے کے لئے بخشش کی دعا کرتا رہتا ہے۔

(مکاشفۃ القلوب مترجم صفحہ نمبر ۴۱، مکتبہ نوریہ رضویہ سکھر)

مشكل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی

مشكل كشا ہے تیرا نام تجھ پر درود و سلام

مدكو آ گئے جب بھی پكارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِیْبِ : صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ أَحَدَّتْ فِیْ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَیْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ .

(صحیح مسلم کتاب الاقیہ)

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے دین میں ایسی نئی

چیز پیدا کرے جو اس دین میں سے نہ ہو تو وہ مردود (غیر مقبول) ہے۔

### حدیث كا مفہوم

میری پیاری اسلامی بہنو! نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین میں پیدا

ہونے والی ہر اس نئی چیز کو مردود فرمایا جو دین میں سے نہ ہو دین میں سے ہونے کا

مفہوم یہ ہے کہ وہ نئی چیز دلائل شرعیہ میں سے کسی دلیل سے ثابت نہ ہو بلکہ دلائل

شرعیہ میں سے کسی ایک کے مخالف یا کسی حکم شرعی میں تبدیلی پیدا کر دینے والی ہو دلائل

شرعیہ سے مراد (۱) کتاب اللہ، (۲) سنت رسول اللہ، (۳) اجماع امت، (۴) اور

قیاس شرعی ہے (قیاس شرعی یہ ہے کہ شرع شریف میں کسی مسئلہ میں کسی علت کی بنیاد

پر حکم موجود ہو لیکن کسی دوسری مسئلہ میں حکم موجود نہ ہو لیکن اس مسئلہ میں بھی وہی علت

پائی جاتی ہو تو کوئی مجتہد عالم دین اس دوسرے مسئلہ میں بھی وہی حکم بیان کر دے، جیسا

کہ ہزاروں نئے مسائل میں فقہاء اسلام نے اجتہاد کر کے احکام بیان فرمائے۔

میری پیاری اسلامی بہنو! حدیث بالا سے واضح ہو گیا کہ دین میں نئی پیدا کی گئی

ہر چیز مردود نہیں ہے، مردود وہ نئی چیز ہے جس کی دلیل شرع شریف میں موجود نہ ہو بلکہ وہ نئی چیز دین سے متصادم ہو یا دین میں تغیر و تبدل پیدا کر دینے والی ہو۔ شارح مشکوٰۃ علامہ علی قاری مکی فرماتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: جو نئی چیز پیدا کی جائے جو کہ کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، یا آثار اصحابہ یا اجماع امت کے مخالف ہو تو وہ گمراہی ہے اور جو اچھی نئی چیز پیدا کی جائے جو ان دلائل شرعیہ میں سے کسی ایک کی مخالف نہ ہو تو وہ بُری نہیں۔ (شرح مشکوٰۃ)

یہ حدیث بدعت اور اس کی اقسام و احکام کی اصل ہے لہذا ہم بدعت کی حقیقت اور اقسام پر مختصر گفتگو کرتے ہیں۔

### بدعت کی حقیقت اور اقسام

بدعت کا معنی ایجاد اور نئی چیز ہے اور شرع شریف میں بدعت کا معنی ہے ایسی نئی چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری زمانہ میں نہ ہو، پھر بدعت کی دو قسمیں ہیں۔ بدعت حسنہ (اچھی بدعت)، بدعت سیئہ (بُری بدعت)۔

بدعت کی یہ دونوں قسمیں بخاری و مسلم کی اس حدیث سے روز روشن کی طرح واضح ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اسلام میں اچھا طریقہ ایجاد کرے اس کے لئے اس کا اجر اور اس پر عمل کرنے والے کا اجر بھی، اور جو اسلام میں بُرا طریقہ ایجاد کرے تو اس پر اس کا گناہ اور اس پر عمل کرنے والے کا گناہ بھی۔ (مشکوٰۃ)

بدعت کی یہ تقسیم بڑے بڑے محدثین و فقہانے کی ہے نیز غیر مقلدین کے نواب و حید الزمان نے ہدیۃ المہدی میں اور دیوبندیوں کے مولوی اشرف علی تھانوی نے مواعظ میلاد میں بیان کی ہے اور ہدیۃ المہدی، میں یہی تقسیم حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے بھی منقول ہے۔

بدعت حسنہ

وہ نیا مسئلہ جس کی اصل دلائل شرعیہ میں موجود ہو جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو ایک جماعت کے ساتھ نماز تراویح کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد جب لوگوں کو ایک جماعت کے ساتھ نماز تراویح پڑھتے دیکھا تو خوش ہوئے اور فرمایا یہ اچھی بدعت ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنو! ایسے ہی قرآن مجید کا کتابی صورت میں جمع کرنا، قرآن پاک کے الفاظ پر حرکات و سکنات لگانا، قرآن پاک کے مختلف زبانوں میں ترجمے کرنا، حاشیے اور تفاسیر لکھنا، حدیث اور علوم دینیہ کی ہزاروں کتابیں، دینی تعلیم کے لئے نصاب مقرر کرنا، مسجدوں میں مینار بنانا، تبلیغ دین کے جدید طریقے، محافل میلاد گیارہویں شریف، ختم قل وچہلم اور ایصال ثواب کی دیگر محافل ذکر و فکر و مجالس اصلاح و ارشاد اور ہزاروں نئے دینی کام بدعت حسنہ ہیں۔ جن میں سے بعض واجب بعض مستحب اور بعض مباح کا درجہ رکھتے ہیں۔ لہذا ہم کہتے ہیں!

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

پڑھنا صحیح ہے کیوں کہ اس کی اصل نماز میں السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ اور حضرت عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا (یا محمد پکارنا) دین میں موجود ہے اسی طرح اذان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک سن کر انگوٹھے چومنا صحیح ہے کیونکہ اس کی اصل سنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا، دین میں موجود ہے، اس طرح محافل میلاد منعقد کرنا صحیح ہے کیونکہ اس کی اصل خود اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں انبیاء کرام کی ولادت کجا ذکر کرنا دین میں موجود ہے۔

اسی طرح ختم گیارہویں، ختم قل وچہلم اور دیگر ختم جائز ہیں کیونکہ ان کی اصل دعائے مغفرت، ایصال ثواب، تلاوت قرآن، نعت خوانی، وعظ و نصیحت اور ذکر و فکر

وغیرہ دین میں موجود ہے۔

قرآن مجید کا ترجمہ لکھنا جائز ہے اگرچہ عمل نبوی و عمل صحابہ سے ثابت نہیں کیونکہ اس کی اصل قرآن کی تعلیم دین میں موجود ہے۔

میری اسلامی بہنو! یاد رہے کہ چونکہ بدعت حسنہ کی اصل شرع شریف میں موجود ہوتی ہے لہذا بدعت حسنہ درحقیقت سنت الاسلام ہے کیونکہ سنت کا ایک معنی شریعت اسلامیہ بھی ہے اور بدعت حسنہ کی اصل شریعت اسلامیہ میں موجود ہوتی ہے۔

### بدعت سیئہ

جوئی چیز جس کی اصل اور دلیل شرع شریف میں موجود نہ ہو یعنی وہ کسی عمومی قاعدے یا دلیل خصوصی سے ثابت نہ ہو سکے بلکہ وہ کسی حکم شرعی کے خلاف ہو، لیکن اس کا پیروکار اسے دین اور شریعت کا حصہ قرار دے۔

لہذا بدعت سیئہ کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے پائے جانے سے کسی حکم شرعی اور سنت اسلام کو نقصان پہنچتا ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو قوم کوئی بدعت سیئہ ایجاد کرے تو اس کی مثل سنت اٹھائی جاتی ہے، پس سنت کو تھا منا بدعت ایجاد کرنے سے بہتر ہے۔ (مسند احمد)

### اس کی مثال

جیسا کہ آج کل جنت المعالیٰ مکہ مکرمہ اور دیگر کئی قبرستانوں میں نجدیوں نے پختہ قبریں تعمیر کی ہوئی ہیں۔ مردوں پر زہریلے کیمیکل ڈال کر جلا دیتے ہیں اور جب چاہتے ہیں تو پگھلے ہوئے مردوں کی راکھ، جلی اور گلی ہوئی ہڈیاں قبروں میں سے باہر نکال پھینکتے ہیں۔ یہ سارا کفرانہ عمل حریم شریفین میں قابض نجدی علماء کی سرپرستی میں ہوتا ہے نجدیوں و ہابیوں کا یہ خبیث عمل دلائل شرعیہ سے کسی طرح بھی ثابت نہیں بلکہ مردوں کو جلا کر راکھ کر دینا ہندوؤں اور سکھوں کا طریقہ ہے، یہ کفرانہ عمل مردوں کی

سخت توہین و تذلیل ہے جبکہ احادیث مبارکہ میں مسلمانوں کے اجسام کا مرنے کے بعد بھی احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

### عقائد میں بدعت سیئہ کی مثال

جیسا کہ تمام وہابی و دیوبندی و مودودی و تبلیغی فرقوں کے مسلمہ مرشد و مجدد شاہ اسماعیل دہلوی نے اپنی کتاب صراط مستقیم میں لکھا ہے اور نماز میں پیر و مرشد اور اس جیسی بڑی ہستیوں اگرچہ جناب رسالت مآب ہی ہوں کی طرف خیال لے جانا اپنی گائے اور گدھے کے خیال میں ڈوب جانے سے کئے گنا زیادہ برا ہے۔ (الْعِيَاذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَلِكَ)

### کیا جشن میلاد اور ختم کے لئے تاریخ مقرر کرنا دین میں اضافہ ہے؟

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس اور سیرت طیبہ بیان کرنے یا حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ختم دلانے کے لئے تاریخ مقرر کی جائے تو وہابی مولوی تاریخ مقرر کرنے کو بھی بدعت اور دین میں اضافہ قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ وہابی مولوی خود اپنے ہزاروں تعلیمی و تبلیغی پروگراموں کے لئے تاریخ وقت اور ٹائم خود مقرر کرتے ہیں تو کیا پھر یہ لوگ بدعت اور دین میں کمی و بیشی کا ارتکاب کرتے ہیں اس منہ توڑ الزامی جواب کے بعد تحقیقی جواب یہ ہے کہ جن عبادات کا وقت شرع شریف میں مقرر کر دیا گیا ہے کہ جن عبادات کا وقت شرع شریف میں مقرر کر دیا گیا ہے جیسا کہ روزہ رمضان ایسی عبادات کا وقت آگے پیچھے کرنا یقیناً دین میں کمی بیشی اور بدعت سیئہ ہے اور جن عبادات کا وقت شرع شریف نے مقرر نہیں کیا جیسے تعلیم دین تبلیغ اسلام، دعا و ایصال و ثواب نکاح مسنون، درود شریف ذکر میلاد تو ایسے امواخیر کا وقت مقرر کرنا بندوں کے لئے جائز ہے جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما نے وعظ و تبلیغ کے لئے



جمعرات كا دن مقرر كر سكتے ہيں۔

ہر بدعت گمراہی ہے كا مفہوم

میری اسلامی بہنو! دیوبندی وہابی علماء سب سے زیادہ اس حدیث كا غلط مفہوم بیان كر كے مسلمانوں كو گمراہ كرتے ہيں اور كہتے ہيں كوئی بدعت حسنہ نہيں ہوتی، حدیث كی رو سے ہر بدعت گمراہی ہے اور جہنم میں لے جانے والا ہے۔

اس كا الزامی جواب یہ ہے كہ دین میں اگر ہر نئی چیز بدعت سیئہ و گمراہی ہے تو پھر وہابی مولویوں پر لازم ہے كہ مساجد، مدارس اور تعلیم و تبلیغ كے جدید انداز ختم كر دیں۔

قران پاك كے ترجمے اور تفسیر و حدیث كی لاکھوں كتابیں ختم كر دیں، نیز اپنی تنظیموں، مدرسوں مسجدوں اور تبلیغی پروگراموں كے نئے نئے جو عمل نبوی و عمل صحابہ سے ثابت نہيں بھی ختم كر دیں اور اپنی تبلیغ پر خود عمل كر كے دکھائیں اور صرف وہی كام كر یں جو عمل نبوی صحابہ سے ثابت ہيں۔ اگر كچھ نوجوان وہابی مولویوں پر یہ سوالات برسر عام اجتماعات میں پیش كر یں۔ تو انشاء اللہ بدعت كا غلط مفہوم بیان كرنا چھوڑ دینگے اور ایک بڑا فتنہ ختم ہو جائے گا۔

میری بہنو! اس كا تحقیقی جواب یہ ہے كہ حدیث **بِأَكْثَرِ بُدْعَةٍ ضَلَالَةٍ** میں باجماع محدثین و شارحین حدیث بدعت سیئہ مراد ہے اور معنی حدیث ہے ہر بری بدعت گمراہی ہے كیونكہ ان الفاظ سے پہلے فان كل محدثه بدعه كے الفاظ ہيں۔ جن كا معنی ہے دین میں ایسی پیدا كی ہوئی ہر وہ چیز جس كی اصل و دلیل دین میں نہيں بدعت ہے اور ہر ایسی بدعت یعنی بدعت سیئہ گمراہی ہے۔

یا پھر اس حدیث میں بدعت سے گمراہ فرقوں خارجیوں، رافضیوں، مرزائیوں، اور وہابیوں وغیرہ كے گستاخانہ عقائد و نظریات مراد ہيں اور **بِأَكْثَرِ بُدْعَةٍ ضَلَالَةٍ** كا معنی ہے دین میں پیدا ہونے والا ہر نیا عقیدہ گمراہی ہے۔

الحمد للہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مہکے مہکے مدنی ماحول میں بکثرت سنتیں سیکھی اور سکھائی جاتی ہیں، آپ سے بھی اسلامی بہنوں کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی مدنی التجاء ہے، عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی قافلے بھی سنتوں کی تربیت کے لئے قریہ قریہ، شہر شہر، ملک بملک سفر کرتے رہتے ہیں، آپ بھی اپنے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر پر آمادہ کیجئے اور انہیں تیار کر کے مدنی مرکز بھیج دیجئے۔ آپ کے شفقت فرمانے سے اگر آپ کا کوئی عزیز مدنی قافلے کا مسافر بن گیا تو اُس کے ساتھ ساتھ آپ کا سینہ بھی مدینہ بن جائے گا۔

خوش نصیب اسلامی بہنیں فکر مدینہ کرتے ہوئے مدنی انعامات پر عمل کرتی ہیں۔ آپ بھی ۶۳ مدنی انعامات کا کارڈ حاصل کیجئے اور روزانہ اُسے پُر کرنے کا معمول بنائیے اور ہر مدنی ماہ کے ابتدائی دس دن کے اندر اندر اپنی حلقہ ذمہ دار اسلامی بہن کو جمع کروا دیجئے۔ ان شاء اللہ عزوجل اس کی برکت سے پابند سنت بننے، گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لئے کڑھنے کا ذہن بنے گا۔


ہر اسلامی بہن اپنا یہ مدنی ذہن بنائے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنے ہے۔ ان شاء اللہ عزوجل اپنی اصلاح کے لئے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لئے گھر کے مردوں کو مدنی قافلوں میں سفر کروانا ہے۔ ان شاء اللہ عزوجل اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام کی سر بلندی کے لئے نیکی کی دعوت عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دعوتِ اسلامی کو دن گیارہویں رات بارہویں ترقی عطا فرمائے۔

اٰمِيْنُ بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِيْنِ

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَىٰ اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ اَجْمَعِيْنَ



# ہماری چند دیگر مطبوعات



اکبر کتب خانہ

پبلسٹیونگ سنٹر ۴۰ اردو بازار لاہور Ph: 042 - 37352022